

READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

سرگھر گالری

Online Library For Pakistan

کلی

ماہنامہ

دستِ بزمِ نو

November  
2015



READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

READING SECTION

Online Library For Pakistan

WWW.PAKSOCIETY.COM

READING  
Section

WWW.PAKSOCIETY.COM

☆ نامور مصنفہ رفعت سراج کا شاہکار ناول "دائم دل" اندرونی صفحات پر ملاحظہ فرمائیں



بانہی  
سہام مرزا



ماہنامہ  
دوسری شہزادہ  
کراچی

مؤسسہ  
مؤسسہ سہام  
رضوانہ سہام  
قانونی  
آکرم ٹیکس ایڈوائزر

مخدوم ایف  
جی ایف  
رضوانہ سہام  
قانونی

MEMBER  
OF  
CPNE

خط و کتابت کا پتہ

88-C II - فرسٹ فلور - خیابان

جامی کمرشل - ویفنس ہاؤسنگ اتھارٹی - فیز-7، کراچی

فون نمبر: 35893122 - 021-35893121

ای میل: [pearpublications@hotmail.com](mailto:pearpublications@hotmail.com)

☆ نیچر سروس کولیشن: محمد اقبال زمان ☆ عہدہ: نایب مدیر / مرزا محمد یاسر









# زلزلہ

دکھ.....!

غم.....!

درد.....!

اور

مصیبت.....!

کے اس وقت میں ہم اپنے قارئین، لکھاریوں

، ایجنٹ حضرات سمیت ہر اہل وطن زلزلہ

متاثرین کے ساتھ ہیں۔

ادارہ اور اراکین ماہنامہ سچی کہانیاں، ماہنامہ دوشیزہ

READING  
Section





## بڑی خبر چھوٹی ذہنیت

ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ قہر خداوندی سے بھی خوف زدہ نہیں..... سوچیے ہم اپنے رب کی ناراضگی سے بھی پشیمان نہیں..... ناگہانی آفات قہر خداوندی نہیں تو کیا ہے؟ یہ سیلاب، زلزلے، آگ اور ان سے ہونے والی ناگہانی اموات جو کسی بھی لمحے کسی کو بھی کہیں بھی دبوچ لیتی ہیں۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی نعمت جس کا کوئی نعم البدل نہیں مگر ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کی بھی قدر نہیں کرتے ہیں کسی کے دکھ اور پریشانی کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جس رات ٹی وی پر زلزلے کی خبر چل رہی تھی۔ اینکر نے کہا پاکستان کے شمالی علاقوں میں زلزلے نے تباہی مچا دی ہے ہلاکتوں کے بڑھنے کا اندیشہ اور دوسری بڑی خبر پاکستان نے کرکٹ میچ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے اور میں بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح حیران اور پریشان بیٹھی رہی اور اب تک نہیں سمجھ پائی کہ بڑی خبر اور چھوٹی ذہنیت میں کتنا فرق ہے۔

منزہ سہام



## قارئین کے نام کھلا خط



محترم قارئین!

”مسئلہ یہ ہے“ کا سلسلہ میں نے خلقِ خدا کی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ سچی کہانیاں کے اولین شمارے سے یہ سلسلہ شاملِ اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پر تحریر و تجویز کردہ وظائف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیاتِ قرآنی اور ان کی روحانی طاقت نے حیران کر دینے والے معجزے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے بزرگ و برتر سے ہر پل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے دکھی بچے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روزگار کو بروئے کار لاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزقِ حلال کما سکیں۔

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے کچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ ٹھکرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبار ایک طرف کر دیے۔ مگر اب..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کر جاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے..... آئیے اور اپنے بابا جی کا ساتھ دیجیے.....

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائیے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا درد محسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم..... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔



# دوشیزہ کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ، خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

بہت پیارے دوستو! آپ سب کو اپنی میزبان رضوانہ پرنس کا سلام قبول ہو۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب لوگ۔ دیکھیے ایک ماہ کیسے پلک جھپکتے گزر گیا اور ایک بار پھر خوبصورت تحریروں سے مہکتا ہوا دوشیزہ ڈائجسٹ آپ کے ہاتھوں میں مسکرا رہا ہے ویسے دوستو! اس خوبصورت فیکٹ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ مسکراہٹ انسان کی شخصیت کو مکمل کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے۔ ایک بے حد سنجیدہ اور بیزار اور منہ بنائے ہوئے شخص کے مقابلے میں ایک مسکراتا ہوا مہربان سا چہرہ خود بخود لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔

کتنا اچھا لگتا ہے ایک عام سا چہرہ بھی  
ایک محبت بھرا تبسم لب پہ لانے سے

ٹوڈیز فرینڈز خود خوش رہیے اپنے اطراف خوشیاں بانٹنے اور چہرے پر ایک پیاری سی مسکان سجا کر لوگوں سے ملیے یقین جانیے زندگی خود بخود خوبصورت لگنے لگی گی اور ہاں جناب دوشیزہ کا سالگرہ نمبر جنوری میں آ رہا ہے ہمیں امید ہے کہ اپنی تحریروں کے ذریعے آپ لوگ اس کی سالگرہ میں اپنی شرکت یقینی بنائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پیارے سے مہمانوں کی طرف جو پیار اور خلوص کے تحفوں کے ساتھ ہمارے منتظر ہیں۔

ہماری پہلی پیاری مہمان ہیں کراچی سے شگفتہ شفیق ڈیز اچھی پیاری رضوانہ السلام علیکم بے حد حسین ٹائٹل کے ساتھ اکتوبر کا دوشیزہ کا شمارہ ملا۔ پڑھ کے دل باغ باغ ہو گیا، بہترین افسانے، ناول اور ناولٹ سے سجاد دوشیزہ ہمیشہ سے زیادہ پسند آیا۔ باتیں ملاقاتیں کے تحت سارے موضوعات بہت عمدگی سے سیٹ کیئے گئے تھے دوشیزہ میگزین بھی خوب رہا۔ لیکن منزہ سے شکایت ہے کہ وہ ایسے اموشنل ادارے نہ لکھیں پلیز کہ خواہ مخواہ میں دل کو کچھ کچھ ہونے لگے۔ یار کاش کہ ہم سب مل کر ہی کوئی حل نکال سکتے تو کتنا اچھا ہوتا لیکن عام عوام کے مقابلے میں بڑا سٹیبلیشنمنٹ ہے تو ہاں ہی فی الحال ابھی اپنا مقدر بنی جا رہی ہے۔ بہر حال منزہ میرے دل میں تو درد جگانے میں کامیاب رہی ہیں۔ دعا ہے کہ حکومت کے کان پر بھی جوں رینگے (آمین) ایک خوشی کی خبر میں اپنے پیارے دوستو اور قارئین و شامل کرنا چاہتی ہوں کہ ۱۸ اکتوبر کو میرے بیٹے کا نکاح میرے تایا زاد بھائی کی بیٹی کے ساتھ انجام پایا۔ فی الحال نکاح ہوا ہے رخصتی کچھ عرصے کے بعد ہوگی انشاء اللہ۔ کنزل کی شادی اور فرخ کے نکاح کا تصویری احوال بھیج رہی ہوں کہ بہت لوگوں نے تصاویر کی فرمائش کی ہے۔ اپنی نئی غزل بالکل تازہ کلام بھی حاضر ہے۔ سارے پیارے دوستو کی مبارک بادوں کا بہت شکریہ اور سلام، دل سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ اللہ اپنے فضل سے نوازے (آمین) اب اجازت اللہ حافظ۔

بھ: پیاری سی شگفتہ! ہمیں امید ہے کہ قارئین شادی کی ان پیاری پیاری تصاویر کو بہت پسند کریں گے ہم



سب کی طرف سے اپنے دونوں بچوں کی نئی زندگی کی شروعات پر ایک بار پھر ڈھیر ساری مبارکباد۔  
✉: شینا گل راولپنڈی سے ہماری مہمان بن کر آئیں ہیں رضوانہ پرنس جی میں ایک نئی رائیٹر ہوں  
یا کیزہ میں میرے دو افسانے شائع ہو چکے ہیں اور اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوشیزہ کے لیے بھی کچھ  
لکھوں۔ میں نے آپ کے متعلق بہت اچھا سنا ہے کہ آپ نے رائیٹرز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں پلیز مجھے  
بتائیں کہ کیا اسٹوری لکھنے کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گی۔  
کھ: بہت پیاری شینا۔ ارے بھئی اس میں پوچھنے کی بھلا کیا بات ہے۔ بس فنانٹ اپنے افسانے ہمیں بھجوا  
دو اور ہر اچھی تحریر اپنا آپ خود منوالتی ہے اسے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی بس تم بھی اس شعر کی تفسیر بن  
جاؤ۔

پھول کو شور مچاتے کبھی دیکھا ہے قمر  
تم ہو خوشبو تو بتانے کی ضرورت کیا ہے

✉: دانیہ آفریں امتیاز کراچی سے پہلی بار ہم سے ملنے آئیں ہیں۔ رضوانہ جی السلام وعلیکم پہلی بار آپ  
کی محفل میں شریک ہو رہی ہوں میں نے ابھی حال ہی میں لکھنا شروع کیا ہے۔ میرے آٹھ افسانے اور ایک  
ناولٹ دو مختلف ڈائجسٹوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اب میں دوشیزہ کے لیے کچھ لکھنا چاہتی ہوں لیکن ایچوولی  
میں آپ کو اپنی تحریریں بھجواتے ہوئے کچھ کنفیوز ہو رہی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ دوشیزہ میں رسپانس بہت  
ہی دیر سے ملتا ہے۔ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔

کھ: ڈیر رانیہ محفل میں خوش آمدید یقیناً جانے ہم نئی رائیٹرز کی دل سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں آپ فوراً  
اپنی تحریریں ہمیں ارسال کر دیں اور ہاں سنی سنائی باتوں پر یقیناً نہ کیجیے ہم کتنی جلدی رسپانس دیتے ہیں یہ تحریر  
بھیجنے کے بعد آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا۔

✉: اور یہ ہیں ہماری چھوٹی سی کیوٹ سی دوست ماہین خاور جو سیالکوٹ سے ہمیں لکھ رہی ہیں۔ بہت  
پیاری رضوانہ باجی میں نے اپنے خط کا جواب پتا نہیں کتنی بار پڑھا اور ہر بار ایک نئی خوشی دل میں اترتی محسوس  
ہوئی تھینک یو رضوانہ باجی اب میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ اس بار دوشیزہ میں فواد خان کا انٹرویو  
بہت اچھا لگا لیکن کاش یہ کچھ اور تفصیلی ہوتا۔ ناولٹ محبت درد دیتی ہے مجھے پسند آیا اور افسانے تو سب ہی  
بہترین تھے۔ ندا حسنین کی ایک ملاقات اور ماہوش طالب کی چال خاص طور پر اچھی لگیں۔ بڑے وہ ہیں والی

## برائے قانونی مشاورت

جی ایم بھٹولاء ایسوسی ایٹس

ایڈوکیٹ اینڈ اٹارنیز

رابطہ: 021-35893121-35893122

Cell: 0321-9233256



زینی کی طرح ایک خاتون کو میں بھی جانتی ہوں بس اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو۔ رضوانہ باجی دیکھے خوشی میں تبصرہ بھی اچھا لکھا ہے نا.....؟

کھ: ماہین بیٹا! تمہاری معصوم سی خوشی دیکھو تو سہی پوری محفل میں ایک بہاری لے آئی ہے۔ جیتی رہو۔  
 ✉: کراچی سے ریحانہ مجاہد مسکراتے ہوئے ہم سے کہہ رہی ہیں ڈیئر رضوانہ پرنس السلام وعلیکم اکتوبر کا شمارہ پوری آب تاب کے ساتھ ملا۔ اس شمارے کی جگمگاہٹ نے بتا دیا کہ آپ لندن سے واپس آ گئیں ہیں۔ ورنہ پچھلے شماروں میں کچھ کئی کا احساس ہو رہا تھا جو اب نہ تھا۔ رفعت سراج اور ام مریم کے ناولٹ اپنی کشش برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ افسانوں کی سلیکشن نے دل موہ لیا خاص طور پر ندا حسنین کا افسانہ ایک ملاقات بہت عمدہ رہا۔ باتیں ملاقاتیں میں اپنی پسندیدہ اداکارہ ارتج فاطمہ اور اداکار فواد خان کے بارے میں پڑھ کر بہت اچھا لگا۔ نئے لہجے کی غیر حاضری محسوس ہوئی خاص طور پر انزاقوی کی غزل یا نظم کی۔ پیاری رضوانہ آپ کو اور منزہ کو اور تمام اسٹاف کو سلام اور دعا۔

کھ: اچھی ریحانہ! ہماری اور منزہ کی پوری کوشش ہے کہ دو شیزہ خوب سے خوب تر ہو جائے۔ اور تم لوگ اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھو۔ نئے لہجے کی غیر حاضری پر معذرت اس ماہ تمہیں تمہاری فیورٹ انزا نظر آ رہی ہیں نہ؟

✉: آئیے ملتے ہیں نو ذیہ احسان رانا سے جن کے ناول کی آخری قسط آپ اس ماہ پڑھیں گے السلام وعلیکم رضوانہ پرنس آپ کیسی ہیں آپ۔ اکتوبر کا ڈائجسٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ ٹائٹل بہت خوبصورت ہے محبت درودیتی ہے فلزا اور شیزہ کی کہانی۔ اُف اتنا متکبرانہ انداز فلزا کا۔ انجام پہلے ہی پتا تھا، نسیہ سعید ایک بڑا نام ہے نسیہ کا دو شیزہ میں آنا خوش آئند بات ہے بینا عالیہ ٹوانہ کا ناول اختتام پذیر ہوا اچھی اینڈنگ تھی۔ ام مریم منجھی ہوئی لکھاری ہیں۔ بہترین انداز بیان کے ساتھ ناول آگے بڑھاری ہے۔ رفعت سراج کی تعریف کرنا تو گویا سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے ارج گل رانا کے ناولٹ نے زلا کر رکھ دیا۔ عمودی چٹان، چال اور بڑے وہ ہیں اچھی تحریریں ہیں۔ ندا حسنین پہلی بار ایک ملاقات کے ساتھ آئی اور چھاگئی سلماں اور کہکشاں کے جذبات کی ان کے جلن اور حسد کی جس طرح ندا نے تصویر کشی کی ویلڈن ڈیئر اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ہم بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے مجھے آج کہہ لینے دیجئے کہ میں نے سنبل اور رضیہ مہدی کی تحریریں جب جب پڑھیں میں متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی مگر میں سنبل کو کبھی نہیں بتا پائی کہ ان من موہنی سی دو شیزہ کی تحریریں مجھے بہت پسند ہیں۔ مجھے رضیہ مہدی کو بھی بتانا ہے کہ ہمیشہ میں نے وہ درد محسوس کیا جو آپ کی کہانی کی عورت سہتی ہے اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ فریدہ فری ڈیئر بہت شکریہ اتنی محبت کا۔ میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہونے لگی۔ صفیہ سلطانہ مغل کیسی ہیں آپ، بیٹے کی شادی بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے لمحوں نے خطا کی تھی کے حوالے سے کچھ کہنا ہے یہ میرا دوسرا طویل ناول ہے میرا پہلا ناول ابھی ادھورا ہے تو وجہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی میں میری دلچسپی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اُجالا، فاخرہ کا کردار میرا پسندیدہ کردار ہے۔ فاخرہ کے جذبات اس کے دکھ مجھے بھی اتنا ہی آرزو کرتے رہے جتنا فاخرہ رنجیدہ تھی بنیادی طور پر یہ مکافات عمل کی کہانی تھی کچھ لوگ دوسروں کی زندگیوں کے



فیصلے اپنے ہاتھوں لکھنے لگ جاتے ہیں رحمان بھی ایسا ہی کینہ پرور انسان تھا جس نے اجالا سے سب کچھ چھین لیا مگر بھول گیا کہ تقدیر لکھنا انسان کا نہیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے امن ٹھوکر کھا کر گری تو ملال اور پچھتاؤں میں گھر گئی فاخرہ کی صورت اُسے میجا مل گیا وہ ہدایت پا گئی فروہ غلط راہوں کی مسافر بنی تو اسے ہدایت نصیب ہوئی۔ موت اس کا مقدر بن گئی۔ فاخرہ کی اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی نے اسے جینی عورت بنا دیا اس نے صبر کیا بہت صبر کیا اللہ نے اس کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا دیا۔ اس سے بڑا اجر اور کوئی نہیں ہوتا فاخرہ سرخرو ہوئی فاروق ترمذی کو محبت کی آہ لگ گئی۔ محبت نے اُسے معاف کر دیا۔ سب کردار اپنے انجام کو پہنچے۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں دوشیزہ کے مدیر کاشف چوہان کی جنہوں نے میری صلاحیتوں پر بھروسہ کیا میں بہت محبت سے شکر یہ ادا کرنا چاہوں گی۔ سدرہ مرتضیٰ کا جس نے میری ہر قسط پڑھ کر اسپیشلی مجھے بتایا سراہا۔ رضوانہ کوثر، خولہ عرفان، نقیہ سعید، فریدہ فری، مسزنوید ہاشمی، ندا حسنین، فہیم انجم، فریحہ شبیر، سنبل، فرح عالم، صدف آصف، منعم اصغر، جس نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر میری تحریر پڑھی میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ رضوانہ پرنس اور کاشی چوہان سب پڑھنے والوں کو میرا مودبانہ سلام اجازت چاہوں گی۔

بھ: ڈیئر فوڈیہ! آپ کا ناول قارئین نے پسند کیا اس کے لیے مبارک باد۔ امید ہے آئندہ آپ کی تحریریں ہمیں موصول ہوتی رہیں گی۔

✉ اور یہ ہیں ہماری بے حد پیاری رائیٹر سعدیہ عزیز آفریدی جو بہت عرصے سے بعد ملنے آئی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ پرنس اتنے عرصے بعد ملے تو محسوس ہوا تھا شاید محبت کے انداز میں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑا ہوگا لیکن جس طرح تم نے گلے لگایا اور دوشیزہ میں لکھنے کے لیے نئے سرے سے اُکسایا وہ اچھا لگا دوشیزہ ہے میرا رشتہ پرانا نہ سہی، لیکن عزت اور ساتھ نبھانے کا ہے۔ اب میں کم لکھ رہی ہوں لیکن دوشیزہ کے لیے ضرور لکھتی رہوں گی۔ سب اپنے پرانے لکھنے والوں کو بہت سلام اور دعائیں میری دعا ہے کہ سہام صاحب اور اب منزہ کا لگایا ہوا یہ درخت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔

بھ: بہت پیاری دوست ہم سب تمہیں دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور قارئین کے لیے یقیناً یہ خوشی کی خبر ہے کہ اب انہیں دوشیزہ میں تمہاری تحریریں پڑھنے کو ملا کریں گی اور ہم نے اپنی دوست کو ہی نہیں ایک رائیٹر کو بھی گلے لگایا تھا جو نہ جانے قلم سے کیوں ناطہ توڑے بیٹھی تھی۔

✉ ہماری پیاری مصنفہ شمیم فضل خالق اپنے پیارے سے تبصرے کے ساتھ محفل میں موجود ہیں۔ ڈیئر رضوانہ پرنس سدا خوش رہیے۔ السلام وعلیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی ہمیشہ تو میں کاشی کے نام خط لکھا کرتی تھی لیکن جب پچھلی بار آپ نے محفل میں میرے خط کا جواب دیا تو میں نے سوچا کہ اب خط آپ کے نام لکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ لندن سے آچکی ہوں گی۔ اب ذرا دوشیزہ پر تبصرہ ہو جائے۔ فہد مرزا سے سوال جواب دلچسپ رہے۔ اے آروائی کے پروگراموں پر ہر ماہ تبصرہ ہوتا ہے۔ رضوانہ..... بے چارے ہم نے کیا قصور کیا ہے اس کے پروگراموں کو کسی مہینے اپنے اوراق کی زینت بنائیے نا.....؟ اتنے اچھے ڈرامے ہوئے ہیں اُس کے، رفعت سراج کا ناول 'دام دل' خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر ماہ پڑھنے والوں کو اس کا انتظار رہتا ہے رومیہ خان کا افسانہ تھینک یو اللہ میاں، بہت اچھا لگا۔ ام مریم کا ناول رحمان رحیم



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسجے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan




Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](http://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety](http://twitter.com/paksociety)





# دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ

آپ کی نظر میں اس ماہ 'دوشیزہ' کی بہترین تحریر کون سی ہے؟

نومبر 2015

دوشیزہ

**Downloaded From**


**Paksociety.com**

عنوان:

قلم کار:

نام:

پتہ:





سدا سائیں ہر قسط میں اپنی دلچسپی قارئین کے دلوں میں بڑھانی ہے زمر نعیم ہمیشہ اچھا لکھتی ہیں اس بار بھی بہت اچھا لکھا۔ الماس روجی کا افسانہ، بڑے سرکار، بہت پسند آیا..... کیا سچی تصویر کشی کی ہے مستقبل کی..... واقعی آخر میں بندہ سرکار نہیں رہتا بس بڑا ہوتا ہے۔ حنا بسری کا بحر آگہی، دلچسپ تو تھا لیکن حوریہ کا کردار قدرے کتفیوز کر دیتے والا تھا۔ وہ حمزہ پر ویسی سختی نہیں کر رہی تھی جو کرنی چاہیے تھی، راحت و فارا چپوت کا افسانہ پاگل آنکھوں والی لڑکی میں محبت کی خوبصورتی نمایاں ہے۔ تیرے عشق نچایا زبردست ناول تھا جو دوشیزہ کے ہر شمارے کی جان ہوا کرتا تھا میرے سمیت ہر پڑھنے والے کو ہر ماہ دوشیزہ کا انتظار اس ناول کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ اس ناول کا نعیم زبردست تھا۔ یعنی کے بندے پر خدا کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے اور یہ صرف بیٹا صرف اور صرف تمہارے قلم کی جادوگری ہے۔ اگر تم تنقید کے ڈر سے لکھنا چھوڑ دو گی تو یہ تمہاری ہار ہوگی..... تم لکھو..... اپنی قلم کی خوبصورتیاں بکھیرو..... تنقید سے مت گھبراؤ۔ باقی افسانے رہ گئے ہیں، معذرت۔ مکمل ناول بھیج رہی ہوں پلیز جلدی شائع کر دیجیے۔ شکر یہ۔ رخسانہ سہام مرزا، منزہ سہام، کاشی چوہان سب کو میرا سلام۔

بھ: شمیم جی! آپ کا یہ تبصرہ ایک ماہ پرانا ہے اس ماہ کے رائیٹرز کو منانا اب آپ کا کام ہے آپ کا مکمل ناول بہت ہی جلد دوشیزہ کی زینت بنے گا۔

✉: منعم اصغر ڈیرہ غازی خان سے لکھتے ہیں دوشیزہ کے پورے اسٹاف رضوانہ آپنی اور دوشیزہ کی محفل میں موجود تمام لوگوں کو میرا سلام اس بار دوشیزہ بارہ کوملا۔ ٹائٹل خوبصورت تھا سب سے پہلے دوشیزہ کی محفل میں قدم رکھا جہاں سب کے محبت ناموں نے محفل کو آٹھ چاند لگائے ہوئے تھے۔ خاص کر زمر نعیم، فرحین اظفر، (آپ کو دوشیزہ میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی آئندہ بھی آتی رہے گا) پیاری آپانفسیہ سعید، رُخ چوہدری، رضوانہ کوثر (آپ کی دعاؤں کے لیے میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے) پیاری رائیٹربینا عالیہ اور ندا حسنین کی آمد نے سچ مچ خوش کر دیا۔ باقی تبصرے بھی خوب تھے۔ نفیسہ آپا اپنے لیٹر میں میرا دل خوش کر دیا۔ آپ ہمیشہ سلامت رہیں آمیں۔ اب کہانیوں کی طرف آؤں گا۔ فہرست میں نفیسہ سعید اور ندا حسنین کو دیکھ کر خوشی ہوئی سب سے پہلے بھی انہی کو پڑھا۔ 'محبت درود دیتی ہے' فلزا اور شیزا کے گرد گھومتی ایک دلچسپ تحریر جس میں کئی سبق پوشیدہ تھے۔ ماں باپ کو شروع ہی سے اولاد کو برابر رکھنا چاہیے۔ خیر ہادی اور شیزا کوملا کر فلزا کو عقل دلا کر بہت خوبصورت اینڈ کیا۔ پڑھ کر بہت مزہ آیا مبارک باد آپا نے مجھے ہر ماہ آپ کی ایسی تحریریں دوشیزہ میں چاہیے امید ہے آپ اپنے چھوٹے سے دوست کا کہنا نہیں ٹالیں گی اب آتے ہیں ایک ملاقات کی طرف یہاں بھی ندانے کمال کر دیا میں نے آپ کو تو زیادہ پڑھا ہی نہیں مگر ایک دو تحریروں نے ہی مجھے آپ کا فین بنا ڈالا۔ اس ایک افسانے میں وہ سب کچھ تھا جو ایک کہانی میں ہونا چاہیے۔ بیٹا الفاظ کا چناؤ، منظر کشی، مکالمے اور سب ایک سے بڑھ کر ایک سبق آموز، ویلڈن ندا ابی میدان مار لیا۔ اُف تبصرہ لمبا ہو گیا مختصر یہ ہے کہ مورے پیابھی ایک خوبصورت ناول تھا دام دم اور تیرے عشق نچایا کا اینڈ خوبصورت تھا۔ اگلے ماہ کوئی نیا ناول ہوگا۔ افسانے بھی تینوں خوب تھے۔ میرا ناول اس ماہ بھی نہیں تھا پانچ ماہ ہو گئے بھیجے ہوئے، اب تو لگتا ہے کہ کبھی آئے گا ہی نہیں، میری درخواست ہے کہ جواب میں مجھے اپنے ناول کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے کہ قابل اشاعت ہے یا نہیں اب اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ دوشیزہ کے ہر



قاری و لکھاری کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوشیزہ یوں ہی ترقی کرتا رہے، جنوری میں دوشیزہ کی برتھ ڈے مبارک۔

بھ: ڈیر منعم! اگر اس ماہ تمہارا ناولٹ نہیں چھپا تو ہرگز دل چھوٹا مت کرو۔ جانتے ہو مایوسی انسان کی صلاحیتوں کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہے۔ بس تم فٹنٹ ہمیں ایک اور اچھا سا افسانہ لکھ کر بھیجو، ہم منتظر ہیں تمہارے اندر لکھنے کی صلاحیت موجود ہے پلیز اسے ضائع مت کرنا۔

✉: سعدیہ عابد کراچی سے ہماری محفل میں آئی ہیں۔ ماہ اکتوبر کے پرچے پر تبصرہ حاضر ہے۔ تمام مستقل سلسلے (دوشیزہ گلستان سے لے کر بیوٹی گائیڈ تک) ہمیشہ کی طرح خوبصورت ترین تھے۔ رفعت سراج اور مینا عالیہ کے سلسلے وار ناول بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہے ہیں مگر جہاں تک ام مریم کے ناولٹ کی بات ہے خوبصورت تحریر مگر جمود کا شکار بڑھتی ہوئی فضول طوالت کا احساس ہوتا ہے اس تحریر میں مصنفہ کے قلم کی جادوگری کے علاوہ کوئی خاص کشش محسوس نہیں ہوتی۔ اس دفعہ تمام ناولٹ ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ نفیسہ سعید کی درد بلی محبت اور فوڈیہ رانا کی لمحوں کی خطا دونوں ناولٹ بہترین تھے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو۔ افسانوں کے ذکر خیر کے بنا تبصرہ نامکمل ہی ٹھہرے گا ایک ایک افسانہ لکھاری کی محبت کا ثبوت ہے تمام افسانے خوب سے خوب تر روبینہ شاہین اور منزہ ہاشمی سب افسانوں میں بازی لے گئیں دعا ہے کہ دوشیزہ یونہی دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا قارئین کے دل میں ہمیشہ اپنا مقام قائم رکھے آئیں۔ اب اجازت چاہیں گے زندگی بخیر اگلے پرچے پر تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گے بالفرض اس ناچیز کا یہ تبصرہ دوشیزہ کی زینت بن جائے۔

بھ: پیاری سعدیہ! خوش آمدید ہمیں امید ہے کہ اس ماہ کے شمارے کے لیے بھی آپ کا تبصرہ بروقت آئے گا۔

✉: ہماری نئی رائیٹر تنزیلہ زاہد نے کراچی سے ہمیں تبصرہ بھیجا ہے۔ رضوانہ جی کیسی ہیں آپ دوشیزہ اس بار جلدی ملا۔ زمر نعیم کو اکتوبر کا ایوارڈ جیتنے پر بہت مبارکبادان کی تحریر عمدہ ہوتی ہے اور وہ اس ایوارڈ کے مستحق ہیں مہوش طالب نئی افسانہ نگار ہیں چال کی کہانی میں انہوں نے اچھا مسیج دیا ہے۔ فوڈیہ احسان کا ناولٹ اچھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے اجالا کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ نفیسہ سعید کی کہانی بھی اچھی تھی اور ہاں فواد کا انٹرویو پڑھ کر اچھا لگا۔ اب اجازت چاہوں گی انشاء اللہ اگلی بار افسانے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔

بھ: ڈیر تنزیلہ! یہ تو اچھی خبر ہے کہ اگلے ماہ آپ افسانے کے ساتھ آئیں گی۔ لکھنا شروع کر دیا نہ.....؟  
✉: ایمان علی ہماری نئی مہمان ہیں اور ہم سے پوچھ رہی ہیں۔ میں آپ کے پرچے میں افسانہ ارسال کرنا چاہتی ہوں آپ کے ادارے کے اصول و شرائط کیا لازم ہیں۔

بھ: ایمان! آپ افسانہ ضرور بھیجیں اس سے پہلے ایک بار آپ دوشیزہ میں چھپے افسانوں اور ناولٹ کو ضرور پڑھ لیجیے گا تو آپ کو خود بخود اصول و شرائط کا علم ہو جائے گا ہم نے نئے رائیٹر کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اور معیاری تحریروں نے خود اپنی جگہ بنائی ہے۔

✉: پیاری سی رضوانہ کوثر ہماری دیرینہ ساتھی نے لاہور سے ہمیں تبصرہ بھیجا ہے۔ ڈیر رضوانہ اکتوبر کا



دو شیزہ..... سرورق خوبصورت محفل عروج پہ۔ دام دل بہت خوب، مینا عالیہ کا ناول بہترین ان کو مبارک باد، رحمان رحیم سدا سائیں اچھا ہے، فوڈیہ احسان کا ناول خاصا دلچسپ صفیہ سلطانہ کی تحریر بہت خوب رہی نگہت اعظمی کا نام خاص ہے۔ مہوش اور ندا اچھا اضافہ ہیں قلم قبیلہ میں، تمام سلسلے بہت اچھے ہیں۔

کھ: پیاری سی رضوانہ! آپ کے خط میں اس بار سب اچھا اچھا رہا ہم جانتے ہیں کہ آکل آپ کی طبیعت ناساز چل رہی ہے تب ہی تبصرہ جلدی میں لکھا نظر آ رہا ہے اللہ آپ کو جلدی سے صحت یاب کرے۔ (آمین)

☒: لاہور سے ہماری پیاری سی رائیٹر زمر نعیم اپنے تبصرے کے ساتھ ہماری محفل میں تشریف لارہی ہیں ڈیئر رضوانہ اس بار دو شیزہ معمول سے ہٹ کر لگا۔ منزہ کا ادا یہ نمکین پانی آنکھوں میں بھر لایا۔ محفل میں آ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اس بار صفیہ سلطانہ مغل کا تبصرہ اور رنگ کائنات میں ان کی تحریر بہت پسند آئی آپ لوگوں نے انٹرویو کا جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے وہ زبردست ہے شگفتہ شفیق کو بیٹے کا نکاح اور مینا عالیہ کو کامیاب ناول لکھنے کی ڈھیروں مبارک باد۔ افسانوں میں عمودی چٹان اور چال زیادہ پسند آئے ویسے سارے ہی افسانے بہت اچھے رہے۔ محبت درد دیتی ہے پڑھ کر محسوس ہوا جیسے یہ پہلے بھی کہیں پڑھا تھا کبھی کبھی کہانیوں میں کافی مطابقت بھی ہو جاتی ہے شاید یہ بھی ایسا ہی کوئی اتفاق ہے اپنا نیا ناول جلد ہی روانہ کروں گی۔

کھ: اچھی زمر! آپ کے تبصرے کا سب ہی کو انتظار رہتا ہے آئندہ ذرا جلدی بھیجے گا ہم آپ کے ناول کے منتظر ہیں۔

☒: کراچی سے ندیا مسعود جو ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے لوٹی ہیں۔ خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ڈیئر رضوانہ حج ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کو ادا کرنے کے بعد انسان اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی محسوس کرتا ہے مجھے اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اللہ کے بہت قریب ہوں یقین جانو اللہ سے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتے ہوئے اپنی بہت چھوٹی چھوٹی سی خطا میں بھی بے اختیار یاد آتی گئیں۔ جن کی میری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی جب ہم حج پر جا رہے تھے تو دل میں کچھ ڈرتھا 50 ڈگری ٹمپریچر کا خوف دامن گیر تھا لیکن وہاں جا کر ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اگر قافلے کا گائیڈ اچھا ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی اور ہر کام آسانی سے ہوتا چلا جاتا ہے۔

کھ: بہت پیاری ندیا! سب سے پہلے تو ہم سب کی طرف سے حج کی بے شمار مبارکباد قبول کرو۔ تمہاری باتوں نے محفل میں بڑا مقدس سا اجالا بکھیر دیا ہے۔

☒: اور یہ ہیں ہماری شہینہ عرفان جن کے مزاج میں کچھ گری نظر آ رہی ہیں ڈیئر رضوانہ پرنس کس میں ہمت ہے جو سچی بات سنے۔ محترمہ نفیہ سعید کی خدمت میں عرض ہے۔

کے معلوم تھا اس شے کی تجھ میں کمی ہوگی  
گماں تھا تیرے طرز جبر میں شائستگی ہوگی

محترمہ لفظ 'آٹو' آپ کے ذہن کی اختراع نہیں سمجھا تھا بلکہ ہندی زبان سے متاثر ہونا سمجھ کے لفظ آٹو لکھنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ کے عمر کے کون سے حصے میں ہیں آج کل کے نوجوان نسل اور اس نسل کے لکھاری اپنی اردو زبان میں ہندی الفاظ و آمیزش بڑے فخریہ انداز میں کرتے ہیں آپ کو مجھے



# ”آپ کی رائے اہم ہے“

دوشیزہ اپنے پڑھنے والوں کی رائے کو بہت اہمیت دیتا

ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دوشیزہ

ڈائجسٹ میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیں۔

وہ کون سے سلسلے ہیں جن کی آپ کمی محسوس کرتے ہیں

اور چاہتے ہیں کہ وہ ہر ماہ پابندی سے دوشیزہ کی

زینت بنیں۔

دوشیزہ اپنے پڑھنے والوں کی بے انتہا قدر کرتا ہے اور

چاہتا ہے کہ آپ ہر لمحے ہماری رہنمائی کریں تاکہ

دوشیزہ کو مزید نکھارا جاسکے۔



بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے لفظ آٹورکشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے پاکستان میں ہمیشہ سے رکشہ کہا گیا ہے اور ہندوستان میں آٹو اور آپ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے الفاظ لکھنے میں آزاد ہوں تو محترمہ خدا کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کو ایک آزاد وطن میسر آیا، جہاں آپ اپنے الفاظ لکھنے میں آزاد ہیں دیکھ رہی ہیں آپ پڑھ رہی ہیں ناشیوینا والے کیسے مسلمانوں کی آزادی کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ محترمہ تنقید برداشت کرنا بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے میرا جو خط دو شیزہ کے تبصرے کے شمارے میں شائع ہوا ہے جس کے بارے میں رضوانہ پرنس نے کہا کہ کچھ چیزیں پالیسی میں آجاتی ہیں۔ ورنہ آپ کا مکمل تبصرہ شائع کرتے یہ یقیناً رضوانہ پرنس کا بڑا اپن تھا کہ اتنی سخت تنقید کے بعد میرے تبصرے کو اچھا کہا میرے خط کا کچھ حصہ شائع کیا ورنہ وہ بھی اپنے ادارے میں آزاد ہیں۔ پیاری رضوانہ ہو سکتا ہے میرا یہ خط بھی پالیسی کی نظر ہو جائے اور ہاں یاد آیا ہم نے تو بڑے مان سے 15 اکتوبر کو اپنی تاریخ پیدائش بتائی کے اتنے لوگوں کے دنیا میں آنے کی مبارک باد دی جاتی ہے تو شاید ہم کو بھی چاہے باتوں میں۔ چاندی جھلملائے ہم تو ہر چیز کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا، سعودی عرب امریکہ اور پاکستان سے لاتعداد فون آئے 15 اکتوبر یعنی ہماری سالگرہ پر لیکن آپ نے بذریعہ دو شیزہ یاد نہ کیا تو تھوڑا سا محکمین پانی آتے آتے رہ گیا کہ شاید پچھلا خط اس کی وجہ ہو۔ میں اس 'آٹو' کی وجہ سے ہم تبصرہ کرنے سے قاصر ہیں۔ اجازت۔

بھ: مائی ڈیر شمینہ۔ آپ نے ٹھیک کہا ہمیں آپ کا آٹو نامہ کافی ایڈیٹ کرنا پڑا ہے۔ محبت اور خلوص سے مہکتی اس محفل ہیں محض ایک آٹو کی وجہ سے کوئی بد مزگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں ہم اسے آٹورکشہ کر دیتے ہیں۔ چلیے اب اسی بات پر ہنس دیں اور شمینہ ہمیں اکتوبر میں آپ کا کوئی خط نہیں ملا پھر بھلا ہمیں آپ کی سالگرہ کا کیسے پتا چلتا چلیے اب ہم سب مل کر اپنی شمینہ جی کے لیے پپی برتھ ڈے گاتے ہیں ہمیشہ سلامت رہیے۔  
 ✉: ہماری محفل کی ہر دل عزیز خولہ عرفان محفل میں شریک ہیں۔ محترم و عزیز رضوانہ پرنس صاحبہ مدیرہ ماہنامہ دو شیزہ ڈائجسٹ السلاو علیکم۔ امیدوں اور دعاؤں کے ساتھ آپ کی محفل میں مختصری جگہ لینے آ رہی ہوں کیونکہ آج انیس اکتوبر کا دن اللہ حافظ کہہ چکا ہے اور ہم دو شیزہ کے فراق میں مبتلا دیدہ و دل فرس راہ کے بیٹھے ہیں کہ کب میاں جی کے وہ مبارک قدم آئیں گے جب ان کے ہاتھوں میں دو شیزہ نظر آئے گا۔ تبصرہ لکھنے کا انتظار کرنے میں ساعت شمولیت محفل دو شیزہ گزر جائے گی اس لیے اس امید کے ساتھ کہ ماہ اکتوبر کا دو شیزہ بھی مہکتا ہوا ہی ملے گا اس کا تبصرہ ادھار رکھتے ہیں۔ پرنسز ایک افسانہ نظر دو شیزہ کر رہی ہوں اگر پسند آئے تو ضرور حوصلہ افزائی فرمائیے گا کافی الحال اس تھوڑے کو بہت سمجھ لیں کہ کل انشاء اللہ اس خط اور افسانے کو نظر محکمہ ڈاک کر دوں گی۔ دو شیزہ اہلیان، کاشی صاحب اور پرنسز کے لیے ہر دم دعا گو۔

بھ: پیاری خولہ! آپ کا افسانہ مل گیا ہے اس پرچے سے فراغت پا کر جلدی ہی اسے پڑھ لیں گے اور آپ کے لیے تو اس محفل میں جگہ ہی جگہ ہے۔ اور پیاری خولہ اپنے میاں جی سے کہہ کر اس بار دو شیزہ جلدی منگوائیں کہ تبصرہ ضروری ہے آپ کا۔

✉: محترمہ رضوانہ پرنس السلام و علیکم امید کرتی ہوں آپ اور آپ کا پورا اشاف خیریت سے ہوگا تمام پڑھنے والوں کو آداب عرض ہے۔ اکتوبر کا شمارہ کافی تاخیر سے ملا ٹائٹل پر بنی کیوٹ سی لڑکی پر تعریفی نگاہ ڈالتی



ہوئی آگے بڑھی دوشیزہ کی محفل میں سب کے تبصروں نے لطف اندوز کیا۔ نفیسہ سعید کی تحریر پر فلزا کے ساتھ بہت سی فلزا جیسی لڑکیوں کے لیے سبق تھا۔ ارج گل رانا کی تحریر مزادے گئی۔ نگہت اعظمی کی تحریر بہت اچھی تھی سچ ہے اللہ کا راستہ آسان نہیں ہوتا بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ماہوش طالب کی تحریر بھی سبق آموز تھی مکمل ناول ام مریم کا زبردست چل رہا ہے۔ تمام لکھایوں نے اپنے قلم سے بھرپور انصاف کیا۔ میم رضوانہ پرنس آپ سے کال پر بات کر کے بہت اچھا لگا۔ خاص طور پر ماشاء اللہ آپ کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے۔ اپنی ایک تحریر بھیج رہی ہوں جرم محبت کے نام سے ہو سکتا ہے اچھی لگ جائے ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے۔ جو بھی ہو آپ اور کاشی بھائی حوصلہ افزائی بہت اچھی کرتے ہیں جو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں۔

بھ: بہت اچھی فرح آپ کا افسانہ یقیناً اچھا ہوگا۔ بس ہمیں پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیجیے اور ایسے ہی ہمیں محبتوں کے ساتھ ہمیشہ یاد کرتی رہیے۔

✉: ہماری نئی لکھاری حنا مہر ہم سے پوچھ رہی ہیں۔ ڈیر رضوانہ آپی السلام وعلیکم اُمید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ آپی جی میں دوشیزہ ڈائجسٹ میں اپنی اسٹوری بھیجنا چاہتی ہوں مجھے ایک فرینڈ نے کہا کہ میں پہلے آپ کو خط لکھ کر پوچھ لوں لیکن میں نے آپ کے جواب کا انتظار کیے بغیر افسانہ آپ کو بھیج دیا ہے پلیز آپ مجھے بتادیں کہ یہ قابل اشاعت ہے کہ نہیں۔

بھ: مائی ڈیر حنا! سچ ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ جیسی پیاری پیاری سی نئی رائیٹرز ہمارے قبیلے میں شامل ہو رہی ہیں۔ انشاء اللہ اس شمارے سے فرصت پا کر سب کی تحریروں کو پڑھیں گے بس ڈیر افسانہ بھیجنے کے بعد تھوڑا سا صبر بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟

✉: ہماری دوشیزہ کی بہت پرانی اور گم شدہ رائیٹر آج اتنے عرصے کے بعد ہم سے ملنے آئی ہیں اور یہ ہی ہیں ہماری مایہ ناز رائیٹر آسیہ رزاقی پیاری رضوانہ آج نہ جانے کیوں تمہیں بطور ایڈیٹر دوشیزہ میں دیکھ کر بہت سی پرانی یادوں نے آکھیرا اور میں خود بخود اس محفل میں چلی آئی۔ تم سے فون پر بھی بات ہوئی ہے اور تمہارے پر زور اصرار پر میں نے ایک افسانہ شروع کیا تو کیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کب پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے قلم سے بچھڑے ہوئے منزہ کو میرا سلام کہنا۔

بھ: بہت پیاری پیاری سی آسیہ! قسم سے تم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہو تمہارے کتنے ہی فینز ہیں جو تمہیں پڑھنا چاہتے ہیں بس ہم کچھ جانتے سالگرہ نمبر کے لیے فنافٹ اپنا افسانہ مکمل کرو۔ ہم انتظار کر رہے ہیں۔

✉: برنگھم سے صبا اے خان ہمیں لکھتی ہیں۔ السلام وعلیکم ڈیر آپی آپ لندن آئیں اور آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی جس کا افسوس ہے آپی میں دوشیزہ میں کہانیاں بھیجنا چاہتی ہوں وہ شائع ہو جائیں گی۔

بھ: بہت پیاری صبا تمہارا نام ہی ہمیں ایک رائیٹر جیسا نام لگ رہا ہے یقیناً تمہاری تحریر میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ تو بس جلدی سے اپنی کہانیاں بھیج دو اگر اچھی ہوئیں تو تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔

✉: لاہور سے ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں شامی احتشام السلام وعلیکم رضوانہ آپی۔ میں نے آپ کا ناول اک نئے موڑ پر، ایک ہی نشت میں پڑھ ڈالا۔ بہت ہی اچھا لگا آپ کی کہانی نے شروع سے



## پراسرار کہانی نمبر-3

Email : [pearlpublications@hotmail.com](mailto:pearlpublications@hotmail.com)

پراسرار نمبر 1 اور 2 کی پذیرائی کے بعد پراسرار نمبر 3

ایک ایسا شاہکار شمارہ جس میں دل دہلا دینے والی وہ سچ بیانیاں شامل ہیں جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔

آپ کے اُن پسندیدہ رائٹرز کے قلم سے، جو آپ کی نبض شناس ہیں۔ جن کی کہانیوں کا آپ کو انتظار رہتا ہے۔

جنوں، بھوتوں اور ارواح خبیثہ کی ایسی کہانیاں جو واقعی آپ کو خوف میں مبتلا کر دیں گی۔

ہمارا دعویٰ ہے!

اس سے پہلے.....

ایسی ناقابل یقین، دہشت انگیز اور خوفناک کہانیاں شاید ہی آپ نے پڑھی ہوں۔

آج ہی اپنے ہا کر یا قریبی بک اسٹال پر اپنی کاپی مختص کرالیں۔

ایک ایسا یادگار شمارہ، جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔

سچی کہانیاں کا ماہ دسمبر کا شمارہ پراسرار نمبر 3 ہوگا

**ایجنٹ حضرات نوٹ فرمائیں**

READING  
Section



آخر تک جکڑے رکھا۔ آپ نے اپنا ایک اور افسانہ ابا کی بختاور کافی پہلے بھجا تھا اس کے متعلق کچھ بتائیں گی۔

بھ: اچھے شامی! ناول کی پسندیدگی کا شکریہ۔ ابا کی بختاور فی الحال ہماری نظر سے تو نہیں گزری لیکن فکر نہیں کرو فرصت پاتے ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے پلیز ہمیں مزید تحریریں بھی بھیجیے۔

✉: آئیہ مظہر چوہدری لاہور سے ہمیں لکھتی ہیں السلام وعلیکم رضوانہ کیسی ہیں آپ رضوانہ میں نے دو شیزہ میں اپنا ناولٹ کی پہلی ابی سوڈ بھیجی تھی میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ سے کنفرم کر لوں کہ آپ قسط وار ناولٹ لگا بھی رہیں ہیں یا نہیں پلیز مجھے جلدی بتادیں اور یہ بھی بتادیں کہ اگر پسند آیا ہے تو یہ کب تک لگ جائے گا۔

بھ: آئیہ ڈیر! بھئی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی نہیں ہو رہی کاش آپ آ کر دیکھ سکتیں کہ ہمارے آس پاس افسانوں اور ناولٹ کا کتنا بڑا ہجوم ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں بس دوست آپ سے نہیں اپنے سب لکھاریوں سے گزارش ہے کہ اپنی تحریر بھیجنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا وقت ضرور دینے کی کوشش کیا کریں۔ آئیہ آپ ہمیں آفس کے نمبر پر فون کر لیں۔

✉: اسلم شہزاد رحمانی پہلی بار سیالکوٹ سے ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں۔ محترمہ رضوانہ پرنس میں نے اتفاق سے پہلی بار دو شیزہ دا بجسٹ کا مطالعہ اپنے ٹرین کے سفر کے دوران کیا اور میرا سفر یقیناً بغیر کسی بوریت کے گزرا۔ افسانے ناولٹ سب ہی بہت دل چسپی سے پڑھے۔ دو شیزہ گلستان کے لطیفے اپنے ساتھ بیٹھے ہم سفر کو بھی سنائے یعنی ہمارا ڈبہ تہتہوں سے بھی گونجا۔ محفل بھی پڑھی اور اسی وقت دل میں سوچ لیا کہ گھر پہنچ کر میں بھی دو شیزہ کے لیے ضرور کچھ لکھوں گا بس ڈریہ ہے کہ آپ میرا خط چھاپتی بھی ہیں یا نہیں اس لیے فی الحال کسی کو اپنے خط کے بارے میں نہیں بتایا اگر چھپ گیا تو پھر سب کو بتاؤں گا۔ اللہ آپ کو مزید عزت اور کامیابی سے نوازے۔

بھ: اسلم صاحب! ہمارے دو شیزہ دا بجسٹ نے ٹرین میں آپ کے ساتھ سفر کیا اور آپ کے دل میں بھی گھر کر لیا یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے ہمیں اُمید ہے کہ اب آپ اس کے مستقل قاری بن جائیں گے۔ اب تو خط چھپ گیا نہ۔ بس یہ رسالہ سب کو دکھا دیں۔

دوستو! محفل کے اختتام پر ہمیں اپنی رائیٹرز اور قارئین سے ایک گزارش بھی کرنی ہے کہ وہ پرچے کے متعلق یا اپنی تحریر کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز آفس کے نمبر پر فون کر کے یا خط لکھ کر ہم سے پوچھ لیا کریں کیونکہ میسجز پر فردا فردا سب کو جواب دینا ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا خط محفل میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ملا ہی نہیں۔ پلیز اسی وجہ سے آپ ہم سے خفا مت ہوا کریں۔ ہمیں اپنا ہر قاری دل سے عزیز ہے۔

اچھا سا تھیو! آپ سب کی نذر یہ شعر کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔

دعاؤں کی طالب

رضوانہ پرنس

یہ دور آشوب دوستی ہے، مگر میرا حوصلہ سلامت  
میں سب کے بارے میں سوچتا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے



# سہانے علی

شوخی و چٹیل اداکارہ

ذیشان فراز  
سے ایک ملاقات

ذہین بھی ہیں Beauty With the Brains آپ ہی کے لیے کہا گیا ہے؟

سوہائے: جی بالکل اور مجھے ناز ہے کہ میں خوبصورت بھی ہوں اور ذہین بھی۔

ہم: اچھا بتائیے شوہر کی طرف کیسے آنا ہوا؟

سوہائے: میں نے جیو سے آنے والے ڈرامے سات پردوں میں کام کیا یہ میرا پہلا قابل ذکر ڈرامہ تھا بس یہیں سے ابتدا ہوئی اس کے بعد ہم ٹی وی سے تنہائی، کھویا کھویا چاند، رشتے کچھ ادھورے سے اور پھر جیو میں سے پیارے افضل۔

ہم: ابتدا آپ نے ڈراموں سے کی.....؟

سوہائے: نہیں سب سے پہلے میں نے ماڈلنگ کی اور یہ بات ہے 2012 کی پہلی فلم میری یا سرنواز کی انجمن تھی جس پر مجھے ترنگ ایوارڈ ملا۔

ہم: اور اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا؟

سوہائے: (کچھ سوچتے ہوئے) ہاں آپ کہہ سکتے ہیں..... مجھے ابھی بہت سارا کام کرنا ہے بہت

آئیے آج آپ کی ملاقات سوہائے علی سے کروائیں۔

ہم: یوں تو کسی خاتون سے ان کی عمر پوچھنا نہایت غیر اخلاقی بات ہے مگر آپ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہمارے پڑھنے والے بھی آپ کی Date of Birth جاننا چاہیں گے؟

سوہائے: ادائے بے نیازی سے بالوں کو جھکا دیتے ہوئے مجھے کوئی اعتراض نہیں عمر چھپانے میں 13 May اور سال 94 لاہور میں پیدا ہوئی۔

ہم: اس کا مطلب ہوا کہ آپ کا تعلق برج جوزا سے ہے یعنی آپ دوہری شخصیت کی مالک ہیں.....؟

سوہائے: زور سے ہنستے ہوئے..... کون دوہری شخصیت کا مالک نہیں ہوتا گھر میں کچھ باہر کچھ دوستوں کچھ دشمنوں میں کچھ..... لیے اگر اس کو پوزٹیو لی لیا تو اس کو Diplomacy کہتے ہیں۔

ہم: آپ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ

دوشیزہ 2012

READING  
Section



سوہائے: (سنجیدگی سے) دیکھیے جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ دیکھے بھی جاتے ہیں یہ دونوں لوگ شو بزز سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو اگر میرا ان کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہاں کسی کھلاڑی کے ساتھ لیا جائے تو پھر حیران ہونا چاہیے۔

ہم: سوہائے یہ بتائیے آپ نے اپنی look بالکل بدل لی ہے اس میں کس کا ہاتھ ہے۔

سوہائے: جی یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر Change کر لیا ہے اور اس میں نبیلا کا بہت ہاتھ ہے اور ڈریسر مجھے Sana safi naz کے پسند آتے ہیں۔

ہم: سوہائے سبیل آپ کی بہن ہیں تو کیا مقابلے کی فضا رہتی ہے کیونکہ آپ دونوں ہی بہترین ایکٹنگ کرتی ہیں؟

سوہائے: جی مقابلہ اپنی Correction کی حد تک تو ضرور کرتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ پھر دونوں کو ایک دوسرے کی بہت Support ہی رہتی ہے۔

ہم: جوانی پھر نہیں آنی کی میگاہٹ کے بعد کیسا محسوس کرتی ہیں.....؟

سوہائے: بہت اچھا اور پھر جو ریسپانس ہمیں لوگوں نے دیا ہے اس نے تو دل خوش ہی کر دیا اس کامیابی نے اور فلمیں کرنی کی ہمت دی۔

ہم: سوہائے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو دن دو گنی رات چو گنی ترقی دے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا اس کا بہت شکریہ۔

پاکستان انڈسٹری کی اس حسین اور کسن اداکارہ سے انٹرویو تمام ہوا۔ اس شرط کے ساتھ کہ انٹرویو کی جگہ راز میں رکھی جائے۔

☆☆.....☆☆



ہم: لوگ آپ ڈانس کے معترف ہیں کیا باقاعدہ کہیں سے سکھا ہے؟

سوہائے: میں بہت پریکٹس کی قائل ہوں یا قاعدہ سیکھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن مجھے جنون سے ڈانس کرنے کا اور شاید اس لیے میرا کوئی ثانی نہیں۔

ہم: اچھا سوہائے کسی زمانے میں آپ کا نام فواد خان اور آج کل پروڈیوسر یا سر نواز کے ساتھ لیا جا رہا ہے ان افواہوں میں کتنی سچائی ہے؟

سوہائے: (بلیک کشن سے منہ چھپاتے ہوئے) آپ کہاں سے یہ معلومات لاتے ہیں.....

ہم: یہ چھوڑیں کہ معلومات کہاں سے آتی ہے آپ بتائیں یہ سچ ہے؟



سُرِیلَا فنکار

# عاطف اسلم

پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز  
حاصل کرنے والا نوجوان فنکار

مونی خان

پاس کیا اور FC کالج لاہور سے بیچلر  
کیا۔ عاطف اسلم نے پی اے ایف اسکول کی  
طرف سے کرکٹ کے لیے میچز کھیلے موسیقی کی  
ابتدا 'جل' بینڈ سے عاطف نے اپنی دوست

عاطف اسلم 12 مارچ 1983 کو وزیر آباد  
میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم لاڑکانہ کے کبیرلی  
اسکول سے حاصل کی اس کے بعد سینٹ پال  
کیمبرج اسکول راولپنڈی سے O لیول کا امتحان



Downloaded From  
Paksociety.com

دوشیزہ 24

READING  
Section



عاطف کے تین گانے شامل ہیں، جنہیں کریکٹس نے بہت پہلے سراہا پھر می رانا کی فلم میں بھی دو گانے گائے! عاطف کی آواز، بولی وڈ فلمز کے لیے جیسے ضروری ہو گئی ہے، اس سے زیادہ سویٹ اور رومینٹک آواز اس وقت کسی اور سنگر کی نہیں مانی جاتی! حال ہی میں عاطف نے صابری برادران کی تاج دار حرم.....، کوری فریش کر کے اس میدان میں بھی کامیابی پالی ہے! شعیب منصور کی بول، میں بطور ہیرو کیمرے کے سامنے آ کر بھی خود اعتمادی اور کامیابی کو برقرار رکھا! عاطف کو پانچ لکس اسٹائل ایوارڈز مل چکے ہیں، اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز بھی



سارہ سے 30 مارچ 2013 کو لاہور میں شادی کی..... عاطف اسلم نصرت فتح علی خان کے بہت بڑے فین ہیں۔  
عاطف اسلم نے پاکستان اور بھارت میں ہی



ملا ہے! بھارت کے سب سے برے فلم ایوارڈ میں تین مرتبہ نامزدگی کا اعزاز بھی عاطف کے پاس ہے۔

ہمیں اپنے اس سپوت پر فخر ہونا چاہیے جس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں اپنی خوبصورت گائیکی اور غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے روشن کیا۔

☆☆.....☆☆

عاطف کی آواز، بولی وڈ فلمز کے لیے جیسے

ضروری ہو گئی ہے، اس سے زیادہ سویٹ اور

رومینٹک آواز اس وقت کسی اور سنگر کی نہیں

مانی جاتی! حال ہی میں عاطف نے صابری

برادران کی تاج دار حرم.....، کوری فریش کر

کے اس میدان میں بھی کامیابی پالی ہے

نہیں، اپنے فن کی بدولت امریکہ میں بھی جھنڈے گاڑھے ہیں، مین پش کارٹ، میں

روشنی 25

READING  
Section



انڈین فلم نگری کی سحر انگیز شخصیت



سدھارتھ

ملہوترا

بھارتی فلم نگری کا ابھرتا ہوا یہ ہیرو 16 جنوری 1985 کو دہلی میں پیدا ہوا۔ سدھارتھ نے اپنے فن

جناب محبت سے Sid اور عالیہ بھٹ کے معاشرے کے آج کل بہت چرچے ہیں..... دونوں اکثر ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ 6 فٹ لمبے اس ہینڈسم اداکار کے فینز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور سے لڑکیاں سدھارتھ کو بہت پسند کرتی ہیں۔ انتہائی پڑھے لکھے



کیریئر کی ابتدا ماڈلنگ سے کی۔ پہلی فلم اسٹیوڈنٹ آف دوائیز پر تھی جو بڑی ہٹ ثابت ہوئی۔ فلم فیئر ایوارڈ حاصل کرنے والے اس ہیرو کی دو اور فلمیں اس وقت شائقین سب سے بے حد مقبول ہیں پہلی ہنسی تو پھنسی اور دوسری ایک ولن ان دونوں فلموں میں بھی سدھارتھ نے

Downloaded From  
Paksociety.com



سے بہت پیار ہے اور فارغ وقت میں وہ بہت شاپنگ



کرتا ہے۔ خبریں ہیں کہ فلم 2 Bang Bang میں

6 فٹ لمبے اس ہینڈ سٹم اداکار کے فینز کی تعداد

میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور

سے لڑکیاں سدھارتھ کو بہت پسند کرتی ہیں۔

انتہائی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھنے

والے Sid کی دو بہن اور بھائی ہیں۔ Sid

شاہ رخ کا فین ہے اور فٹ بال کا شیدائی۔

اب لیڈ رول رٹیک کے بجائے Sid کرے گا۔ اس کے علاوہ کپور اینڈ سنز بھی تیاری کے مراحل میں ہے۔

☆☆.....☆☆

خاندان سے تعلق رکھنے والے Sid کی دو بہن اور بھائی ہیں۔ Sid شاہ رخ کا فین ہے اور فٹ بال کا شیدائی۔ نیلا رنگ بہت پسند ہے اور میٹھے میں گلا جامن اور جلیبی پسندیدہ ہیں۔ Sid کو اپنے Oscar پالتو گتے

دوشیزہ 27

READING  
Section



# اے آروائی کے خوبصورت پروگرام

مشخ

ناظرین گرامی ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل اور سوپ کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہماری کوششیں ہوتی ہے کہ ہم اچھے ڈرامے آپ ناظرین کے لیے تخلیق کریں وہ شائقین طنز و مزاح اور مزاحیہ پروگراموں کو جس طرح ARY ڈیجیٹل نے اجاگر کیا ہے اسے بین الاقوامی سطح پر شہرت ملی ہے جس کی تازہ مثال مزاحیہ کھیل بلبلے اور گڈ مارنگ پاکستان قابل ذکر



Downloaded From  
Paksociety.com

ARY کے پروگرام "دل پذیر شو" میں حنا دل پذیر

ہیں اے آروائی کے ناظرین کے چاہنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے یہ واحد چینل ہے جسے ہر عمر کے لوگ دیکھتے ہیں نوجوانوں کا دل مچلتا ہے تو وہ دی میوزک کے پروگراموں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم بچے نیک چینل سے کارٹون دیکھ کر کا شوق و ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے اے آروائی کے پروگرام 'دل پذیر شو' بے وقوفیاں اور تاشے سٹ کام واقعی اپنی مثال آپ ہیں دنیا کی تلخیوں اور الجھنوں سے بچنے کے لیے ذہن کو خوبصورت پروگراموں کی ضرورت ہوتی ہے اچھے ڈراموں



ہیں اس کے علاوہ ایک چڑیل کا خوبصورت کردار ادا کر رہی ہیں جس میں معاشرے کے مختلف شعبوں پر روشنی ڈالی رہی ہیں یہ بہترین شواتوار کی شام 5:30 بجے آے آروائی ڈیجیٹل سے دکھایا جا رہا ہے ڈرامہ سیریل 'وصال' یا 'مقبولیت' کی جانب گامزن ہے کہانی کا مرکزی خیال مشرقی معاشرے کی ایسی عورت کی عکاسی کرتا ہے جسے اپنے جائز رشتے کو قائم رکھنے کے لیے معاشرے کی لعن طعن

مستفید ہوتے ہیں۔ سنجیدہ حضرات جو انگریزی پر عبور رکھتے ہیں وہ H.B.O چینل دیکھ کر اچھی انگلش کا انتخاب کرتے ہیں، خواتین ڈراموں، سوپ، سٹ کام اور دیگر پروگراموں سے دل بہلائی ہیں اسلامی روایات کے شیدائی باقاعدگی سے کیونی وی دیکھتے ہیں، یہ پاکستان کا واحد چینل ہے جو باقاعدگی سے پانچ اوقات کی اذان نشر کرتا ہے یہ اعزاز کسی اور چینل کو نہیں جبکہ ARY نیو آج



## ARY ڈیجیٹل کے سٹ کام 'بے توقیریاں' میں شہری شاہ

برداشت کرنا پڑتی ہے اور حق پر ہونے کے باوجود اسے غلط ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب ایسے مردوں پر بنی ہے جو پیسے کے حصول اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت کے جذبات کو کھلنے سے بھی گریز نہیں کرتے اس کہانی کا مرکزی کردار منال اور عدلیہ بیگم ہیں جبکہ اس سیریل میں جذبات و احساسات کے اتار اور چڑھاؤ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کو تحریر کیا ہے آمنہ ریاض نے جبکہ ہدایت عاصم علی کی ہیں اس کے فنکاروں میں عائشہ خان، شہزاد شیخ، مریم نواز، ماہی

بھی نمبر 1 ہے جس کا خبرنامہ اور کرنٹ افیر کے شو ناظرین بہت توجہ سے دیکھتے ہیں آئیے ناظرین اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پروگراموں کی طرف 'دل پذیر شو' آج کل لوگوں کی توجہ کلامرکز بن رہا ہے۔ اس میں حنا دل پذیر اپنے شو کے بارے میں بتاتی ہیں اور حالات حاضرہ جو کامیڈی پر مبنی ہوگا اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ جس میں طنز و مزاح کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آج کل جو مارننگ شو ہو رہے ہیں ان پر بھی خوبصورت مزاحیہ گفتگو کرتی



جمعرات تک روزانہ رات 7:30 بجے ڈیجیٹل سے دکھایا جا رہا ہے اب چلتے ہیں مزاحیہ اور دل کو



ARY ڈیجیٹل کے سٹ کام "بتاشے" میں گل رعنا

چھو لینے والے سٹ کام 'بے وقوفیاں' اور بتاشے کی طرف سٹ کام 'بے وقوفیاں' ایک خوبصورت ہلکی پھلکی مزاحیہ تحریر ہے جس میں میاں بیوی کی روز روز کی نوک جھونک پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بیوی سخت مزاج خاتون ہیں جبکہ میاں غیر حاضر دماغ ہیں بیوی اصول پسند جبکہ شوہر غیر سنجیدہ شخصیت ہیں۔ اس سیریز کو تحریر کیا ہے رضوان حسن نے جبکہ ہدایت سلمان عباس نومی کی ہیں اس سیریز کے فنکاروں میں شگفتہ اعجاز، شہری شاہ، حماد فاروقی اور دیگر شامل ہیں سیریز 'بے وقوفیاں' ہر ہفتہ کی رات 7:30 ARY ڈیجیٹل سے دکھائی جا رہی ہے۔ علی عمران کا تحریر کردہ مزاحیہ کھیل 'بلبلے'

وارثی، حسن نیازی، وصیح فاطمہ، ذینب قیوم، طاہرہ امام اور بہروز سبزواری قابل ذکر ہیں۔ سیریل 'وصال یاز' ہر پیر کی رات ڈیجیٹل سے رات 9 بجے دکھائی جا رہی ہے سوپ 'دل برباد' ناظرین کی توقعات پر پورا اتر رہا ہے یہ دو بہنوں ہانیہ اور رانیہ کی کہانی ہے جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہاں سے ہانیہ اور رانیہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے معروف مصنف نزہت سمن کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں خوبصورت تحریریں تو لکھتی ہیں اس سوپ کی ہدایت



ARY ڈیجیٹل کی سیریل "وصال یاز" میں عائشہ خان

شاہد یونس کی ہیں جبکہ فنکاروں میں سنگیتا، فرح علی، مریم انصاری انعم تنویر، عمران اسلم، اور فضیلہ قاضی قابل شکر ہیں سوپ 'دل برباد' پیر سے لے کر



صاحب کتاب ہر منگل کی رات 8 بجے ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کتاب کے مصنف کو بلا کر اس سے تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ پروگرام 'روشنی سب کے لیے' رئیس احمد پیر سے لے کر جمعرات تک رات دس بجے پیش کر رہے ہیں۔ پروگرام 'احکام شریعت' ہفتہ اور اتوار رات 9 بجے دکھایا جائے گا پروگرام 'صبح بخیر' سیرا خان ہراتواری کی صبح 10 بجے پیش کر رہی ہیں پروگرام 'میری پہچان' میزبان سحرش شیخ پیر اور منگل کو رات 7 بجے پیش کر رہی ہیں ہم ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی ویب کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ARY کی ویب کو پاکستانی چینلز میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے لاکھوں ناظرین دیکھتے اور پڑھتے ہیں سیاسی آرٹیکل اپنی مثال آپ ہوتے ہیں ویب کے ہیڈ اشرف صاحب نے ویب کو جدید طریقوں سے روشناس کرایا ہے جس کی مثال نہیں ملتی نیوز میں اگر آپ سے کوئی پروگرام مس ہو گیا ہے تو آپ اسے ویب سائٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ویب پر آپ کو اسپورٹس کے حوالے سے تازہ خبریں بھی مل جاتی ہیں جبکہ شو بز کے حوالے سے آپ خوبصورت انٹرنیٹمنٹ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ARY ویب سے آپ من پسند چیزیں سرچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی معاملہ دل کا ہے جو دل چاہے آپ خوبصورت سے خوبصورت ہر شعبے سے وابستہ پروگرام ویب پر دیکھ سکتے ہیں۔ واقعی ARY کی ویب باکمال ہے اس سال حج کے موقع پر جوالمیہ ہوا اس کی ویب نے جس طرح کوورٹیج اپنے چاہنے والوں کو پیش کی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ یہ ARY ویب کا کمال ہے جو اپنے قارئین اور ناظرین کو ہر وقت آگاہ رکھتا ہے۔

☆☆.....☆☆

نے اپنی چاہت ناظرین میں برقرار رکھی۔ یہ مزاحیہ ڈرامہ اے آروائی ڈیجیٹل سے ہراتواری کی رات 7 بجے دکھایا جائے گا۔ مزاحیہ سٹ کام 'بتائے' مزاحیہ کہانیوں پر مبنی پروگرام ہے یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے میں دلچسپی رکھتے ہیں جس کے والد پروفیسر ہیں اور اس پروفیسر کے دو شاگرد اس لڑکی میں دلچسپی رکھتے ہیں جبکہ لڑکی ان دونوں میں سے کسی میں دلچسپی نہیں رکھتی اس سٹ کام کی کہانی روزمرہ کے دلچسپ اور مزاحیہ واقعات پر مبنی ہے اسے تحریر کیا ہے اجو بھائی نے جبکہ ہدایت قیصر خان اور شاہد خواجہ کی ہیں اس کے فنکاروں میں خواجہ اکمل، گل رعنا، اروبا مرزا، علی گل پیر، اور ایاز سومرو قابل ذکر ہیں سٹ کام بتائے ہر ہفتہ کی رات شام 7 بجے اے آروائی ڈیجیٹل سے دکھائی جا رہی ہے جیتو پاکستان کو فہد مصطفیٰ بہت ہی خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں اور یہ خوبصورت پروگرام مقبولیت کے لحاظ سے پاکستان کے آن ایر ہونے والے تمام چینلز پر نمبر 1 کی پوزیشن پر مسلط ہے اس کامیاب پروگرام کے ہدایت کار کامران خان جبکہ انگریڈیو پروڈیوسر عبید خان ہیں نیوز سے آن ایر ہونے والے پروگرام 'سرعام' نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں جسے اقرار خوبصورتی سے کر رہے ہیں وسیم بادامی کاشف عباسی اور ڈاکٹر دانش کے خوبصورت پروگرام اپنی مثال آپ ہیں QTV کے ہیڈ نوید زیدی اس سال حج کی سعادت حاصل کر کے پاکستان خیریت سے آگئے ہیں انہوں نے کیوٹی وی کے پروگراموں کے حوالے سے بتایا تھا کہ لا جواب پروگراموں میں بصیرت پیر سے لے کر جمعرات تک صبح 9 بجے شجاع الدین شیخ پیش کر رہے ہیں جبکہ لایو پروگراموں میں..... کتاب اور



شادی مبارک



# ہرگز نہیں بارات



شگفتہ شہیق



فرخ اور رباب

دو شہزادہ 32

READING  
Section





شگفتہ اپنے شریک حیات، بہو بیٹی، بیٹی کنزل اور چھوٹے بیٹے شہریار کے ساتھ



منزہ سہام، رضوانہ پرنس، فرخ، شگفتہ اور کنزل





دلہن کنزل اپنے والد اور والدہ کے ہمراہ ڈلبہا تابش کے ساتھ



کنزل، تابش، شگفتہ، شفیق صاحب، فرخ اور شہریار



## میری کامیابی، لائف بوائے کے ساتھ

# لائف بوائے... آئیڈیل ملائے

### اسماء اعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں، جو اپنے اندر بہت  
سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے راز پنہاں رکھتی ہیں



ہی امید افزا تھیں۔

سدرہ بیگم کی صفیہ سے دوستی دو چند اُس زمانے میں  
ہوئی جب سدرہ اپنے بالوں کی وجہ سے از حد پریشان تھیں۔  
صفیہ نے اُن کے دو موٹے بال بہت سارے شیمپو  
استعمال کرا کر ٹھیک کرنا چاہے لیکن شیمپو بے کار رہے اور  
بال اپنی رہی سہی صورت بھی کھو بیٹھے۔ آخری حل کے طور  
پر لائف بوائے شیمپو استعمال کرایا گیا۔ پہلے ہفتے تو نتیجہ  
صفر رہا لیکن پھر رفتہ رفتہ جادو ہو گیا اور سدرہ بیگم اپنے  
بالوں کی تکالیف سے نجات حاصل کرنے لگیں۔ ایسا جادو  
دیکھ کر ہی صفیہ نے اپنے پارلر کا نام Life Beauty  
Parlour رکھا تھا۔ لائف بوائے شیمپو ان کی استعمال  
کردہ سب سے کامیاب پراڈکٹ تھی۔ جس کے بنا وہ  
بیوٹی کو نامکمل سمجھتی تھیں۔

☆.....☆.....☆

آج کل سدرہ بیگم کی طبیعت ناساز چلی آرہی تھی۔  
وہ چاہ رہی تھیں کہ جلد از جلد چھوٹے بیٹے کے لیے اپنی  
پسندیدہ بہولے آئیں۔ ایک جگہ پھر سے لڑکی دیکھی گئی۔  
شاء ایک میلاد کی تقریب میں اُن کی نظر میں آئی تھی۔  
لانے، سیاہ چمکدار بالوں والی اس لڑکی پر اُن کا دل آ گیا  
اور جھٹ اس کی بھابی رفعت کے آگے دست سوال دراز

سدرہ بیگم کو بس شوق تھا تو یہی کہ دونوں بیٹوں کی  
بہوئیں لائیں تو لمبے لمبے بالوں والی ہوں۔ سیاہ، چمکتے،  
لانے بال اُن کی کمزوری تھے۔ خود اُن کے بال بچپن میں  
کسی بیماری کے سبب بہت روکھے، پھلکے اور بے جان  
ہو گئے تھے۔ اُن کے پڑوس میں اُن کی گیلی صفیہ نے  
غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی محنت سے بیوٹیشن کا  
کورس کیا اور پھر جلد ہی دو ایک بیوٹی پارلرز میں کام  
کر کے انہوں نے اپنے گھر ہی میں اپنا بیوٹی پارلر کھول لیا۔  
بیس برس میں ترقی کرتے کرتے بیوٹی پارلر جم گیا اور عزت  
کے ساتھ گھر بیٹھے صفیہ بیگم حلال رزق کمانے لگی تھیں۔

سدرہ بیگم سادگی پسند خاتون تھیں۔ میاں کی اپنی فرم  
تھی۔ خدا کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ لیکن اُن کی سادگی بے  
مثال تھی۔ وہ اپنی اس ایک خواہش پر ذرا پیچھے ہٹنے کو  
راضی نہ تھیں۔ بڑے بیٹے کی شادی کر دی لیکن بہو.....  
بہو ہی تھی، اُن کی خواہش پوری نہ ہوئی تھی۔ وہ خدا کی  
رضا پر راضی نہ رضا ہو گئیں۔ قانع ہو گئیں۔ صفیہ سے اکثر  
چھوٹے بیٹے کی بابت بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ بھی تلاش  
میں سرگرداں تھیں مگر خدا کی مرضی..... لڑکیاں تو بہت  
تھیں۔ مگر سدرہ بیگم کو گھر ہستی بنانے والی چاہیے تھی،  
اجازت والی نہیں۔ سو بات بننے اور تلاش رشتہ پر دونوں



کر دیا۔ وہ لوگ عظیم کو بھی دیکھ گئے تھے۔ اب انہوں نے فائل جواب دینا تھا۔

☆.....☆.....☆

فون کی بیل بجی تو سدرہ بیگم چونک پڑیں۔ ایک انجانی مسرت کے تحت ان کے لب مسکرا اٹھے اور آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ تو صبح ہی سے فون کا انتظار کر رہی تھیں اس لیے فون اٹھاتے ہی چہک کر بولیں۔  
”ہیلو!“

”آداب آنٹی!“ دوسری جانب ثناء کی بھابی رفعت بول رہی تھیں۔

”جیتتی رہو خوش رہو۔“ انہوں نے حسب عادت خوش دلی سے دعا دی۔ ”اور سناؤ سب ٹھیک ہیں کیا خبر سنا رہی ہو؟“ انہوں نے پوچھا۔

سدرہ بیگم کی پر مسرت آواز اور لہجے کو سن کر رفعت چپ سی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں کس طرح سے یہ خبر سنائے جب کہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اچھی خبر کا انتظار کر رہی ہیں۔

سدرہ بیگم نے بھی اس کی کبیر خاموشی کو محسوس کر لیا اور ان کا دل انجانے خدشے سے دھڑک اٹھا۔

”بولو نا بیٹی کیا بات ہے تم چپ کیوں ہو؟“ انہوں نے آہستہ سے کہا۔

”آئی ایم سوری آنٹی! میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے کہوں اصل میں ہمارے ہاں سب گھر والوں کی مرضی سے ہر فیصلہ کیا جاتا ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ سب لوگ ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکے۔“ اس نے کہا اور پھر خاموش ہو گئی۔

”اچھا!“ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ”جیسی آپ لوگوں کی مرضی مگر انکار کا سبب تو بتا دو۔“ انہوں نے مردہ لہجے میں کہا۔

”نہیں کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے۔ شاید اللہ نے جوڑا بنایا ہی نہیں تھا۔ اچھا خدا حافظ!“ اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔

سدرہ بیگم ایک بار پھر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بار بار انہیں ایک ہی جواب سننے کے لیے کیوں مل رہا ہے۔ آخر ان میں ان کے گھر میں

ان کے ہونہار بیٹے میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ کہیں سے بھی ہاں میں جواب نہیں آ رہا۔ اس مرتبہ تو وہ بہت پر امید تھیں۔ دو روز قبل جب ثناء کے گھر والے عظیم کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو جاتے ہوئے بہت خوش اور مطمئن تھے بلکہ ان لوگوں نے تو آپس میں منگنی پر بھی ڈسکس کیا تھا اور ایک دوسرے کے رسم و رواج کے متعلق بھی پوچھا تھا پھر آج فون کر کے جواب دینے کا وعدہ کیا تھا اور آج جب جواب آیا تو انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو رہی تھیں۔

سدرہ بیگم کے شوہر عظیم خان اپنی فرم کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں دو بیٹے ہی عطا کیے تھے۔ سب کے سب لائق ہونہار اور فرمانبردار تھے۔ سدرہ بیگم بھی نہایت خوش مزاج سادہ اور دریا دل مشہور تھیں۔ عموماً انہوں نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا تھا کہ آپ کے گھر آنے والی بہو بہت خوش قسمت ہوگی۔ نہ تندوں کا کبھیڑا نہ کام کاج کی فکر کیوں کہ کام کاج کے لیے گھر میں نوکر موجود تھے اور پھر خود سدرہ بیگم بہت منکسر المزاج تھیں۔ غصہ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا تو وہ جانتی ہی نہیں تھیں۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی مگر ان کے رہن سہن اور اطوار سے کہیں بھی بناوٹ اور تکبر نہیں چھلکتا تھا۔ وہ انتہائی حد تک سادگی پسند تھیں۔

بڑے بیٹے کی شادی وہ خاندان میں کر چکی تھیں مگر بہو مزاج کی ننگ چڑھی تھی۔ اسے سدرہ بیگم کی سادگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ایک روز انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ان کی بہو فون پر اپنی امی سے بہت تپے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔

”پتا نہیں امی اتنی ڈھیر ساری دولت کو جمع کر کے کیا کریں گی؟ نہ تو گھر میں اور نہ ہی ان کی شخصیت میں وہ چمک دکھائی ہی نہیں دیتی جو نظر آنی چاہیے بس ہر وقت سادگی سادگی کی رٹ لگائے رہتی ہیں۔“

سدرہ بیگم بت سی بن گئی تھیں۔ اگرچہ انہوں نے بہو پر کبھی بلا وجہ روک ٹوک نہ کی تھی بلکہ انہوں نے تو سارا گھر بہو پر یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے جس طرح چاہو اس کو سجاؤ اور سنوارو اور جتنے پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے لو۔“ مگر بہو اس گھر کو اپنا سمجھتی تبا نا اس کا کہنا تو یہ تھا کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے یہ تو



سوچتے ہوں گے کہ پیسا پاس تو ہے مگر تم جاہل گنوار ہو، معاف کرنا، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے تمہیں جاہل گنوار کہہ دیا۔“ صفیہ نے کہا۔

”مگر صفیہ! میں تو شروع ہی سے ایسی ہوں۔ مجھے تو کبھی ان سب باتوں کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ سادگی اللہ کو پسند ہے۔ نمود و نمائش کو تو رب پیارے نے بھی پسند نہیں کیا اور رہی گھر کو جدید طریقے سے سجانے کی بات تو میں تو ایک طرف ہو گئی ہوں۔ بس بالوں کے مسئلے پر میں خدا سے شکوہ کناں تھی مگر وہ بھی تم نے ہی لائف بوائے شیمپو کے ذریعے حل کر دیا اور یہ گھر میں نے بہو کو سوپ دیا تھا کہ اپنی پسند اور مرضی سے سجالو اس لیے کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہویں گھر میں ساس کا زیادہ عمل دخل پسند نہیں کرتیں مگر وہ تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئی کہ اپنا گھر وہ ہوتا ہے جہاں کا بلا شرکت غیرے بندہ خود مالک ہوتا ہے اور میں تو جیسی ہوں، ٹھیک ہوں اب میں اپنے آپ کو اس عمر میں تو بدلتے سے رہی۔“ سدرہ بیگم نے کہا۔

”تم رشتے بھی تو اچھے گھرانوں میں ڈھونڈ رہی ہو۔ ذرا نچلے طبقے کی طرف جا کر دیکھو۔ ٹھٹھ ہاں ہو جائے گی۔“ صفیہ کا مشورہ برا نہیں تھا مگر ان کا دل کسی طرح نہ مانتا تھا۔

”کیوں کیا میرا بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ میرا سارا سسرال تعلیم یافتہ ہے تو میں رشتہ بھی ایسے ہی لوگوں میں دیکھوں گی اور خاندان کی تو میں ایک بہو لے ہی آئی ہوں۔ دوسری لانے کو اب دل آمادہ نہیں ہوتا دوسری بہو تو مجھے لمبے چمکدار، بالوں والی چاہیے باقی بالوں کی خوبصورتی میرا لائف بوائے شیمپو پوری کر دے گا۔“ سدرہ بیگم نے صاف گوئی سے کہا۔

”تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ذرا ٹاپ سے بڑے لوگوں کی بیگمات کی طرح رہنا سیکھو پھر دیکھو لڑکی والے کیسے تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ اب یہ انکساری دوسروں سے جھک کر ملنا چھوڑ دو ان باتوں کی کوئی قدر نہیں ہے آج کل، ٹھسے سے جاؤ گی تو لوگ تمہیں کچھ سمجھیں گے۔“ صفیہ نے نئی راہ دکھائی تھی۔

”نہیں صفیہ! میں خدا کی ذات سے پر امید ہوں۔ اس دنیا میں کوئی تو میرے جیسے مزاج کا ہوگا جو مجھے قبول کرے گا۔“

ساس کا گھر ہے پھر وہ کیوں اتنی محنت کرے۔ اتنی محنت تو بس اپنے ہی گھر کے لیے کی جاتی ہے۔

عظیم ان کا لائق بیٹا تھا۔ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھا اور امریکا سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ اچھی شکل و صورت تھی مگر پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ ہر بار لڑکی والے انکار کر دیتے۔ انہیں یاد تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ ایک لڑکی کو دیکھنے گئیں اور انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹوں کے متعلق بتایا تو لڑکی کی ماں نے حیرت سے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور منہ بنا کر بولیں۔

”آپ کو دیکھنے سے لگتا تو نہیں کہ آپ کے شوہر اپنی فرم کے مالک ہوں گے اور بیٹے بھی اتنا کماتے ہوں گے۔“

”کیا مطلب؟“ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔

”کچھ نہیں۔“ لڑکی کی ماں نے کہا اور پھر وہاں سے بھی انکار آ گیا۔

اس روز صفیہ جب ان سے ملنے کے لیے آئیں تو انہوں نے تمام حالات بیان کر کے اس سے پوچھا۔

”صفیہ! تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ کیا اپنے بیٹے کے ہر رشتے کے انکار کی وجہ میں ہوں؟“

”ایسا ہو سکتا ہے۔“ صفیہ نے جواب دیا۔ ”کیوں کہ تم آج کل کے زمانے اور لوگوں کی سوچ سے واقف نہیں ہو۔ لوگ چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کر اپنے آپ کو عقل مند تصور کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ ادھر چار پیسے ہاتھ میں آئے نہیں اور لوگوں نے اپنا رنگ ڈھنگ اور حلیہ بدلا نہیں چاہے ڈھنگ سے پیٹ میں روٹی نہ جائے مگر جسم پر لباس اتنا قیمتی ہوگا کہ دوسرا انہیں کچھ سے کچھ سمجھ لے ڈرائنگ روم اتنے شاندار طریقے سے سجائیں گے چاہے سارا گھر بھنڈا ہی پڑا رہے اور پھر تم ذرا اپنی جانب نگاہ ڈالو تمہارے ہاں ماشاء اللہ ماہانہ لاکھوں کی آمدنی آرہی ہے اور تم سر میں کالے خضاب کی جگہ مہندی استعمال کرتی ہو۔ سادے کپڑے پہنتی ہو ڈھیروں گولڈ ہونے کے باوجود نمائش نہیں کرتیں۔ نہ ہی اب تم پارلر جاتی ہو۔ بس ادھر تمہارے بال لائف بوائے شیمپو نے ٹھیک کیے، ادھر تم نے پارلر سے نانا توڑ ڈالا۔ شاید تمہیں دیکھ کر لوگ یہی



سدرہ بیگم نے کہا تو صفیہ بھی خاموشی سے اٹھ گئیں۔

☆.....☆.....☆

شام کو عظیم گھر آئے تو انہوں نے امی کا اداس چہرہ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ ایک بار پھر انکار میں جواب آیا ہے۔ انہوں نے ماں سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور خاموشی سے ڈائنگ ٹیبل پر آ بیٹھے مگر سدرہ بیگم آج بالکل خاموش تھیں۔ عظیم ان کے چہرے کے گہرے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے۔

”کیا سوچ رہی ہیں امی؟“ وہ مسکراتے ہوئے سالن کا ڈونگا اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولے۔

”کچھ نہیں! مجھے کیا سوچنا ہے سوائے اس کے کہ آخر ہم میں ایسی کیا خرابی ہے جو ہر رشتہ ہی سے انکار ہوا جا رہا ہے۔“ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔

”آپ ناحق پریشان ہو رہی ہیں۔ ابھی اس کام کا وقت ہی نہیں آیا ہے۔ جب وقت آ جائے گا پھر کہیں سے انکار نہیں ہوگا۔“

عظیم نے سالن پر نگاہ ڈالی اور امی کا دھیان بٹانے کے لیے بولے۔

”یہ کوفتوں کا سالن یقیناً آپ نے بنایا ہے۔ اس کی خوشبو تو یہی بتا رہی ہے۔“

سدرہ بیگم بیٹے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا دیں۔

☆.....☆

سین کے دروازہ ناک کرنے پر اندر سے فوراً ہی لیس کمنگ کی آواز آئی تھی اور پھر دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے اس بارعب شخص پر پڑی تو اس کے ہاتھ لرزنے لگے مگر اپنے آپ کو سنبھال کر اس نے ایک بار پھر بڑے سے دوٹے کو درست کیا اور بااعتماد اور پروقار طریقے سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور کرسی پیچھے کر کے بیٹھ گئی۔

”آپ کا نام سین ہے اور تعلیم.....؟“ انہوں نے ایک نگاہ سامنے رکھی ہوئی قائل پر ڈالی اور گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔

”جی میں نے بی ایس سی کیا ہے۔“ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے صاف ستھرے لہجے میں کہا۔

”اور عمر.....؟“ پھر پوچھا گیا۔

اس کا دل چاہا کہ جھٹ کہہ دے کہ سامنے سب کچھ لکھا موجود تو ہے۔

”انیس سال۔“ اس نے آہستہ سے کہا۔

سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے لیوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ”واقعی؟“

”کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے خیال میں آپ نے میرے برتھ ڈیٹ کو تو ضرور دیکھا ہوگا پھر بھی شاید آپ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ میں کس قدر جھوٹ بول لیتی ہوں یا بول سکتی ہوں۔“ اس نے بنا کسی گھبراہٹ کے صاف گوئی سے کہا۔

”محترمہ آپ شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس قدر اعتماد اور صاف گوئی کا مظاہرہ کر کے مجھے امپریس کر لیں گی۔ مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور شاید آپ کو یہ جان کر افسوس بھی ہوگا کہ اس جاب کے لیے فائنل سلیکشن تو ہو چکا ہے کیوں کہ آج کے انٹرویو کی آپ آخری امیدوار تھیں اس لیے میں نے سوچا کہ وقت گزاری کے لیے آپ سے بھی تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت کر لی جائے۔“ اس شخص کا انداز تسخیر آمیز تھا۔

”چلیں اچھا ہی ہوا کہ آپ نے پہلے ہی فائنل سلیکشن کر لیا۔ اگر آپ مجھے سلیکٹ کر بھی لیتے تو میں آپ جیسے شخص کے ساتھ کام کرنا قطعی پسند نہیں کرتی جو آفس میں کام سے زیادہ صرف ملاقاتوں اور بات چیت میں ٹائم ضائع کرتا ہو۔“ اس نے شدید تپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ اس شخص کے سامنے رکھی ہوئی اپنی قائل تیزی سے اٹھائی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔

”ارے آپ تو ناراض ہو گئیں ایک منٹ پلیز! دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میں اس امیدوار کو جس کا سلیکشن ہوا ہے ریجیکٹ کر دوں اور آپ کو منتخب کر لوں۔“ وہ اس کی اس حرکت کے باوجود چہرے پر تسستی سی مسکراہٹ سجا کر بولا۔

”بہت شکریہ میں نے ابھی کہا نا کہ میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے تو آپ بہت ہی کمزور ذہن کے مالک لگتے ہیں۔ جلدی میں فیصلے بھی کر لیتے ہیں اور اپنے ہی فیصلوں کو بدلنے میں ذرا بھی ٹائم نہیں لگاتے۔“ اس نے تک کر کہا۔



بھوکی پیاسی سڑکیں ناپے اور میں گھر میں مزے سے بیٹھ کر کھانا کھا لوں۔“ اماں نے دکھی لہجے میں کہا۔  
 ”اماں! دو تین روز پہلے آپ بتا رہی تھیں کہ زینت آئی اپنے بچوں کے ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوئی ٹیوٹر تلاش کر رہی ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کے بچوں کو میں پڑھاؤں گی۔“ سبین نے اچانک ایک خیال آتے ہی سر اٹھا کر اماں سے کہا۔

”آپ جاسکتی ہیں۔“ اس بار اپنی بے عزتی پر وہ بھی تپ کر بولا تو سبین تیزی سے باہر نکل آئی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک اچھی ملازمت جو اسے مل سکتی تھی، کھودی ہے مگر کیا کرتی۔ اس نے اس شخص کی آنکھوں اور رویے میں جو گھٹیا پن دیکھا تھا، اس کے بعد کہاں ممکن تھا کہ اس کا دل آمادہ ہوتا۔ وہ اک ٹھنڈی سانس لے کر اسٹاپ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے مطلوبہ روث کی بس کا انتظار کرنے لگی۔

☆.....☆.....☆

وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو تھکن اور گرمی سے برا حال تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامی ہوئی فائل اور پرس چار پائی پر پھینکا اور خود بھی چار پائی پر ڈھے گئی۔

”کیا ہوا بیٹی، کوئی امید بندھی؟“ اماں ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر اس کے قریب آتے ہوئے بولیں۔

”نہیں اماں!“ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔

”مل جائے گی تو کوری بھی۔“ اماں نے اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا اور اس کے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔

اماں کو دیکھ کر وہ اٹھ گئی اور پانی پی کر اپنے خشک حلق کو تر کرنے لگی۔

”مجھے تو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اب کیسے گزارہ ہو گا؟ چند روپے پڑے ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا اور تم ہو کہ سارے پیسے میری دواؤں میں ضائع کر دیتی ہو۔“

اماں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولیں۔

”آپ پریشان نہ ہوں اماں! اللہ مسبب الاسباب ہے وہ آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال ہی لے گا اور کچھ نہیں تو

میں گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں گی اور آپ نے یہ کیا بات کی کہ آپ کی دواؤں میں پیسے ضائع ہوتے

ہیں؟ میری پیاری اماں! آپ ہیں تو سب کچھ ہے ذرا میرے بارے میں تو سوچیں، ابا نہیں رہے اور اگر آپ کو کچھ

ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔“ اس نے محبت سے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اماں نے سر ہلا دیا۔

سبین کو شدید بھوک کا احساس ہوا تو وہ کھانے کے ارادے سے اٹھی اور بولی۔

”اماں! آپ نے کھانا کھا لیا؟“

”نہ میری بچی! بھلا یہ کیسے ممکن ہے میری بچی تو

”ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔“ اماں نے پھر ایک گہری سانس لی اور برتن اٹھا کر کچن میں جانے لگیں۔

”ارے اماں! آپ رہنے دیں، میں برتن سمیٹ لیتی ہوں۔ آپ زیادہ کام مت کیا کیا کریں۔ آرام کریں۔ خدا

خدا کر کے تو آپ کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی ہے۔“ اس نے اماں کو روکنا چاہا پھر اس نے اماں کے چہرے پر مسلسل

فکر مندی کے تاثرات دیکھے تو انہیں سمجھانے لگی۔

”اماں! آپ کو پتا ہے آج کل ٹیوشن پڑھانے میں بڑی کمائی ہے۔ لوگ ٹیوشن ہی کے ذریعے ہزاروں

روپے کما رہے ہیں۔“

”پھر بھی بیٹا! خالی صرف پیٹ بھرنے کا تو سوال نہیں ہے۔ میرے آگے سب سے بڑا مسئلہ تمہاری شادی

کا ہے، کیا کمی ہے میری بچی تیرے اندر؟ حسین ہے، سکھڑ ہے، پڑھی لکھی ہے، نہیں ہے تو دولت اور بڑا گھر نہیں ہے اور لوگ آج کل تو صرف اونچے گھرانوں میں ہی جاتے

ہیں۔“ اماں نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔

”میں نے کہا ناں کہ آپ ناحق یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر بلکان ہو رہی ہیں۔ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے

وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہر سبیل پیدا کر دیتا ہے۔“ اس نے کہا اور چار پائی پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔

☆.....☆.....☆

سبین نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو اماں اور ابا کی پر شفقت سائے تلے پایا۔ وہ اکلوتی تھی اس لیے

اماں ابا کا سارا پیار اس کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن کی دولت سے اسے جی بھر کر نوازا تھا۔ دودھ اور شہد

میں کھلی شہابی رنگت، ستواں ناک، بڑی بڑی غلافی آنکھیں اور اونچے لمبے قد کے ساتھ ہال بھی خوب دراز

تھے۔ اماں آج تک اس کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے



”نہیں آئی مجھے پڑھنے کے علاوہ دوسرا کوئی شوق نہیں تھا۔ سولس پڑھائی، پڑھائی اور بس پڑھائی.....“ وہ مسکرائی۔

”چندا! پڑھنے کے علاوہ بیوٹی پارلر سلائی کڑھائی وغیرہ سے متعلق بھی کام آنا چاہیے لڑکیوں کو۔“

”میری امی بھی یہی کہتی ہیں امی بہت اچھی بیوٹیشن اور ہیئر ایکسپرٹ بھی رہ چکی ہیں لیکن خاندان کی حد تک مگر آئی امی کی بیماری نے انہیں کسی قابل نہیں چھوڑا۔“

”اللہ کرم کرے گا۔ تم میرا کارڈ رکھ لو۔ میرا پارلر ہے۔ میں وہاں لڑکیوں کو بیوٹیشن کے طور پر ایکسپرٹ بھی کرتی ہوں اور میرا دعویٰ ہے کہ میرے پارلر میں کام کرنے والی لڑکی قسمت بنا جاتی ہے۔“ انہوں نے لائف بیوٹی پارلر کا کارڈ پرس سے نکال کر اُسے دیا۔

”لائف بیوٹی پارلر“ اس نام پر وہ حیران ضرور ہوئی۔

”ارے تعجب کس بات کا ہو رہا ہے۔ سب کچھ لائف ہی کے ساتھ تو ہے۔“ وہ مسکراتے ہوئے بولیں اور اس نے بھی کارڈ اپنے پاس رکھ لیا۔

☆.....☆.....☆

اگلے دن Life Beauty Parlour کے سامنے کھڑی تھی۔ صفیہ نے اُسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اور پھر اُس چھوٹے مگر چلتے ہوئے پارلر میں اُس کی ٹریننگ اشارت ہو گئی۔

کہتے ہیں جس کام میں دل لگا کر محنت کی جائے اُس کا نتیجہ بھی بہت بہتر سامنے آتا ہے۔ دو ماہ کی محنت میں سب سے بہترین بیوٹیشن بن گئی تھی۔

☆.....☆.....☆

کئی دنوں سے سدرہ بیگم کابی پی ہائی ہو رہا تھا۔ سر میں درد اور چکر بھی بہت آرہے تھے۔

”امی! آپ آج ڈاکٹر کو دکھانے ضرور چلی جائیے گا۔ میں گاڑی اور ڈرائیور کو بیچ دوں گا۔ میں آپ کو خود لے جاتا مگر آج کل کلینک میں مریضوں کا بہت رش ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں ڈائریا کی وہاں پھیلی ہوئی ہے۔“

عظیم نے صبح ہاسپٹل جاتے ہوئے کہا۔

”ارے چھوڑو بیٹا! تم خود کیوں نہیں دوا لکھ دیتے“

میں بہت الجھتی ہوں مریضوں کی لائن میں بیٹھنے سے۔“

سدرہ بیگم نے کہا۔

تیل ڈالا کرتی تھیں اور باقی خوبصورتی لائف بوائے شیمپو پوری کر دیتا تھا۔ ابا ایک کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وقت بہت اچھا نہیں تو برا بھی نہیں تھا۔ وہ بی ایس سی کے فائنل ایئر میں تھی کہ ابا اچانک ہی چل بسے۔ اماں نے اپنے سلیقے سے جو تھوڑی بہت رقم پس انداز کی تھی وہ کچھ ابا کے کفن دفن وغیرہ میں اٹھ گئی باقی بیٹھے بیٹھے ختم ہونے لگی۔

بی ایس سی کا رزلٹ آیا تو اس نے جاب کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس بھرے پرے شہر میں جہاں لاکھوں نوجوان اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں اٹھائے خوار ہو رہے تھے وہاں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی مگر ہر جگہ تجربہ مانگتے تھے وہ تجربہ کہاں سے لاتی، ایک آدھ جگہ بات بنتی دکھائی دی مگر ان لوگوں کی آنکھوں سے پھلکتی ہوس کی اس سے چھپی نہ رہ سکی، سو جاب کی تلاش کا یہ سلسلہ ہنوز جاری تھا مگر آج تو وہ بہت ہی بد دل ہو کر واپس آئی تھی۔ اس نے باہر جا کر جاب تلاش کرنے کا فیصلہ موقوف کر دیا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کون تھا۔ نہ باپ نہ بھائی وہ تنہا زمانے کے سرد و گرم کا کہاں مقابلہ کر سکتی تھی۔

☆.....☆.....☆

وہ بس میں بیٹھی اسی مسئلے پر مستقل سوچ رہی تھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اچانک اس کے پاس بیٹھی خاتون نے اُسے مخاطب کیا۔

”کیا بات ہے بیٹی؟ بہت پریشان دکھ رہی ہو۔“

وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ”نہیں آئی بس ایسے ہی۔“

وہ شفقت سے مسکرائیں۔ ”کیا کرتی ہو، پڑھتی ہو یا جاب کرتی ہو؟“

”آئی بی ایس سی ہوں۔ جاب کے لیے تلاش جاری ہے مگر.....“

”مگر کیا..... یقیناً وجہ یہی ہوگی کہ لوگ ضرورت مندوں کو پورا کیش کر کے پیسہ دینا چاہتے ہیں۔ آہ! کب بدلے گا نظام۔ کب نوکری ایمانداری سے ہر بندے کو ملے گی۔“

”انشاء اللہ آئی! مجھے ضرور نوکری ملے گی۔ میں اپنے خدا پر پورا بھروسہ رکھتی ہوں اور پھر اپنی محنت پر۔“

”اللہ تمہارے مان کو سلامت رکھے۔ بیٹی یہ بتاؤ کہ پڑھائی کے علاوہ بھی کوئی کورس وغیرہ کیے ہیں تم نے۔“



ہے۔“ اس نے کہا۔

”نارتھ کراچی میں۔“ انہوں نے مایوسی سے دہرایا پھر پوچھا۔ ”تمہارے بہن بھائی کتنے ہیں اور والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟“

”گھر میں صرف میں اور اماں ہی ہیں۔ بہن بھائی کوئی ہے نہیں اور والد صاحب کا چند ماہ پیشتر ہی انتقال ہوا ہے۔“ اس نے جواب دیا۔

”تو کیا گزر بسر کرنے کے لیے تم کوئی جاب کرتی ہو یا والد صاحب بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں؟“ انہوں نے مزید پوچھا۔

”جاب بہت تلاش کی مگر نہیں مل سکی بس اب میں ایک پارلر میں جاب کرتی ہوں۔“ اس نے کہا۔

اتنے میں اس کا نمبر پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سدرہ بیگم اس کے پارلر کا نام پوچھتی پوچھتی ہی رہ گئیں۔

☆.....☆.....☆

سدرہ بیگم اس رات دیر تک سبن کے بارے میں سوچتی رہیں۔ اس لڑکی میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جیسی وہ اپنے عظیم کی دلہن میں چاہتی تھیں مگر وہ اتنے غریب گھرانے میں اسے عظیم کی شادی نہیں کر سکتی تھیں۔ آخر اس کا کوئی اسٹیٹس ہے وہ اپنے ملنے جلنے والوں سے کیا کہے گا کہ اس نے ایسے گھرانے میں شادی کیوں کی ہے اور شاید یہی سیشن تھی کہ ان کا بی بی نارمل نہیں ہو رہا تھا حالانکہ وہ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تمام دوائیں پابندی سے لے رہی تھیں۔

اس روز عظیم نے کہا کہ آپ آج اور جا کر ڈاکٹر سے ملیں اور انہیں اپنی ساری کیفیت بتائیں اور اس بار بھی جب وہ ڈاکٹر کے کلینک پہنچیں تو سبن کو وہاں پہلے سے موجود پایا۔ وہ اس سے کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ ان کی نگاہ اس کے ساتھ بیٹھی خاتون پر پڑی اور وہ بری طرح چونک پڑیں۔ گھڑی کی چوتھائی میں وہ پچیس سال پہلے اپنے باضی میں پہنچ گئیں۔ وہ اور کوئی نہیں ان کی اسکول کی دوست حلیمہ تھیں۔

”تم حلیمہ ہو ناں؟“ انہوں نے حیرت انگیز پرسرت لہجے میں پوچھا۔

”ہاں میں حلیمہ ہوں اور تم سدرہ؟“ انہوں نے کہا۔

”آج کتنے عرصے کے بعد تمہیں دیکھا ہے۔ کیسی

”نہیں امی ڈاکٹر انیل شوگر کے اسپیشلسٹ ہیں اور وہی آپ کا علاج کر رہے ہیں تو آپ کو ان ہی کے پاس جانا چاہیے۔ میں ان سے فون پر بات کر لوں گا۔“ عظیم نے کہا اور انہیں تاکید کرتے ہوئے نکل گئے۔

صبح گیارہ بجے ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا تو سدرہ بیگم کو مجبوراً ڈاکٹر انیل کے کلینک جانا پڑا۔

وہی ہوا جس بات سے انہیں گرفت ہوتی تھی۔ مریضوں کا اچھا خاصا رش تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ عظیم نے فون کر کے ٹائم لے لیا تھا۔ وہ وہاں پہنچیں تو ریسپشن پر انہیں ان کا نمبر بتا دیا گیا۔ کلینک میں ڈاکٹر کے روم کے باہر صوفے اور کرسیاں رکھی تھیں۔ صوفے بھر چکے تھے کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئیں اور وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگیں۔ اچانک ان کی نگاہ قریبی صوفے پر بیٹھی سبن پر پڑی تو ان کی نگاہیں تو جیسے ہٹنا ہی بھول گئیں۔ اتنی حسین اتنی دلکش اور اتنی ہی معصوم صورت اور گھنیرے لائے بال! وہ ایسی لڑکی ہی تو چاہتی تھیں۔

نہ جانے کون ہے کس گھر کی بیٹی ہے کیا خاندان ہے وہ سوچتے ہوئے غلطی باندھے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔

اچانک سبن کی نگاہ سدرہ بیگم پر پڑی اور اس نے جو انہیں یوں اپنی جانب محویت سے تکتے دیکھا تو جھینب گئی۔

سدرہ بیگم بھی اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندہ سی تھیں۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے وہ دھیرے سے مسکرا دیں۔

”السلام علیکم!“ اس نے بھی جواباً دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ مترنم لہجے میں کہا۔

”جیتتی رہو!“ انہوں نے خوش ہو کر کہا پھر قدرے حیرانی سے پوچھا۔ ”کیا تم اپنے چیک اپ کے لیے آئی ہو؟“

”جی نہیں آنی میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کل تو وہ آئی تھیں مگر آج ان کی طبیعت کافی خراب ہے اس لیے میں تنہا ہی آئی ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو اماں کی کنڈیشن بتا سکوں۔“

”اچھا اچھا!“ انہوں نے بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔

”کیا نام ہے تمہارا اور کہاں رہتی ہو؟“ وہ جلد از جلد اس لڑکی کا ہاتھ جان لینا چاہتی تھیں اس لیے موقع ملتے ہی جھٹ نام و پتا پوچھ ڈالا۔

”سبن اور میں نارتھ کراچی سے آئی ہوں۔ کافی دور ہے مگر کیوں کہ ڈاکٹر اچھے ہیں اس لیے آنا پڑتا

ہے۔“



بوائے شیمپو والی بہو..... جس کے لمبے، سیاہ، لہراتے بال ہوں۔ یعنی عظیم کی دلہن مل ہی گئی۔“  
”بالکل بالکل! بھئی میں تو سچ میں خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔“

☆.....☆.....☆

دوسرے دن سدرہ بیگم اپنے بیٹے عظیم اور صفیہ کو لیے اپنی سہیلی حلیمہ کے گھر موجود تھیں۔ عظیم نے سین کو سدرہ بیگم کی طرف سے ایک گفٹ پیک دیا تھا۔  
”بیٹی تم اسے کھولو تو ذرا ہمارے سامنے۔“ سین نے سدرہ بیگم کے کہنے پر گفٹ پیک کھولا۔ اندر سے لائف بوائے شیمپو کے تین بڑے شیمپو نکلے۔  
”اس کا مطلب جانتی ہو۔“ صفیہ بیگم نے سین کو

شہو کا دیا۔

”اس کا مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو۔“ عظیم کھل کر مسکراتے ہوئے بولا۔

”میری ماں کی خواہش ہے کہ ان کی بہو لہراتے ہوئے بالوں والی ہو۔ گھنے سیاہ چمکدار بال ان کی کمزوری ہیں۔ آپ جب یہ لائف بوائے شیمپو استعمال کریں گی تو ان کی فیورٹ بہو بن کر ہماری ہو جائیں گی۔“

”ارے واہ..... ہم سے تو پوچھا نہیں اور بہو بھی بنالی۔“ اب حلیمہ بیگم بولی تھیں۔

”تم سے بھی اگر پوچھ کر بیٹی کو بیٹی بنایا تو کیا فائدہ..... یہ تو لائف نہ ہوتی.....“ سدرہ بیگم نے حلیمہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔

”آج سے آپ کی لائف ہماری لائف ہوئی۔“ صفیہ نے کہا تو اچانک سین بول اٹھی۔

”ایک منٹ..... میری امی مجھے لائف بوائے شیمپو ہی بچپن سے استعمال کراتی ہیں۔ اگر آج لائف بوائے نہ ہوتا تو آئی بہو کے سلسلے میں اس قدر ایکسٹنڈ نہ ہوتیں اور میں ان کی بہو نہ بنتی۔ Thank You لائف بوائے کا ہونا۔“

”Thank You Life Bouy“  
Shampoo۔ تم نے آئیڈیل ملا دیے۔“

سب کے مشترکہ قہقہے ایک ساتھ بلند ہوئے تھے۔

☆☆.....☆☆

ہو؟ کہاں رہتی ہو؟ کتنے بچے ہیں؟“ انہوں نے ایکساٹنڈ ہو کر ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔

”ارے آرام سے بھئی ایک ایک کر کے پوچھو۔ اچھا ٹھہرو میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں۔“ انہوں نے سدرہ بیگم سے کہا اور اٹھ کر ان کے برابر میں جا بیٹھیں پھر بولیں۔ ”کیسی ہوں یہ تم دیکھ ہی رہی ہو شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں اس لیے تمہیں یہاں دکھائی دے رہی ہوں۔ تارحہ کراچی میں رہتی ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملوانی ہوں دیکھو سین!“ حلیمہ نے سدرہ بیگم کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد سین کو مخاطب کیا تو انہیں خوشگوار سی حیرت ہوئی۔

”ارے یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ماشاء اللہ بہت پیاری بیٹی ہے کل میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور بھئی میں سچ کہوں کہ تم بہت ہی خوش نصیب ہو جو اتنی پیاری بیٹی اللہ نے دی ہے۔“

”تم ٹھیک کہہ رہی ہو سدرہ! واقعی یہ بہت ہی پیاری بیٹی ہے بس تم یوں سمجھ لو کہ اب تو یہی میرا کل سرمایہ ہے۔ اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔“ حلیمہ نے محبت پاش نگاہوں سے سین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو نہایت دلچسپی سے پھڑکی ہوئی سہیلیوں کی اس ملاقات کو دیکھ رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

جب سے سین کے منہ سے سدرہ بیگم نے Life Beauty Parlour کا سنا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر صفیہ کے پاس پہنچ جائیں۔

گھر آتے ہی انہوں نے صفیہ کے پارلر میں دوڑ لگائی۔  
”خیریت تو ہے؟“

”ہاں بس..... اللہ کا شکر ہے۔“  
”اتنی بھگم بھاگ آنے کی وجہ تو بتادو۔“

”صفیہ مجھے یہ بتادو کہ لائف تم نے اپنے پاس چھپا رکھی ہے۔“

”کیا مطلب؟“  
”ارے بہن تم نے میری لائف، میری سین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور.....“

”واہ..... اچھا تو یہ بات ہے۔ تو تمہیں اپنے لائف

READING  
Section



ناول  
رفعت سراج

دامِ دل

قسط 10

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ حقیقتیں، جو دھڑکنیں  
بے ترتیب کر دیں گی، رفعت سراج کے جادوگر قلم سے

یا اور کو کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس شوہر کی بیوی لیبر روم میں ہوا سے لیبر روم  
سے یا ہر کھڑے خیر خواہوں کے چہروں سے اپنے ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ اگر وہ تاخیر سے پہنچا ہو  
تیسری بار رحمت برسنے کی خبر یوں سنائی گئی ہو جیسے زمانہ جاہلیت کا دور اپنی جگہ موجود ہو اور صدیوں کا سفر



Downloaded From  
Paksociety.com

READING  
Section



کسی تبدیلی کے بغیر طے ہوتا رہا ہو۔  
حامد حسین تو طنز کے نشتر برسا کر پاؤں پٹختے ہوئے وہاں سے چلے گئے مگر فردوس کو تو دل کی بھڑاس نکالنا باقی تھا۔

سر پر رکھ کرنا جو اپنی بیٹی اور اس کی تین بیٹیوں کو.....

ایسے نہ کہیں ایمن میری بیٹی ہے مگر اس کی تین بچیاں تو آپ کا اپنا خون ہیں..... عطیہ بیگم اخلاقیات نہیں بڑھا رہی تھیں بلکہ فردوس کا منہ بند کرنے کی بے ساختہ سی کوشش کر رہی تھیں جس کے منہ کے آگے خندق تھی..... مبادا وہ کچھ سننے کو ملے جس کی تاب لانا مشکل ہو۔

ارے پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیں کان..... ہم بھر پائے دور تک صرف خرچہ ہی خرچہ..... فردوس غرانے لگی۔

بیٹے بھی بغیر خرچے کے نہیں ملتے..... ان کا خرچ تو زیادہ ہوتا ہے..... زیادہ کمانے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں..... خدمت تو بس بیٹی ہی کرتی ہے آخر تک ماں باپ کا ساتھ دیتی ہے عطیہ بیگم نے فردوس کو ٹھنڈا کرنے کی مقدور بھر کوشش کی۔

بیٹے خرچہ کرواتے ہیں..... بہولا کھوں کا جہیز بھی لاتی ہے۔

لڑکا قابل ہو تو بڑے سے بڑا ریکس اسے اپنا داماد بنانا چاہتا ہے..... اب زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں.....

عطیہ بیگم کو صدے سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ یاور ابھی تک بالکل خاموش کھڑا تھا اس نے اپنی ماں کو تکلفاً بھی خاموش کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔

بیٹا..... تم تو کچھ بولو..... جو روح دنیا میں آئی ہے وہ تو تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے..... ماں کو سمجھاؤ بیٹا..... اب عطیہ بیگم کے پاس یاور کو مخاطب کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ فردوس نے کڑے تیور کے ساتھ یاور کو گھورا۔

آٹھی میں اپنے پیرینٹس کی واحد اولاد ہوں..... میری کوشش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔

آج میں جو کچھ بھی ہوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے ان ہی کی وجہ سے ہے۔“

میں امی کو لے کر گھر جا رہا ہوں..... آپ ایمن کا خیال رکھیے۔ یہ کہہ کر یاور نے فردوس کو چلنے کا اشارہ کیا..... عطیہ بیگم دکھ و حیرت سے پتھر ہونے لگیں۔

بچی کو نہیں دیکھو گے.....؟ وہ بمشکل پوچھ رہی تھیں۔ آنسوؤں کے پھندے حلق میں اٹک رہے تھے۔  
ماشاء اللہ..... نانا..... نانی..... خالہ، خالو..... رشتے دار محلے والے ہیں ناں..... جی بھر کر دکھاؤ.....  
چلو یاور میری تو بلڈ پریشر کی گولی بھی جلدی میں رہ گئی۔ اب مجھے یہ تھوڑی ہی پتا تھا کہ منحوس خبر سننے کو ملے گی۔

فردوس نے یاور کا بازو دوچا اور یوں کھینچتی ہوئی آگے بڑھی جیسے بچے نے بھرے بازار میں ایسی چیز کی فرمائش کر دی ہو جو پوری کرنا ماں کے بس میں نہ ہو اور وہ روتے ہوئے بچے کو کھینچتی ہوئی لے جا رہی ہو۔





Downloaded From  
Paksociety.com

3-A 2015





عطیہ بیگم دونوں کو اس وقت تک دیکھا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے.....  
چار قدم کے فاصلے پر جنت کا تازہ پھول باپ کا منتظر ہی رہ گیا..... جس نے اسے جنت سے زمین پر  
بلانے کے لیے بڑی اونچی آواز میں پکارا تھا۔

☆.....☆.....☆

چمن ماہ وش کو نوڈلز کھلا رہی تھی۔ برابر میں ماہ پارہ خود ہی کھا رہی تھی۔ چمن کے کان فون کی رنگ پر  
یوں لگے ہوئے تھے.....

جیسے مرغی چوزوں کے ساتھ دانہ چگتے ہوئے چوکس رہتی ہے اور اپنے روہانی راڈار پر چیل کی آمد کا  
سگنل وصول کر لیتی ہے۔

ماہ وش کو کھلاتے کھلاتے بے نظریہ نظر موبائل پر پڑ جاتی تھی جیسے اس کی چھٹی حس نے مطلع کر دیا تھا کہ فون  
ملانے کی نوبت آگئی ہے فون کی کھٹکتی کے ارتعاش نے ماحول میں نئے سرے سے زندگی کی اہمیت کو اجاگر  
کیا۔

خالہ..... ماما کا فون ہے..... ماما سے پوچھیں..... بھائی کو لے کر آ رہی ہیں ناں.....  
چمن نے باؤل رکھ کر لپک کر فون اٹھایا۔ کال کے نام پر امی کا نمبر Blink ہو رہا تھا۔  
عطیہ بیگم ہی کال کر سکتی تھیں..... اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسو کی۔  
ماہ پارہ قریب آ کر سر اٹھا کر چمن کی طرف دیکھ رہی تھی۔

السلام وعلیکم امی..... خیریت ہے ناں..... بس آپ کے فون کا ہی انتظار کر رہی تھی۔  
خالہ نانو سے پوچھیں بھائی زیادہ مہنگا تو نہیں ہے.....؟ ماما کے پاس بہت سارے پیسے ہیں..... پاپا  
نے دیے تھے..... میں نے خود دیکھا تھا۔

ایک طرف ماہ پارہ بول رہی تھی..... دوسری طرف عطیہ بیگم.....  
چمن..... بیٹا..... تمہیں اللہ نے ایک اور بہت پیاری سی بھانجی سے نوازا ہے..... اللہ نیک نصیب کر  
ے آمین۔

میں ایمن اور بیٹی کو لے کر گھر چلی جاؤں گی تم دونوں بچیوں کو لے کر میری طرف ہی آ جانا.....  
امی..... چمن کے پتھر لیے وجود نے بمشکل زندگی تھری.....  
ایمن میں زیادہ بات نہیں کر سکتی..... خدا حافظ بیٹا.....

یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا..... ایمن بیٹی کو جنم دیتی پھر دو تین مہینے ماں کے گھر گزارتی۔  
پہلی بار تو اس لیے ہوا کہ پہلی زچکی تھی..... دوسری بار اس لیے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل گیا تھا  
کہ دوسری بھی بیٹی ہے۔

تیسری بار..... اگر بیٹی ہوئی تو وہی ہونا چاہیے جو دوسری بار ہوا تھا خالہ نانو نے فون بند کر دیا.....؟  
بھائی نہیں ملا.....؟ نانو سے بولیں پاپا اور پیسے دے دیں گے..... پاپا کے پاس بہت سارے پیسے ہیں.....  
چمن نے اپنے اندر آنسوؤں کے طوفان کی زبردست ہلچل محسوس کی مگر معصوم بچیوں کی خاطر قیامت  
کے ضبط سے گزری.....



جھک کر منہ پارہ کو گلے سے لگا لیا اس کے گال پر بوسہ دیا۔

میری جان..... بھائی پیسوں سے نہیں ملتے.....

بھائی پیسوں سے ملتا تو کسی کو کبھی بہن نہ ملتی۔

اللہ میاں نے آپ کے لیے ایک بہت پیاری باربی ڈول جیسی بہن جنت سے گفٹ کی ہے۔

بہن.....؟ تو پھر بھائی کو لینے بعد میں جائیں گے.....؟ مہوش نے پہلی بار اپنی معصومانہ مایوسی کا

مظاہرہ کیا کیوں کہ وہ تو اپنی کلاس فیلوز کو بھی مطلع کر چکی تھی کہ اس کی ماما بھائی لینے گئی ہیں۔

ہاں بیٹا..... بھائی کو لینے بعد میں جائیں گے۔

خالہ..... کیا کل جائیں گے..... مہوش نے بڑی بے صبری سے پوچھا تھا بہت دنوں کے بعد..... ماما

..... بہت تھک گئی ہیں بیٹا.....

اب چمن سے ضبط کا محال تھا کہ وہ بچیوں کو چھوڑ کر جلدی سے واش روم میں گھس گی..... واش بیسن کا

Tap کھولا اور منہ پر چھینٹے مارنے لگی..... آنسو اور پانی دونوں چہرہ ساتھ ساتھ دھل رہا تھا۔ وہ زمانہ

جاہلیت کی عورت کی طرح بیٹی کی خبر سن کر نہیں رو رہی تھی رونا تو بے قصور بہن کی بے کسی پر آ رہا تھا۔

جو اس وقت خیمہ زن ضرور ہو گئی تھی۔

مگر شب خون کے خطرے سے تو نجات نہیں تھی۔

☆.....☆.....☆

تھوک کر چاٹا تھا..... منہ کی کھا کر واپس آئی تھیں..... آتے ہی بہن کا بچہ پیدا کروانے واپس چلی

گئیں۔

خیر سے تیسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے خوش فہمی یہ ہے کہ تخت پاکستان کے لیے ولی عہد پیدا ہو رہا ہے..... بانو

آپا کی راج دلاری دوست بھس میں چنگاریاں چھوڑنے صبح ہی آدھمکی تھیں اور آتے ہی حسب ذائقہ ڈش

بھی تیار ملی تھی۔

ارے اب دھرے ہیں تخت و تاج..... جن کے پاس ہیں وہی یوں سنبھال رہے ہیں جیسے سیلاب کے

پانی میں بہتے اپنے چار برتن بچانے کی کوشش کر رہے ہوں.....

رخسانہ نے اپنے مخصوص اکل کمرے انداز میں دوست کی حالات پر حاضرہ پر عملی کوتاہی کو تنقید کا نشانہ

بنایا۔

ارے میں نے تو مثال کے طور پر کہا تھا..... بانو آپا نے خفت مٹائی بہو کی بہن تو تیسری مرتبہ ماں بن

رہی ہے..... اپنی بہو کی سمجھاؤ رخسانہ نے بی جمالو کی روح کو عقیدت مندانہ سلام ارسال کیا۔ کیا

سنائیں..... نہ ساون سوکھے نہ بھادوں ہرے..... ارے بیٹا ہی پٹھے ہاتھ ہاتھ دھرنے نہیں دے رہا.....

میں تو آج ہی اس کی دوسری شادی کر دوں..... لڑکی بھی دیکھ لی ہے..... خود ہی دیکھ لی..... بیٹے کو بھی دکھا

دو..... مرد ذات کو پھسلتے دیر نہیں لگتی۔

رخسانہ نے بانو آپا کی بار درمیان میں جو اچک لی جیسے بھوکا دونوں ہاتھوں سے دسترخوان پر ٹوٹا پڑ رہا



بھیا..... کیا جتن نہیں کیے..... کسی پھونک جھاڑ میں اتر نہیں..... مجھے تو اپنی بہو ہی کوئی بدروح لگتی ہے جو بچے گاڑ کر میرے بیٹے سے چمٹ گئی ہو۔

شکست خوردہ بانو آپا کے زہریلے لہجے نے چند ثانیے کے لیے رخسانہ کو بھی گولگوسا کر دیا۔  
پھنس گئی ہوں گی کسی دو نمبر عامل کے پاس..... شہداد پور میں میری پھوپھو رہتی ہیں ان کے پڑوس میں ایک پیر صاحب ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں..... مگر اب تم کہو گی کہ شہداد پور تو بہت دور ہے۔  
ارے میرے اندر جو تڑپ ہے آگ برابر ہے۔ چین نہیں ہے، ایک پل شہداد پور چھوڑو..... میں تو شکا گو بھی چلی جاؤں گی۔ بانو آپا نے بے صبری سے تلخ کلامی کی تھی۔ اچھا تو پھر..... رذخسانہ نے بانو آپا کے کان میں کالی کا منتر بڑھنا شروع کر دیا۔  
حالانکہ اونچا بھی بولتیں تو دیواریں ہی سنتیں مگر عادت سے مجبور تھیں۔

☆.....☆.....☆

بچی نرسری میں اور ایمین ICU میں پہنچ گئی تھی۔

بچیاں مشکور احمد کے پاس تھیں۔

چمن پر شان حال ماں کی دلجوئی میں مصروف تھی۔

امی آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا..... یا اور بھائی وقتی شاک اور ماں کے تاثرات کی وجہ سے چلے گئے ہوں گے گھر جا کر آرام سے سوچیں گے تو احساس ہوگا کہ دنیا میں آنے والی بچی انہی کے وجود کا حصہ ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں ابھی تو سارا دھیان اپنی بچی کی طرف ہے..... جیسے ابھی تک ہوش نہیں آیا..... عطیہ بیگم کی آواز گلوگیر ہو گئی۔

انشاء اللہ..... آپا کو ہوش آ جائے گا..... کمزور بھی تو بہت ہو گئی ہیں..... دن رات کڑھتی رہتی ہیں..... آپ دعا کریں..... چمن نے عطیہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے دبا یا۔  
دعا کے علاوہ میرے پاس اور کیا ہے.....؟ کن درندوں میں پھنسا دیا تھا میں نے اپنی بیٹی کو..... تم تو پھر بھی بول پڑتی ہو اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے..... ایک آہ سرد عطیہ بیگم کے سینے سے آزاد ہوئی۔

بس یہی تو کمزوری تو ان ظالموں کے ہاتھ لگ گئی..... ظالم کو بے بسی اور بے زبانی بہت اچھی لگتی ہے امی..... مگر ظالم اللہ کی مدد اور رحمت سے محروم ہوتا ہے..... جب اس کا برا وقت آتا ہے تو اس کی دعائیں اثر سے خالی ہوتی ہیں..... اس سے زیادہ بدنصیب اور کون ہوگا جس کے پاس دعا کا بھی سہارا نہ رہے۔

چمن نے ماں کا ہاتھ چوم لیا.....

ٹھیک کہا میری بیٹی..... اللہ تمہیں استقامت دے..... بڑا حوصلہ ہے۔

تم میں آج ماں کی لاشی بن رہی ہو..... ورنہ میں تو جیسے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں۔

حوصلہ امی..... حوصلہ بس..... اچھا سوچیں..... اپنی بیٹی کا سوچیں..... دنیا کو بھول جائیں..... دنیا تو بنتے بنتے لوگوں کا ساتھ دیتی ہے۔



# دنیائے کمال میں کس جگہ

## سچی کہانیاں کے چرچے ہیں

اس لیے کہ ”سچی کہانیاں“ کے مصنفین پیشہ ور لکھنے والے نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقتوں اور سچائیوں کو برتتے دیکھتے محسوس کرتے اور ہمیں لکھ بھیجتے ہیں۔ ”سچی کہانیاں“ کے قارئین وہ ہیں جو سچائیوں کے متلاشی اور انھیں قبول کرنے والے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ”سچی کہانیاں“ پاکستان کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا اپنی نوعیت کا واحد ڈائجسٹ ہے۔ ”سچی کہانیاں“ میں آپ بتائیں جگہ بتائیں اعترافِ جرم و سزا کی کہانیاں، ناقابلِ یقین کہانیاں، دلچسپ و سنسنی خیز سلسلے کے علاوہ مسئلہ یہ ہے اور قارئین دُریہ کے درمیان دلچسپ نوک جھونک احوال۔ سب کچھ جو زندگی میں ہے وہ ”سچی کہانیاں“ میں ہے۔

**پاکستان کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا۔ اپنی نوعیت کا واحد جریدہ**

ماہنامہ ”سچی کہانیاں“ پرل پبلی کیشنز : II-C-88 فرسٹ فلور۔ خیابان جامی کراچی۔

ڈیسٹری بیوٹرز: ہاؤسنگ اتھارٹی۔ فیر۔ 7، کراچی فون نمبر: 021-35893121-35893122

ای میل : [pearlpublications@hotmail.com](mailto:pearlpublications@hotmail.com)

روشنیزہ 41

READING  
Section



بیٹا دنیا کو ایک طرف کرو..... یاد رکھیے منہ پھیر کر ماں باپ کے ساتھ چلا گیا..... خون کے رشتوں کے لیے خون سفید ہونا بولتے ہیں باپ کا خون کا رشتہ ہی نہیں ہوتا..... اولاد تو اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہے میری بیٹی بے ہوش ہے اور بے ہوشی اس کے لیے نعمت بن گئی ہے ورنہ یاد رکھیے اس طرح چلے جانے سے اس پر کیا قیامت تو تھی۔

اب عطیہ بیگم کو ضبط کا یارا نہ رہا..... پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں چمن نے بڑے بے ساختہ انداز میں عطیہ بیگم کا سراپے سینے سے لگا لیا۔

امی جو ہونا طے ہو چکا..... اس سے آنکھیں ملائیں..... ہر اس خوف سے گزر جائیں جو صرف خوف ہوتا ہے موت نہیں..... امی موت سے پہلے کون مرا ہے..... یہ خوف تو ہمیں روز مارتے ہیں مگر ہم پھر بھی زندہ ہیں..... ایک نئی مشکل ایک نئی آزمائش سے لڑنے کے لیے.....

وہ ماں کو اس وقت بچوں کی طرح بہلا رہی تھی..... کب ختم ہوگی آزمائش..... ایک کے بعد ایک نیا سلسلہ..... عطیہ بیگم نے سسکی لی..... کبھی تو ختم ہوگی..... اس نے عطیہ بیگم کے آنسو اپنے آنچل سے پونچھتے ہوئے بہت یاسیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔

امی..... یہ راستے ہیں ہم ان سے گزر رہے ہیں..... چلتے رہتے ہیں..... رک رک کر کیوں سوچیں کہ کتنا چل سکے..... کتنا رستہ باقی ہے..... ہیں نا امی..... بس چلتے رہتے ہیں رک رک کر سوچیں گے تو سفر مزید بڑھ جائے گا۔

تم اس وقت بالکل اپنے باپ کی طرح باہمت نظر آ رہی ہو ماشاء اللہ تمہیں ہمت و استقامت دے۔ عطیہ بیگم کو بیٹی کے حوصلے سے نئی قوت مل رہی تھی۔

امی آپ نے ایک مرتبہ ایمن آپا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو ہمارے بچے ہیں ہم پالیں گے.....

تو امی آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں ہمارے دکھ ہیں..... ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ عطیہ بیگم نے بے اختیار چمن کی پیشانی چوم لی.....

جیستی رہو میری بیٹی..... تم تو دس بیٹوں پر بھاری ہو..... اللہ تمہارے ہر مسئلے میں آسانی پیدا کرے..... آمین..... تم آمین.....

ہم دونوں بہنوں کو بس آپ کی دعائیں چاہیں امی..... چمن نے ماں کے کندھے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔

ماں کا قرب، جنت کی نقرئی دودھیا فضاؤں کی جھلکیاں دکھا رہا تھا۔ جو آزمائشوں کا ایمان و ثابت قدمی میں سے مقابلہ کرنے والوں کی دائمی اور حتمی منزل ہے۔

☆.....☆.....☆

آپ کے نانا جان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے مگر ابھی آپ کو آفس نہیں آنا چاہیے..... وہ بہت کمزور اور بوڑھے ہیں۔ خدا نخواستہ اکیلے میں چلتے ہوئے گر سکتے ہیں..... اس

روشنیزہ 42

READING  
Section



وقت ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ ثمر بہت نرمی اور ہمدردی سے ندا کو سمجھا رہا تھا۔  
لیکن سر..... ہم بہت مشکل میں ہیں..... ہم پر بہت قرض چڑھ چکا ہے ماموں تو تین چار مہینوں کے  
بعد 1000 ڈالر بھیجتے ہیں.....

1000 ڈالر ثمر جیسے اپنی سیٹ سے اچھل ہی پڑا بوقت تمام اپنی حیرانی کو لگام دی۔  
جی سر..... 1000 ڈالر..... اب اتنی مہنگائی کے دور میں کیا صرف 1000 ڈالر میں گزارا ہو سکتا  
ہے۔ ندا اپنی اذلی حماقتیں چہرے پر سجا کر پٹر پٹر بول رہی تھی نگر نگر دیکھ رہی تھی۔  
آپ کو پتا ہے 1000 ڈالر کے پاکستانی روپے کتنے بنتے ہیں.....؟

جی..... پتا ہے ایک لاکھ Some thing..... ندانے بڑی لا پرواہی سے جواب دیا۔  
تو آپ صرف دو ہی تو ہیں..... تین مہینے تک آرام سے کھانا پینا اور Billing وغیرہ ہو سکتی ہے  
اور وہ..... جو..... حکیم صاحب کو نذرانے دینا ہوتے ہیں۔  
تین تین ہزار کے معجون اور کشتے کھلاتے ہیں نانا جان کو.....  
Last month میں نے حساب لگایا تھا..... بارہ ہزار کے تو نانا جان نے صرف کشتے کھائے

..... ہیں  
ان کشتوں نے تو ہمیں مقروض بنا دیا ہے اور مجھے Job کرنی پڑ رہی ہے..... چار مہینے ہم نے بجلی کا  
بل نہیں بھرا..... تو ہماری لائٹ کٹ گئی تھی تب ہی تو مجھے Job کے لیے نکلنا پڑا..... ندانے اس سانس میں  
سالوں کا خلاصہ پڑھ لیا۔

دیکھا جائے تو ندا کو حادق حکیم کے کشتوں کی خاطر Job کرنا پڑ رہی تھی..... ورنہ ہر تین مہینے بعد  
آنے والے 1000 ڈالر میں ٹھیک ٹھاگ گزر بسر ہو سکتی تھی۔  
اس نے ترحم بھر نظروں سے بے وقوف اور حالات کی ماری لڑکی کی طرف دیکھا..... چند ثانیے کچھ سوچا  
..... پھر گویا ہوا۔

آپ فی الحال ایک ہفتے کی چھٹی لے لیجیے..... نانا جان کی دل لگا کر خدمت کیجیے..... اور ایک بہت  
ضروری کام کیجیے اور یہ کام آپ جیسی باہمت، بہادر، عقل مند اور خود اعتماد لڑکی بڑی آسانی سے کر سکتی  
ہے۔

ثمر اس کی اتنی کھل کر تعریف کر رہا تھا اس کی خوبیاں گن رہا تھا ندا کی آنکھیں تو مارے حیرت کے پھٹی  
جا رہی تھیں..... یہ تو اسے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی ڈھیر ساری خوبیوں کی مالک ہے۔  
جلدی سے بتائیے سر میں ضرور کروں گی..... ویسے بھی بہادر تو میں بہت ہوں..... اللہ کا شکر ہے.....  
ندا کی رگوں میں سرگرمی دوڑنے لگی۔

حکیم صاحب کو گھر کے اندر داخل ہونے سے روکیے..... کچھ ایسا کیجیے کہ وہ آپ کے گھر کے گیٹ کے  
سامنے سے گزرنا چھوڑ دیں اور آپ کو دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کریں..... ان کو آپ کے ڈالر کی  
چاٹ لگ گئی ہے۔

آپ کے ڈالر بچیں گے تو آپ کو Job کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ثمر نے بہت سے ضروری کام



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور
- ✦ ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسج کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](http://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety](http://twitter.com/paksociety)



سائیڈ میں کر کے آج ندا کے مسئلے سے نمٹنے کا بیڑہ اٹھایا تھا۔

کیونکہ وہ ایک ہی کام تھا یا تو ندا کو سمجھائے یا اسے Job سے فارغ کر دے۔

کیونکہ وہ ایک ذمہ دارانہ عہدے پر فائز تھا اس کے اپنے بہت مسائل تھے..... اتنا فالٹو وقت نہیں تھا کہ اپنے کولیگنز کے لیے ہمدردی و احسان کا نعم البدل بن جائے۔

ٹھیک ہے سر..... انشاء اللہ..... آج ہی میں ان کا جلوس نکالتی ہوں..... آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے کاش یہ آئیڈیا مجھے خود ہی آجاتا..... پیسے تو بیچ جاتے..... وہ مارے تاسف کے بڑبڑانے لگی۔

اب آپ جائیں..... جب تک مرضی چھٹی کریں آپ کی سیلری سے Decution نہیں ہوگا۔ پوری سیلری ملے گی۔

ندا نے خوشی سے بے حال ہو کر شمر کی طرف دیکھا..... بنڈل آف تھینکس سر..... آپ بہت نیک انسان ہیں۔

No Comments..... شمر نے اب Boss کے ٹون سے اسے ٹوکا ندا ایک دم جامے میں واپس آگئی اور چپ چاپ باہر نکل گئی شمر نے پون آنکھیں بند کیں جیسے سر سے کوئی پہاڑ اتر رہا ہو۔ ایک ہفتہ سکون کی ضمانت تو بہر حال مل گئی تھی۔

☆.....☆.....☆

ایمن کی حالت میں بہت جلدی جلدی تغیرات برپا ہو رہے تھے مگر ابھی گھر والوں کو اس سے ملنے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اسے چند منٹ کے لیے ہوش آیا ہے اور اس نے صرف اپنے بچے کے بارے میں اشارے سے پوچھا تھا جو اسے بتا دیا گیا تھا کہ بچی بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی اور تاحال بے ہوش تھی۔

شمر نے فون کرے چمن سے اپ ڈیٹ لی تھی بھانجی کی مبارک باد بھی دی تھی اس کے بعد کوئی فون نہیں کیا تھا۔

بچی کی حالت بہتر ہوتے ہی اسے نانی کے سپرد کر دیا گیا۔ ہاسپٹل میں بچی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا چمن نے عطیہ بیگم سے کہہ دیا کہ وہ فی الحال بچی کو اپنے گھر لے جائے گی کیونکہ جن حالات میں وہ گھر سے دور ہے وہ اسے مزید دور رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ شمر کا فون نہ آنا اور نہ اس کے آنے کے بارے میں کوئی فکر مندی ظاہر کرنا چمن کے لیے بڑا اعصاب شکن مرحلہ تھا۔

لہذا اس نے بڑی جرأت سے بچی کو گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ بچی کی ماں سے دوری اور ایمن کا ICU میں ہونا شمر کے دل میں لازمی ہمدردی اور تعاون کا جذبہ پیدا کرنے کی وجہ بن سکتا تھا۔ اور وہ زیادہ اعتماد و سکون سے اپنی ماں اور بہن کا ساتھ دے سکتی ہے۔

جبکہ عطیہ بیگم مترد تھیں۔

بیٹا..... شمر سے پہلے اجازت لے لو..... تمہاری تو اپنی زندگی اس وقت بہت مشکل میں ہے وہ اندیشہ ہو کر کہہ رہی تھیں۔

امی میں کون سا آپا کی بچی کو گود لے رہی ہوں جب تک آپا کی حالت نہیں سہلتی تب تک کی بات ہے



پھر بھی بیٹا..... تمہاری ساس۔

امی..... بس آپ چھوڑیں..... حالات اب بھی مخالف ہیں اور شاید آئندہ بھی حق میں نہیں ہوں گے..... جو میں کر سکتی ہوں وہ ضرور کروں گی..... امی اور شمر کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کرتی رہی ہوں وہ سب بے کار ہی رہا ہے..... اب کوئی سچ مچ اچھا کام کر کے دیکھ لوں.....

اس نے ماں کو لاجواب کر دیا۔ اس کی ہمت، جرأت، اعتماد دیکھ کر عطیہ بیگم کے پاس سوائے خاموشی کے کوئی چارہ نہ تھا۔

☆.....☆.....☆

مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ رات شام سے سرگوشیاں کرنے کچھ زیادہ ہی جھک آئی تھی۔ چمن بچی اور اس کے لوازمات کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو پورچ میں شمر کی کار نہیں تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی گھر نہیں پہنچا۔ ایک انجانے اندیشے سے حج بھر کو دل دھڑکا تھا.....

شمر کی موجودگی باعث تقویت بن سکتی تھی..... اب ساس صاحبہ کے بارے میں وہ مترد تھی..... پتا نہیں وہ اس سے کلام بھی کریں گی یا نہیں۔

کئی دن بعد گھر آئی تو بس رات گزاری اور اس سے سامنا ہونے سے پہلے یاور کا فون سن کر پھر گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔

آہستہ آہستہ محتاط قدموں سے اس نے لاؤنج کا رخ کیا۔

وہی ہوا جس کا دھڑکا تھا۔ بانو آ پاسا منے ہی بیٹھی نظر آ گئیں کوئی مشہور انڈین ڈرامہ دیکھ رہی تھیں جس میں ساس نندوں اور بہو کے فسادات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

چمن کے لیے تو وہ تہہ کیے بیٹھی تھیں کہ اب مرتے دم تک اس سے کلام نہیں کریں گی یا وقتیکہ سردوسری شادی کر کے سوت اس کے سر لا کر بٹھا دے۔

مگر چمن کی گود میں بچہ دیکھ کر تو ہسٹری بھول کر حالات حاضرہ پر آ گئیں، زمین قدموں تلے کانپ رہی تھی۔ پورا وجود طیش کی وجہ سے بید کے مصداق سے لرز رہا تھا۔

یہ کیا ہے.....؟ چمن کے سلام کے جواب میں ارشاد ہوا تھا چمن نے بیٹھی نیند سوئی ہوئی بچی کی طرف بہت پیار سے دیکھا تھا۔

یہ کوئی چیز نہیں ہے امی جان..... انسان کا بچہ ہے چمن نے بانو آ پاسا کی Setting ابھی کے ابھی کرنا تھی۔ ورنہ چار دن گزارنا مشکل ہو جاتے۔

اچھا ہمیں سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں کہاں سے اٹھا کر لائی ہو؟

بانو آ پاسا..... شعلہ بانظروں سے بچی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔

اٹھا کر نہیں لائی..... اجازت سے لائی ہوں..... آپا کی حالت خطرے میں ہے وہ مستقل بے ہوش ہیں۔ ابو جان دونوں بچیوں کو سنبھال رہے تھے۔ امی آپا کے پاس ہیں..... اب اس معصوم بچی کو بھی تو

سنبھالنا ہے..... چمن نے بڑی رسائیت سے جواب دیا۔



اوہ..... تو یہ نیا تحفہ دیا ہے تمہاری بہن ہے..... بانو آپا نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔  
اللہ نے دیا ہے..... ایسے تحفے انسان کے بس کی بات نہیں جسے اللہ دے اسی کو ملتے ہیں..... چمن نے  
صوفے پر بیٹھ کر بچی کو احتیاط سے سنبھالا۔  
دینا کو پتا ہے تم تو فارغ ہو۔ کھانے سونے کے علاوہ کوئی کام نہیں..... ورنہ دادی بھی ہیں..... دو دن  
بچی پوتی کو نہیں سنبھال سکتیں..... دیکھو بی بی ہفتہ دس دن برداشت کر لیں گے مگر اس سے زیادہ نہیں.....  
ہمارے آنگن میں پرانے بچے نہیں کھیلیں گے.....  
اور ہاں اس کی چیخ پکار کی آواز میں نہ سنوں..... اسے اپنے کمرے میں ہی رکھنا..... یہ کہہ کر وہ اپنے  
حساب سے پاؤں پچھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھیں۔ عین اسی وقت گیٹ پر شمر کی کار کا ہارن سنائی دیا۔  
گیٹ تو چوکیدار نے کھولنا تھا..... مگر چمن اور بانو آپا دونوں ہائی الرٹ ہو گئیں۔  
شمر کو بتایا ہے اس کا.....؟ بانو آپا نے بچی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا چمن نے نفی میں سر ہلا دیا۔

☆.....☆.....☆

شمر اس سے پیشتر گاڑی پورچ میں لاتا گیٹ واہوتے ہی ندا کی کال آ گئی..... پہلے تو شمر نے سوچا کہ  
اٹینڈ نہ کرے۔ فریش ہو کر کال بیک کرے یا اس کی دوسری کوشش پر رد عمل کرے۔ پھر عجیب سی بے چینی  
نے مغلوب ہو کر اس نے کال ریسو کر ہی لی۔  
ہیلو.....؟ اس کا انداز بلا کا محتاط تھا..... جیسے کوئی عظیم کام سر پڑنے کا خطرہ ہو۔ اور ہوا بھی یہی دوسری  
طرف نداروتے ہوئے کہہ رہی تھی۔  
سر مجھے لگتا ہے نانا جان کی ڈیٹھ ہو گئی ہے۔ اب میں انہیں اٹھا کر بیڈ پر کیسے ڈالوں.....؟ بس یہی بتانا  
تھا۔ خدا حافظ۔ شاید شدت گریہ سے وہ بول نہیں پارہی تھی۔  
شمر نے حمد ثانیے اپنے سیل فون کو گھورا پھر غائب دماغی کی کیفیت میں ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔  
چوکیدار جو بڑھاپے کی انتہائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ چند ہی آنکھیں کر کے شمر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہ  
آخر صاحب گاڑی اندر کیوں نہیں لاتے۔  
شمر نے بابا کو اشارے سے گیٹ بند کرنے کا کہا اور گاڑی بیک کر کے دوبارہ روڈ پر ڈال دی.....  
عجیب ہے یہ دنیا..... روز ہی کچھ نیا ہو جاتا ہے؟ وہ تھکے ہوئے اعصاب کو سنبھالتے ہوئے سوچ رہا  
تھا۔

ساتھ کام کرنے والوں کا بھی ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے اس وقت وہ اپنی توانائی کے آخری قطرہ بھی  
استعمال کر کے گھر کی طرف پلٹا تھا اگر ندا اپنی کسی وقتی پریشانی کا ذکر کرتی شاید وہ کوئی بہانہ بنا دیتا..... کل پہ  
رکھتا.....

مگر بات تو کسی کے گھر میں تکلفین و تدفین تک جا پہنچی تھی جو نظر انداز نہیں کی جاسکتی تھی۔

اب وہ اندازوں سے کھیل رہا تھا کہ اندازاً اسے ندا کے ہاں کتنا وقت دینا ہوگا ساتھ ہی سوچ رہا تھا  
کہ وہاں پہنچ کر صورت حال کا جائزہ لے کر آفس کے دوسرے لوگوں خاص طور پر جو میٹر ایپلائرز کو بھی فون  
کردے گا.....



اکیلی لڑکی اس پجوشن کو کیسے سنبھال سکتی تھی..... اس کے ساتھ آفس میں کام کرنے والوں کا فرض بنتا تھا کہ اس دکھ کے موقع پر اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔

☆.....☆.....☆

چمن تو شمر کی گاڑی کا ہارن سن کر بچی کو لے کر فوراً اپنے بیڈروم میں آ گئی تھی آخر اسے اس بچی کو چند دن اپنے ساتھ رکھنا تھا اس لیے ضروری تھا کہ شمر کو قائل کر کے گھر کا ماحول متوازن رکھے۔ بانو آ پا کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے شمر کی مکمل حمایت ہو۔

بانو آ پا اپنی جگہ ہارن سننے کے بعد اپنے بہترین تاثرات جو انہیں زیادہ سے زیادہ غمزدہ اور مظلوم ثابت کر سکیں چہرے پر سجا کر مستعد اور چوکس ہو کر بیٹھ گئی تھیں تاکہ بیٹا اندر آتے ہی ان کی خیریت پوچھے اور وہ نئی افاس کا ذکر زور و شور سے شروع کریں۔

مگر یہ کیا..... پانچ منٹ..... دس منٹ..... گزر گئے باہر سے کوئی آہٹ اندر نہیں آرہی تھی۔ چمن اپنے بیڈروم میں حیران و پریشان تو تھی مگر وہ سوچ سکتی تھی کہ شمر کو بانو آ پانے لاؤنج میں ہی گھیر لیا ہوگا۔ حیرانی و پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ کان لگا کر سننے کے باوجود لاؤنج سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔

بانو آ پا کی بس ہو گئی تو ہلبلا کر اپنی جگہ سے اٹھیں اور لگیں باہر جھانکنے پورچ میں شمر کی گاڑی نہیں تھی۔ اب تو مزید حیران ہوئیں اور غور کرنے لگیں کہ کہیں ان کے کان تو نہیں بچے تھے۔ اب رکنا محال تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی گیٹ کی طرف آئیں چونکہ انہیں دیکھ کر کرسی سے کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔

ارے شیرخان..... شمر کی گاڑی کا ہارن سنا تھا..... گاڑی باہر کھڑی ہے.....؟ انہوں نے باہر جھانکنے کی بھی کوشش کی تھی۔

بیگم صاحبہ..... صاحب آیا تھا..... پرواپسی چلا گیا۔ ہیں.....؟ بانو آ پا ہونق سی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگیں واپسی چلا گیا.....؟ ارے کچھ تو کہہ کر گیا ہوگا.....؟

کچھ نہیں بولا..... اس کو فون آیا تھا..... فون پر بات بول پھر واپسی چلا گیا..... شیرخان نے لا پرواہی سے جواب دیا اور اپنی دانست میں بہترین اردو میں جواب دیا۔

اچھا.....؟ بانو آ پا سوچتی ہوئی پھر اندر کی طرف چل پڑیں۔ فون کر کے پتا کرتی ہوں اب کدھر نکل گیا ہے۔

اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ بیگم صاحبہ پر ایسا بچہ لے کر اس کا انتظار کر رہی ہیں..... آئے ہیں..... کہیں بگڑ کر تو نہیں چلا گیا..... اب بانو آ پا کو طرح طرح کے اندیشے ستانے لگے۔

جی میں آئی جا کر چمن سے پوچھیں کہ تھوڑی دیر پہلے کیا تمہاری شمر سے بات ہوئی تھی۔ پھر بڑے تکبر سے سر جھٹک کر خود ہی ارادہ بدل لیا۔

ہونہہ..... کون اس منحوس کے منہ لگے.....



ندا نے پڑوس سے مدد طلب کی تھی..... نانا جان فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے اسے تو ان کی نبض ہی نہیں ملی اور کچھ ٹھنڈے بھی لگے تھے اسی لیے وہ بھاگ کر پڑوس میں گئی پھر واپس آ کر ٹمر کو فون کر کے رحلت کی خبر سنائی۔

پڑوس کے لوگ جانتے تھے کہ ایک حاذق حکیم صاحب شبیر حسن کے معالج ہیں لہذا وہ دوڑ کر انہی کو بلا لائے۔

حکیم صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہی ندا دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ وہ بہت دیر سے اپنے آنسو روکے ہوئے تھی رہ رہ کر کیچہ منہ کو آتا تھا کہ اب اس کا کیا ہوگا..... اکیلی اتنے بڑے ڈھنڈا گھر میں کیسے رہے گی.....؟

شدید غم پر عظیم غصہ غالب آ رہا تھا..... کہ کل حکیم صاحب کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے..... اگر نانا جان ہسپتال جاتے تو Survive کر سکتے تھے۔ وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی..... ساتھ ہی حیران ہو رہی تھی کہ محلے والے آ کر اسے دلاسا کیوں نہیں دے رہے.....؟

صبر کی تلقین کیوں نہیں کر رہے پڑوس بھی جانے کیا کرتی پھر رہی تھیں۔ بے چارے بے ہوش ہو گئے..... ایک تو بڑھا پا دوسرے بیماری کی وجہ سے کمزوری..... پڑوس غالباً حکیم صاحب سے مخاطب تھیں..... بے ہوش ہیں..... یعنی زندہ ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ نانا جان زندہ ہیں..... مگر مجھے تو وہ بالکل ٹھنڈے Feel ہو رہے تھے..... سر کیا سوچیں گے مجھے اپنے نانا جان کو مارنے کی جلدی ہے..... ندا بری طرح حواس باختہ وہ کرنا نانا جان کے کمرے میں آ گئی..... پنڈتوں جیسی تو ند والے حکیم صاحب بمشکل انہیں اٹھا کر بیڈ پر ڈال چکے تھے ندا کو دیکھتے ہی بولے۔

بھئی..... فون کر کے ایمبولینس منگوائیے..... شبیر صاحب کو ہاسٹل لے جانا ہوگا۔ یہ سن کر تو ندا کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا..... یہی حکیم صاحب ہسپتال پر لعنت بھیجتے نہیں تھکتے تھے.....

ان کی حکمت دم دبا کر بھاگ گئی تھی سارے کشتے کشتیاں بن کر بہہ گئے تھے۔ بیٹا حکیم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں نانا کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے ان کی حالت ایسی ہے کہ ہسپتال میں داخل کرنا ضروری ہے۔ پڑوس نے ندا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مزید تاکید کے ضمن میں کہا تھا۔

آئی پہلے آپ ان حکیم صاحب کو یہاں سے نکالیں ان کی وجہ سے میرے نانا جان کا یہ حال ہوا ہے اب ہسپتال کا نام کیوں لے رہے ہیں.....؟ ہر وقت نان جان کو اینٹی بائیوٹک سے ڈراتے رہتے تھے ندا دانت پیس پیس کر حکیم صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔

بیٹا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ حکمت بھی ایک سچائی ہے لوگوں کو جزی بوٹیوں سے بھی فائدہ ہوتا ہے پڑوس نے ندا کا انداز دیکھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی کہ مریض بے ہوش پڑا تھا غیر متعلقہ غیر ضروری باتوں کی گنجائش نہیں تھی۔



میں نے اپنے پاس کو بلایا ہے آئی..... وہ آتے ہی ہوں گے پھر ہم نانا جان کو ہاسپٹل لے جائیں گے اب یہ حکیم صاحب ہمارے سر پر کیوں سوار ہیں انہیں کہیں کہ اپنے گھر جائیں۔  
ندا کسی دیرینہ دشمن کے انداز میں حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی جو کھڑے شبیر حسین کے تلوے سہلا رہے تھے اور خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔

گیٹ چوٹ کھلا ہوا تھا پڑوسن کے پوتے نواسے بھی گویا تماشا دیکھنے آ رہے تھے..... یہ پڑوس بھی گزارے لائق تھا۔

گھر کے مرد تو دوہئی میں کما تے تھے گھر میں مکمل زنا نہ راج تھا..... سال چھ مہینے میں کوئی مرد چکر لگاتا تھا اور اگلے سال گھر میں ایک نو مولود کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ باہر ملک میں کمانے والے مرد کا یہی کام ہوتا ہے۔

گھر میں خوش حالی لانا اور کنبے کے افراد میں سالانہ بنیادوں پر اضافہ کرنا.....  
یہی وہ پڑوسن تھیں جو ندا کی غیر موجودگی میں شبیر حسن کا خیال رکھتی تھیں جو ندا کی نانی کی بچپن کی سہیلی تھیں اور محلے میں اتنی ہی پرانی تھیں جتنے شبیر حسن۔

ثمر کی گاڑی گیٹ پر رُگی تو چوٹ کھلے ہوئے گیٹ نے یقین دلایا کہ واقعی کچھ ہو کر گزر رہا ہے۔  
گاڑی دیکھ کر نانا کی وجہ سے جمع ہونے والے بچے گاڑی کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔  
انکل آپ ڈاکٹر ہیں.....؟ ایک بچے نے ثمر کے حلیے اور چم چم کرتی گاڑی سے ثمر کے ڈاکٹر ہونے کا اندازہ لگایا۔

اس گھر میں ڈاکٹر کا انتظار ہو رہا ہے۔ ندا آپ کی نانا جان بہت دیر سے بے ہوش ہیں وہ اب حکیم صاحب سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسرے بچے نے حق ہمسائیگی ادا کیا اور بہت چوکس اور پھر تیلے انداز میں گویا ہوا۔ جیسے چاہتا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آئیں جلدی سے انجیکشن لگا کر نانا جان کو ہوش میں لے آئیں۔ وہ بیٹا اندر بتاؤ کہ ثمر صاحب آئے ہیں ثمر بری طرح الجھ گیا تھا..... ندا بے وقوف تو ضرور ہے مگر پاگل تو نہیں ہے..... اس نے تو بالکل Clear واضح طور پر بتایا تھا کہ اس کے نانا جان کی ڈ۔تھ ہو گئی ہے۔  
انکل سب ویسے ہی اندر جا رہے ہیں اپ بھی چلے جائیں اور ایک اور بچے نے بڑی معصومیت سے ثمر کو اندر جانے کا مشورہ دیا۔

سب ویسے ہی جا رہے ہیں..... سب اس کا مطلب ہے اندر کافی لوگ ہیں..... اب ثمر سب سے یہ تو نہیں جان سکتا تھا کہ 'سب' کا سائز اور عمر کیا ہے منظر پر تو ہر سائز کے صرف بچے ہی نظر آ رہے تھے جو ندا کے پڑوس لے ٹریل اسٹوری مکان کے مکین تھے۔ دیکھنے میں سارے محلے کے ٹوٹل بچے لگ رہے تھے۔  
ثمر نے چند چائے غور کیا پھر ہچکچاتا ہوا بالآخر گھر میں داخل ہو گئی گیا..... اور ندا سامنے ہی نظر آ گئی ثمر کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی۔

تھنک گاڈ سر آپ آگئے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں نانا جان کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا..... وہ کسی بھی طرح ہوش میں نہیں آ رہے۔ ندا ثمر کو سامنے پا کر ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ نانا جان بے ہوش ہیں.....؟ ثمر سچ سچ تپ گیا۔



شرم کیجیے..... کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے نانا..... سگے نانا کی Death ڈکلیئر کی تھی..... کوئی اس طرح کرتا ہے مذاق ہے.....؟؟

شرم آواز دبا کر دانت پیس کر نندا پر ایک حساب سے برس رہا تھا۔  
سر..... آئی..... ایم..... سوری نانا فرش پر گرے تھے اور بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے میں اتنی جلدی پریشان ہوئی کہ کچھ سمجھ نہیں آئی نندا تو نانا کی وجہ سے پہلے حواس باختہ شمر کے باس کے انداز میں برس پڑنے پر رو ہانسی ہو گئی۔

سراچھا ہونا..... آپ اس بہانے آگئے نانا جان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے میں تو کبھی ایمر جنسی پیسٹ کو ہاسپٹل لے کر نہیں گئی..... مجھے تو کچھ نہیں پتا..... جب میرے پیرینٹس کی ڈیٹھ ہوئی تھی تو میں بہت چھوٹی تھی۔

وہ جلدی جلدی صفائی پیش کرنے لگی۔

اس بہانے..... شمر پر کڑی گزر گئی۔ نانا کے ہاتھوں پروان چڑھنے والی لڑکی سے اس قسم کی امید کی جا سکتی تھی۔ ماں کی افادیت اسی طرح تو نظر آتی ہے..... درحقیقت تربیت ماں ہی تو کرتی ہے ماں کے علاوہ دوسروں کی روک ٹوک کو تو بچے بھی لفٹ نہیں کراتے..... وہ تو شکر ہے نانا نے نواسی کی تعلیم کا خیال کر لیا تھا۔

ٹھیک ہے..... آب آیا ہوں تو اتنی Help کر سکتا ہوں یہ حکیم صاحب ساتھ چلیں گے.....؟ شمر نے دور سے حکیم صاحب پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ تو بہ کریں ان کو تو میں کبھی بھی لے کر نہ جاؤں..... ان کی شکل سے مجھے چڑھے..... ان کی وجہ سے تو نانا جان کی یہ حالت ہوئی ہے نندا ایک دم بھڑک سی اٹھی۔ حکیم صاحب کو یوں گھور رہی تھی جیسے ایک اڑان بھر کر ان کی گردن دبوچ لے گی۔

وہ تو آئی بلا لائیں..... میں تو مر کر بھی ان کو نہ بلاتی۔

اب اتنے بھی بے کار نہیں ہیں میرے ساتھ مل کر آپ کے نانا کو گاڑی کی سیٹ پر تو لٹا سکتے ہیں۔ جلدی کریں۔

وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں..... شراب تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں حکیم صاحب کھڑے نانا جان کی تلوے اور ہتھلیاں سہلار ہے تھے۔

حکیم صاحب ہم نانا جان کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں آپ تھوڑی سی Help کر دیجیے اور سر کے ساتھ نانا جان کو اٹھا کر گاڑی میں لٹا دیجیے نندا بھی شمر کے تعاقب میں چلی آئی تھی اور حکیم صاحب سے مخاطب تھی۔

سر..... ارے بھئی انہیں کہاں سے بلا لیا۔ خیر اب بلا لیا ہے ایک سے دو بھلے۔ ہم ساتھ چل رہے ہیں حکیم صاحب اس مخبوط الحواس عیاش بوڑھے کی طرح نندا کو دیکھا جو ہاتھ آیا موقع ضائع نہیں کرتا۔  
نہیں نہیں..... تمہیںک یو..... کچھلی سیٹ پر تو نانا جان لیٹیں گے اور میں اگے سر کے ساتھ بیٹھوں گی نندا نے کھولتے ہوئے دماغ کو بمشکل قابو کیا۔

سر کے ساتھ.....؟ ارے اتنی رات کو نانا محرم کے ساتھ اکیلی جاؤ گی.....؟ شبیر حسن تو ہوش میں آ کر



ہمیں آڑے ہاتھوں لیں گے..... حکیم صاحب نے شک سے لبالب نظریں ثمر کے وجود میں اتارنے کی مقدور بھرکوشش کی۔

میرے نانا بے ہوش ہیں..... اتنی سیریس کنڈیشن سے اور آپ کو محرم نامحرم کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ نانا جان کو گاڑی میں لٹا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں کسی اور کو روڈ سے پکڑ کر لائی ہوں..... ندا تلملائی۔  
اب روڈ پر پھرو گی.....؟ ہم شبیر حسن کو سمجھاتے تھے لڑکی ذات کو نوکری پر مت کراؤ..... پر لگ جاتے ہیں..... انہوں نے ایک نہیں سنی..... آئیے میاں مریض کو اٹھائیے حکیم صاحب کو ثمر کا وجود کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا مگر مسئلہ یہ تھا کہ صورت حال بہت نازک تھی..... بحث مباحثے کی گنجائش نہیں تھی۔

چولہا بند کرنے گئی تھی۔ ارے آپ لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں.....؟

ندا کی پڑوس والی آنٹی پھر سے لپک جھپک آ پہنچیں تھیں۔

کیسے بیٹھ جائیں..... مریض کی حالت کے پیش نظر اب بیٹھنے کا موقع ہی نہیں..... حکیم صاحب ندا سے بھی زیادہ عظمند اور دانش ور ثابت ہو رہے تھے۔

ارے باہر اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہے انہیں ہسپتال لے کر جائیے یہ ندا کے رشتے دار آگئے ہیں نا..... اب کیوں کھڑے ہیں پڑوسن نے انگلی اٹھا کر ثمر کی طرف اشارہ کیا جو بری طرح پھنس چکا تھا..... اور سوچ رہا تھا..... انسانیت کا تو بہت بھاری ٹیکس Pay کرنا پڑتا ہے۔ اسے پہلی مرتبہ ملنے والوں سے کوئی بات کرنا ایسے ہی لگ رہا تھا۔ جیسے نتھیا گلی میں ٹکٹ کے لیے بننے والی Que کو گھنٹوں بھگتنا پڑتا ہے۔

آگے پیچھے کھڑے لوگوں کی شکلیں منہ زبانی یاد ہو جاتی ہیں۔ مگر بات چیت کوئی نہیں ہوتی نہ کرنے کا دل چاہتا ہے۔

اللہ اللہ کر کے نانا جان کو اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالا اور ثمر نے فوراً ندا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا..... ندا تو جیسے اشارے کی منتظر تھی۔

آنٹی پلیز گیٹ اور دروازے چیک کر لیجیے گا..... ہمیں پتا نہیں کتنی دیر لگے۔

ہاں ہاں بیٹا تم فکر نہ کرو میں دیکھ لوں گی..... اب بچے گاڑی کو گھیر کر کھڑے تھے۔ جیسے گاؤں میں دولہا کی کار گھیرے میں آ جاتی ہے..... ثمر نے ہارن دے دے کر بچوں کو یوں پرے کیا جیسے انگور بیچنے والا جھاڑن سے نکھیاں بھگا رہا ہو۔

☆.....☆.....☆

چمن بلک بلک کر روتی بچی کو ٹہل ٹہل کر چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی..... بچی رونے کی وجہ سے اسے ثمر سے رابطہ کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا..... بار بار نظر وال کلاک کی طرف جاتی تھی۔

اللہ..... کیا ہوا ہے.....؟ کہاں رہ گئے.....؟

اس وقت سیل بر ثمر کی کال آئی..... ثمر کا نام Blink ہو رہا تھا۔

For Next Episode Stay tuned To

ناول کی اگلی قسط انشاء اللہ آئندہ ماہ ملاحظہ کیجیے

پاک سوسائٹی

Paksociety.com

READING  
Section



## رحمن، رحیم، سدا سائیں

”میں تمہیں ناپسند نہیں کرتا قدر! صرف تمہاری کچھ عادتوں سے اختلاف رکھتا ہوں۔ اگر تم سمجھو تو یہ پلس پوائنٹ بھی تمہارے ہی فیور میں جاتا ہے۔ یونو واٹ.....“ مرد جس عورت کو چاہتا ہے۔ اسے سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس پر وہ کسی دوسرے کی نظر پڑنے نہیں دینا.....

**زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسوں گری، ایمان افروز ناول کا بیسواں حصہ**

### گزشتہ اقساط کا خلاصہ

بیک وقت حال و ماضی کے درپچوں سے جھانکنے والی یہ کہانی دیا سے شروع ہوتی ہے۔ جسے مرد ہونے کا پچھتاوا، ملال، رنج، دکھ اور کرب کا احساس دل و دماغ کو شل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ دیا جو درحقیقت علیزے ہے اور اسلام آباد چاچا کے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کلین ہے۔ یوسف کرچن نو جوان جو اپنی خوب روئی کی بدولت بہت سی لڑکیوں کو استعمال کر چکا ہے۔ علیزے پر بھی جال پھینکتا ہے۔ علیزے جو دیا بن کر اس سے ملتی ہے اور پہلی ملاقات سے ہی یوسف سے متاثر ہو چکی ہے۔

یہ ملاقاتیں چونکہ غلط انداز میں ہو رہی ہیں۔ جیسی غلط نتائج مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہر حد پار کرتا ہے علیزے اسے روک نہیں پاتی مگر یہ انکشاف اس پر بجلی بن کر گرتا ہے کہ یوسف مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے نا جائز بچے کو باپ کا نام اور شناخت دینے کو علیزے یوسف کے مجبور کرنے پر اپنا مذہب نا چاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتی ہے مگر ضمیر کی بے چینی اسے زیادہ دیر اس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کو چھوڑ کر رب کی ناراضگی کے احساس سمیت نیم دیوانی ہوئی سرگرداں ہے۔ سالہا سال گزرنے پر اس کا پھر سے بریرہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے

علیزے اور بریرہ جن کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ بریرہ علیزے کی بڑی بہن مذہب کے معاملے میں بہت شدت پسندانہ رویہ رکھتی تھی۔ اتنا شدت پسندانہ کہ اس کے اس رویے سے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ بریرہ سے بالکل متضاد صرف پرہیزگار نہیں عاجزی و انکساری جس کے ہر انداز سے جھلکتی ہے اور اسیر کرتی ہے۔ درپردہ بریرہ اپنے بھائی سے بھی خائف ہے۔ ہارون اسرار شوبز کی دنیا میں بے حد حسین اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھر کی دینی محفل میں وہ بریرہ کی پہلے آواز اور پھر حسن کا اسیر ہو کر اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک گمراہ انسان سے شادی پر ہرگز آمادہ نہیں۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبد الغنی کو اس رشتہ پر رضامندی پر التجا کرتا ہے۔ عبد الغنی سے تعاون کا یقین پا کر وہ مطمئن ہے۔ اسے عبد الغنی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا چھوٹا بھائی حادثے میں اپنی ٹانگیں گنوا چکا ہے۔ ہارون کی ممی اپنی تیم بھتیجی سارہ سے زبردستی اس کا نکاح کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کو اس کے حقوق دینے پر آمادہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لاپرواہی نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالج واپسی پر پہلی بار عبد الغنی کو دیکھ کر اس کی شخصیت کے بحر میں خود کو جکڑا محسوس کرنے لگتی ہے۔ علیزے لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دوستی بھی بہت ہو چکی ہے۔ وہ





READING  
Section



لاریب کی اپنے بھائی میں دلچسپی کی بھی گواہ ہے۔

شادی کے موقع پر بریرہ کا رویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اور سرد مہر ہی نہیں حاکیئت آمیز بھی ہے۔  
ساتھی اداکارہ سوہا کی ہارون سے بے تکلفی اسے سخت گراں گزرتی ہے۔ مئی کو اپنی بیٹی کا عبدالغنی جیسے نوجوان میں دلچسپی لینا ایک آنکھ نہیں بھاتا جیسی ایک معمولی بات پر وہ لاریب کے سامنے عبدالغنی کی بے حد تحقیر کرتی ہیں۔

بریرہ لاریب کو ناپسند کرتی ہے۔ جیسی اسے یہ اقدام ہرگز پسند نہیں آتا مگر وہ شادی کو روکنے سے قاصر ہے۔ لاریب عبدالغنی جیسے منکسر المزاج بندے کی قربتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے سے اسی قدر اذیتوں کا شکار ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باوجود ہارون اس کی توجہ کا منتظر بار بار اس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سدھار کا متمنی ہے۔ مگر بریرہ جو علیزے کی بے راہ روی کا باعث خود کو گردانتی ہے اور احساسِ جرم میں مبتلا رہ کر منانے ہر صورت علیزے کی واپسی کی متمسک ہے۔

ہارون اس بے نیازی کو لا تعلقی اور بے گانگی سے تعبیر کرتے ہوئے مایوسی کی ا تھا۔ گہرائیوں میں اترتا نا صرف شوہر کی دنیا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضد میں آ کر بریرہ کو جھنجھوڑنے کی خاطر سوہا سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیزے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں مستجاب ہوتی ہیں۔ لیکن تب تک ہارون کے حوالے سے گہرا نقصان اس کی جھولی میں آن گرا ہوتا ہے۔  
عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے زیر تربیت ایک کامل مومن کی شکل میں ان کے سامنے ہے۔ وہ اسے نور کی روشنی پھیلانے کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں۔

غیر ایک بد فطرت عورت کے لظن سے جنم لینے والی با کردار اور با حیا لڑکی ہے۔ جسے اپنی ماں بہن کا طرز زندگی بالکل پسند نہیں۔ کامیاب علاج کے بعد اسامہ پھر سے اپنے پیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطرتاً کمالیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا ادھورا پن اسے ہرگز گوارا نہیں مگر اس کے بیٹے میں بتدریج پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اسے سارہ کے لیے ایک سخت گیر شوہر، متکبر انسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ وہ ہرگز اس کمی کے ساتھ بچے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ غیر کو حالات اس سچ پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ عبدالغنی سے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔ وہ اُس سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہیں اور اُسے قابلِ بھروسہ جان کر غیر کو عقد میں لینے پر زور دیتے ہیں۔ عبدالغنی انتہائی مجبوری کی حالت میں اُن کا یہ فیصلہ قبول کر کے غیر سے نکاح کر لیتا ہے۔

لاریب کے لیے یہ سب کچھ سہنا آسان نہیں ہوتا، وہ اسی وقت گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوتا، اس لیے لاریب کو سمجھانا عبدالغنی کے بس سے باہر تھا۔ علیزے، عبدالہادی کے ساتھ اُس کی ماں سے ملنے اُن کے آبائی گھر چلی جاتی ہے۔ جب عبدالہادی علیزے کو اپنی ماں سے ملوانے کے لیے کہتا ہے تو وہ ایک غیر مسلم عورت سے ملنے کے لیے فوری طور پر انکار کر دیتی ہے۔ علیزے بدگمان تھی مختلف مواقع پر عبدالہادی کو پرکھنے کے بعد بالآخر اپنا دل صاف کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔

ہارون اسرار کا رویہ بریرہ سے بہت برا ہو جاتا ہے اور وہ اُسے اپنے ساتھ اسلام آباد اپنی دوسری بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ بریرہ اسے بھی اپنا امتحان مان کر راضی ہو جاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بیوی، پہلی بیوی کو برداشت نہیں کر پاتی اور اُس سے اپنے نام لکھی گئی جائیداد اور روپے پیسے لے کر طلاق لے لیتی ہے۔ بریرہ اور ہارون پھر سے محبت کے بندھن کو جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عبدالغنی کا ایک سیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لاریب اور غیر میں اس حادثے کے بعد دوستی ہو جاتی ہے۔

غیر ایک حادثے کے بعد ماں بننے کے قابل نہیں رہتی۔ لاریب عبدالعلی اور عبدالاحد کے بعد ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ عبدالغنی کے رویے نے لاریب اور غیر کو اتنا قریب کر دیا تھا کہ لاریب غیر کے انکار کے باوجود اپنی بیٹی کو اس کی گود میں ڈال دیتی جس کا نام اتباع رکھا جاتا ہے۔ بریرہ اور ہارون کے گھر بھی عبداللہ کے بعد امن جنم لیتی ہے۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ اتباع کو دیکھنے لاریب کے گھر آتے ہیں۔ عبداللہ کو اتباع گڑیا جیسی لگتی ہے اور وہ ضد کرتا ہے کہ یہ گڑیا ہم لے جائیں گے۔ ہارون اور بریرہ اس کی ضد سے مجبور ہو کر عبدالغنی کے آگے دست سوال کر دیتے ہی اور اتباع کو باہمی رضامندی سے عبداللہ کے نام منسوب کر دیا جاتا ہے۔ علیزے اور عبدالہادی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ علیزے کے دل میں اولاد کی کمی سراٹھانے لگتی ہے اور وہ عبدالغنی سے عبدالعلی کو مانگ لیتی ہے۔ عبدالغنی اپنے بیٹے کو بہن کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد علیزے اپنے جیسی ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ علیزے کو جیسے دنیا ہی میں جنت مل گئی تھی۔ وہ قدر کو عبدالعلی کی دہن کے روپ میں بچپن سے دیکھ رہی ہے۔

وقت کروٹ لیتا ہے بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہانی تازخ اختیار کرتی ہے۔ عبدالعلی فوج میں چلا جاتا ہے۔ عبدالغنی کی دین سے



محبت عبدالعلی کے رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ علیزے بہت حساس طبیعت کی مالک ہے۔ اب وہ کسی قسم کا کوئی بھی روگ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ قدرناز و نعم میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے اس کے اندر فطری ہٹ دھرمی موجود ہے۔ وہ عبدالعلی کو ہمیشہ سے ماں سے ملی فوقیت پر ناپسند کرتی ہے۔ علیزے اسے ہر ہر پل یہ باور کراتی ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لے وہ عبدالعلی ہی کی ہے۔ عبداللہ ہارون اسرار کا دہ سرا روپ ہے۔ وقت نے ہارون اور بریرہ کی محبت کو دوبارہ جوان کر دیا ہے۔ حالانکہ اتباع جانتی ہے کہ وہ عبداللہ سے منسوب ہے لیکن اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہ آئے۔ امن اپنے بھائی کی اتباع سے ٹوٹ کر محبت سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اور اکثر وہ عبداللہ کے لیے پل کا کام انجام دیتی ہے۔ کیونکہ وہ اتباع کی بھی بیسٹ فرینڈ ہے اس لیے وہ اس کے جذبات کا ہمیشہ بہت خیال رکھتی ہے۔

سارہ اور اسامہ ارسل کے بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیتے ہیں۔ ارسل بھی اپنی معذوری کو شکست دے کر جوان ہو چکا ہے۔ لیکن وہ سب سے کٹ کر رہتا ہے۔ عبداللہ اتباع کی بے زنجی کی وجہ اس کا شرعی طور پر نامحرم ہونا جان کر فوری طور پر منگنی کے بجائے نکاح کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ یوں اتباع اور عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ قدر اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہے۔ جبکہ وہ عبدالعلی کی وجاہت سے مرعوب ہو کر اپنے جیون ساٹھی کے طور پر خود کو ہر طرح بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے عبدالعلی ایک نابوجھی جانے والی پہیلی بن کر رہ جاتا ہے۔

### (اب آپ آگے پڑھیے)

تو میں یہاں کیوں تمہارے پیچھے آتا۔ وہ عاجزانہ انداز میں وضاحتیں پیش کرنے پر مجبور ہوا قدر نے آنسوؤں سے جل تھل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔

وہ بے حد نزدیک تھا۔ اتنا کہ اس کی گرم سانسیں بھاپ کی طرح اس کے چہرے کو سلگا رہی تھیں۔ اسے اس ناگفتہ با حالت میں بھی اس قربت کا احساس ہوا تو کترا کر فاصلے پہ ہوئی۔ پلکیں جھک گئیں۔ عبدالعلی نے اس سے گریز کو محسوس کیا یہ شواہدہ سر کیفیت کی دیوانگی سے نجات کا واضح اشارہ تھا۔ وہ قدرے ریلکس ہوا۔

”میں تمہیں ناپسند نہیں کرتا قدر! صرف تمہاری کچھ عادتوں سے اختلاف رکھتا ہوں۔ اگر تم سمجھو تو یہ پلس پوائنٹ بھی تمہارے ہی فیور میں جاتا ہے۔ یونو واٹ.....“ مرد جس عورت کو چاہتا ہے۔ اسے سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس پر وہ کسی دوسرے کی نظر پڑنے نہیں دینا چاہتا۔ اور جس عورت کو وہ لوگوں کی نظروں سے نہیں بچاتا وہ اس کے دل میں اتری نہیں ہوتی۔ وہ اسے صرف استعمال کرتا ہے دوسرے لوگوں کے

قدر پلیرز! کنٹرول یور سیلف۔ میری بات بری لگی ہو تو میں سوری کر رہا ہوں۔

وہ گڑ بڑا کر کہنے پر مجبور ہوا کہ ہر لمحہ مزید غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس حالت کو آنسو..... آہیں سسکیاں رنج و غم اور بے تحاشا دکھ اور گہرا دکھ۔ جس کی شدتیں اسے توڑ رہی تھیں۔ ریزہ ریزہ کر رہی تھیں۔ پھر اس پہ عبدالعلی کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر جو کسی نے انہیں ایسے دیکھ لیا تو وضاحت پیش کرنی ہوں۔ جیسی جلد از جلد معاملہ سدھارنے کے در پہ تھا۔ مگر صورتحال یہ تھی کہ وہ جتنا اسے سنہیال رہا تھا۔ وہ اس قدر بلک رہی تھی۔ تڑپ رہی تھی۔ رورہی تھی۔

”مجھے مرنے دیں۔ مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ جا..... جانتی ہوں..... آپ..... آپ کو پسند نہیں ہوں میں۔“ وہ ہچکیوں سسکیوں کراہوں کے درمیان بولی۔ مزاحمت البتہ جاری تھی۔ مگر اس میں وہ دم خم نہیں تھا۔ اس کی ہمتیں جواب دے رہی تھیں۔ دونوں ہی پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔

”ایسا نہیں ہے قدر! اللہ گواہ ہے میں تم سے جان نہیں چھڑانا چاہتا۔ خود سوچو غور تو کرو ایسا ہوتا



بری ذمہ قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کی اتنی توجہ پا کر ہی خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی تھی۔ شاید محبت یہی ہے۔ شاید محبت اتنی ہی خوش فہم ہے۔

☆.....☆.....☆

کالج سے باہر نکلی تو گاڑی میں عبدالعلی کو یا عبدل احد کو اپنا منتظر پانے کی بجائے عبداللہ کو موجود پا کر وہ یکدم ہی گھمبیر قسم کی سنجیدگی کا شکار ہوئی تھی۔

”میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ سوچا آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اس بہانے کچھ بات چیت بھی وہ جائے گی۔“

اس کے سرد بیگانے اور اجنبی تاثرات پہ دھیان دیے بغیر وہ نرم نگاہوں سے اسے تکتا گھمبیر لہجے میں بولا تھا۔ اتباع نے اضطراری انداز میں نقاب کو پھر سے ٹھیک کیا۔

”شکریہ..... میں چلی جاؤں گی۔“ وہ اس کی بجائے دور سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ شاید گاڑیوں کی رش میں اپنی گاڑی کو۔ عبداللہ یہی سمجھا وہ اپنی فیملی کی خفگی کے خیال سے گریزاں ہے۔

”میں بہو جانی کو بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو پک کروں گا۔ سوڈونٹ پوری۔“

اس بات پہ اتباع نے ٹھٹھک کر اور کسی حد تک مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مگر عبداللہ نے اپنی پسند کا مطلب اخذ کیا تھا۔

اس کا موڈ خوشگوار بلکہ باغ بہار تھا۔ ”پلیز!!“ عبداللہ نے فرنٹ ڈور اوپن کر دیا۔ پھر اس کی ہچکچاہٹ کو پا کر کسی قدر حیران ہوا۔

”بیٹھ جاؤ یار! اتنا سوچ بچار کرو گی تو لوگ ہمارے جائز رشتے کے لیے بھی مشکوک ہو جائیں

سامنے اسے پیش کر کے اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کہ اس کے پاس ایک اچھی چیز ہے۔ ایک ایسی چیز..... جو نظروں کو اچھی لگتی ہے۔ دل کو بھاتی ہے۔ پھر وہ عورت ساری عمر بس اس کے نزدیک ایک چیز ہی رہتی ہے۔ جسے مرد بس اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔“

اس نے لمحہ بھر کا توقف کیا اور اسے دیکھا جو سر جھکائے۔ نادم کھڑی تھی گویا اس کی اس بات کا اثر ہو رہا تھا۔ عبدالعلی کو انوکھی سی خوشی محسوس ہوئی۔ جیسی مزید گویا ہوا تھا۔

”سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بہت بڑی دولت ہے۔ اور جو عورت اس دولت کی حفاظت کرتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی۔ شیطان کا پہلا شکار ہی حیا ہوتی ہے۔“

ایک بار انسان بے حیا ہو جائے تو پھر اسے کوئی برائی برائی لگتی ہی نہیں۔ گویا بے حیائی ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔“

عبدالعلی نے اس کا سر تھپکا تو قدر بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔

”میں کوشش کروں گی کہ دوپٹے کا ہمیشہ خیال رکھوں۔“

”انشاء اللہ۔“ وہ جواباً ہلکا پھلکا ہو کر مسکرا کر بولا تھا۔ پھر گہرا سانس بھر کے دروازے کی جانب بڑھا۔

”اب آجائیں۔ اگر کسی نے ہمیں یہاں اکٹھے دیکھ لیا تو کسی اور ہی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا۔“

عبدالعلی کا لہجہ گو کہ فکر مندانه تھا۔ مگر قدر کا دل مننے کو چاہنے لگا تھا۔ اس نے محبت کا اظہار کیا تھا نہ کسی اور سے انوالومنٹ کے حوالے سے خود کو



مجھے یہ شوق مسلسل سفر میں رکھتا ہے  
اتباع کے چہرے پر ہلکی سی سرخی بکھر گئی پل  
میں حیا بار انداز میں لرزی تھیں۔ عبداللہ اسے  
دیکھتے ہوئے زمان و مکان بھولنے لگا۔  
”کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہو تو  
عرض کر دوں.....؟“ اس کا انداز شریعت تھا۔ تبسم خیر  
تھا اتباع کی کیفیت کچھ مزید کنفیوز ہوئی۔ وہ کچھ  
کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ عبداللہ نے  
اس خاموشی سے حوصلہ پاتے دل کا حال آشکار کیا  
تھا۔

چپ چاپ اس کو بیٹھ کر دیکھوں تمام رات  
جاگا ہوا بھی ہو کوئی سویا ہوا بھی ہو  
وہ اس پر جھک کر مخمور آواز میں گویا ہوا۔  
اتباع نے گھبرا کر اسے دیکھا وہ پوری طرح اس  
میں محو و مگن تھا۔

”میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں عبداللہ!  
مجھے یہ انداز گفتگو پسند نہیں۔ اس کے علاوہ یاد ہو تو  
میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا مجھ سے آپ کا  
مزاج نہیں ملتا۔ نہ کریں شادی۔ میں آپ کی ان  
توقعات پر پورا نہیں اتر سکوں گی جو آپ کو مجھ سے  
وابستہ ہوں گی۔“

اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس کی گفتگو کا  
انداز بتلاتا تھا۔ عبداللہ کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔

ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اتباع! جب جان  
بچاتے رکھنے میں سر جاتا ہے۔ اچھے خاصے  
سیدھے سادھے انسان تو ایک لمحہ دیوانہ کر جاتا  
ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہو چکا۔ آپ کو دیکھنے کے  
بعد میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ کسی اور جانب دیکھ  
لیتا۔ حالانکہ تب اس حالت کو دیکھتے ہوئے پاپا  
نے مجھے کہا تھا۔

یہ بھی ممکن ہے تجھے عشق ولایت دے دے

گے۔ اور میں نکاح نامے کی کاپی ساتھ نہیں لے  
کے پھرتا۔“

وہ اس کو گریز پا کر شریعت ہوا۔ اتباع کا دل تنگ  
سا پڑنے لگا۔ مگر چارہ نہیں تھا۔ اسے بیٹھنا پڑا  
تھا۔ عبداللہ یوں مسکرایا۔ گویا دنیا فتح کر لی ہو۔  
تھینکس فار دس آفر!“ اس نے ذرا توقف  
کیا پھر گاڑی اشارت کر کے آگے بڑھاتے  
ہوئے مسکراہٹ دیا کر براہ راست اسے  
دیکھا تھا۔

”تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔“ وہی پر شوق  
نگاہیں، وہی متبسم لہجہ، اتباع نہ صرف پزل ہوئی  
بلکہ اس کی جان پہ بھی بننے لگی۔ وہ اس کے  
رومیٹک موڈ سے ایسے ہی بدکا کرتی۔ ایسے ہی  
خائف رہا کرتی۔

”یار عجیب ہو تم بھی!“ میں جتنا بے قرار ہوں  
تم اس قدر کول۔ تمہارا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے  
کو..... باتیں کرنے کو.....؟“

وہ انتہائی بے بسی اور کسی حد تک اشتیاق میں  
بتلا ہو کر پوچھ رہا تھا اتباع کو اس قدر اختلاف  
لاحق ہو گیا تھا۔ اس کی باتوں سے..... خاص کر  
لفظ یاد سے بے طرح اعتراض ہوا۔ آکورڈ بھی  
لگا۔

”مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔“  
اس نے بے لحاظ ہو کر کہہ ڈالا۔ عبداللہ نے جواباً  
طویل عریض سرد آہ بھری۔

”اگر میں یہ کہوں کہ تو میرا حال ایسا ہے تو  
یقین کر لیں گی.....؟“ گاڑی کی اسپید کم کرتے  
اس نے اچانک سوال کیا تو اتباع کی نگاہوں میں  
شعوری طور پر استغفار اتر آیا۔ تھا جسے محسوس کرتے  
وہ ذرا سا مسکرایا اور بھاری آواز میں گویا ہوا تھا۔  
وہ راستے میں مل جائے اتفاق سے کہیں



سمجھیں۔ یا شاید کاش آپ مجھ سے محبت کریں۔  
مگر مجھے لگتا ہے میرا یہ عمل بھی بے فائدہ رہا ہے۔  
آپ کی محبت تو درکنار..... میں تو آپ کا اعتماد  
حاصل کرنے میں بھی ناکام رہا ہوں۔“

اس کا لہجہ بچھا ہوا تھا۔ وہ یکدم خود بھی کتنا بچھا  
ہوا بے رونق لگنے لگا تھا۔ اضملا ل کا احساس اسے  
واضح طور پہ شکستہ کر کے دکھاتا تھا۔ اتباع نے اس  
کی کیفیت گونوٹ کیا اور حیران ہونے لگی۔ اس  
سے پہلے کہ کچھ کہتی..... گاڑی گھر کے سامنے آن  
کر ایک جھٹکے سے رکی تھی۔

”میں کوشش کروں گا آئندہ آپ کو ہرٹ نہ  
کروں۔ جو کچھ ہو چکا اس پہ معذرت خواہ بھی  
ہوں..... اس نے قدرے جھک کر اس کی جانب  
کا دروازہ کھول دیا۔ اتباع بے چین ہوئی تھی۔

”آپ.....!!“

”آپ تشریف لے جائیں اتباع! گو کہ میں  
جو جانی کو بتا چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ مگر  
عبدالعلی آپ کو میرے ساتھ دیکھیں گے تو یقیناً  
آپ کو آکورد لگے گا۔ سو پلیز.....“

وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اتباع  
کو اب توہین کے احساس نے چھوا تھا۔ یہ بھی  
خوب رہی تھی۔ وہ توقعات بھی رکھتا تھا۔ نا جائز  
خواہشات پوری بھی کراتا تھا۔ پھر بھی معمولی  
باتوں پہ خفا ہونے کا حق بھی محفوظ رکھتا تھا۔ اسے  
عجیب سی کوفت اور جھنجھلاہٹ نے آن لیا۔ کچھ  
کہے بغیر وہ کپڑے سمیٹ کر اپنا بیگ سنبھالی گاڑی  
سے اتر کر چلی گئی اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔  
عبداللہ کی جلتی آنکھیں مزید جلنے لگی تھیں۔

☆.....☆.....☆

تم مل جاؤ نجات مل جائے  
روز مرنے سے روز چینے سے

یہ بھی ممکن ہے تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں  
”ابھی تو ہوش ٹھکانے لگ رہے ہیں۔ اللہ  
جانے ولایت نصیب ہوتی ہے کہ نہیں.....“ اتباع  
نے اس جواب پر ہونٹ بھیج لیے تھے۔

”مگر یہ بھی بہت تلخ حقیقت ہے کہ جلد بازی  
میں فیصلہ کرنے والے بدگمان بھی ہو جایا کرتے  
ہیں اور جلدی بدگمان ہونے والے لوگ دیتے  
بھی ہیں دکھ اور اٹھاتے بھی ہیں۔“

اس جواب پہ عبداللہ نے بغور اسے دیکھا۔  
پھر سنجیدگی و اجندگی کے حصار میں قصیدہ کر بولا  
تھا۔

”میں بہت حیران ہوں۔ مسلسل ورطہ حیرت  
میں مبتلا۔ کیا خوب تخلیق ہے یہ عشق..... نہ اس  
جیسا کوئی..... نہ کوئی اس جیسا..... بس ایک نقطے  
کے اندر گھومتے رہنا۔ ایک دائرے کے اندر  
سفر کرنا۔ ساری کی ساری دنیا اس ایک محور کے گرد  
اسی ایک دائرے کے اندر گزرتی ہے۔ عشق کا  
حصار ایک دائرے کے ہوتا ہے۔ شاید جس کا کوئی  
خط نہیں ہوتا کہ ٹوٹ جائے..... کوئی زاویہ نہیں  
ہوتا کہ ناپا جاسکے۔ نہ ہی اس کا کوئی اختتام ہوتا  
ہے۔ بس عشق کیے جانا ہی اولین فریضہ ہوتا ہے۔  
بغیر کسی شرط و تجارت کے ایسی دیوانگی کے تمثیل بجا  
طور پر دنیا و مافیاء عقل و خرد سے بیگانگی ظاہر کرتی  
ہے۔ میں کیا کہوں اس کے کہ.....“

عشق میں ذات ہوتی ہے نہ اوقات ہوتی  
ہے  
یہاں مات مات اور محض مات ہوتی ہے  
میں نے متکئی اس لیے نہیں کی کہ میں آپ کی  
نیچر کو سمجھ گیا تھا۔ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔  
نکاح اس لیے کیا تھا کہ شرعی دائرے کے اندر رہ  
کر آپ سے میل ملاقات رکھوں۔ تاکہ آپ مجھے



وہ جس طرح منہ لٹکا کر بولی تھی۔ اتباع نے جھینپ کر اسے ایک دھپ لگا دی۔  
”بہت ہی بے شرم ہو تم.....“ وہ آنکھیں نکال رہی تھی۔

”اور تمہارا بھائی بھی اتنا ہرگز پرہیزگار نہیں۔ آج ہی معلوم ہوا ہے مجھے۔“ اس نے جواباً انتہا کر دی۔ اتباع کے ہی چھکے چھوٹے تھے۔ کہ عبدالعلی لان کی سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں سمت آچکا تھا۔

”آپ کو اپنی دوست کی جانب جانا تھا غالباً.....“ اس کی سنجیدگی کا وہی عالم تھا۔ قدر نے محض سرکواثبات میں ہلایا۔

”یس آف کورس مگر ماموں پتا نہیں کہاں چلے گئے.....“ اس نے آخر میں منہ لٹکا لیا تھا۔

تیار ہیں تو گاڑی میں چل کر بیٹھیں۔ مگر چادر یاد سے لے لیجئے گا۔“ وہ اس سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا تھا۔ قدر نے خود کو پورے کا پورا اتباع پہ ڈھیر کر دیا۔

شکر ہے سنا نہیں ورنہ کہاں خیر رہتی۔ آخر پرہیزگار لوگوں کے راز طشت از بام کرنے کی خطا کے سزاوار تھے۔“

اس کا انداز شوخ تھا۔ اتباع گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔

”تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر تم خود کو بھائی کے رنگ میں رنگ لو۔ آسانی رہے گی۔“

”تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے اتباع! تمہیں خود کو عبداللہ بھائی کے رنگ میں نہیں رنگنا چاہیے.....؟“

”تمہیں لگتا ہے وہ ٹھیک ہے.....؟“  
یہ سوال قدر کو قدرے دھیما کر گیا تھا۔ مگر پھر گہرا سانس بھرا اور اسے دیکھ کر کاندھے اچکا دیے

اس نے گنگناتے ہوتے خود کو ہلکا سا فضا میں اچھالا اور جھولے پہ بیٹھی اتباع کے پہلو میں آگری۔ جھولا اس کے بوجھ سے آہستہ آہستہ ہی مگر ہلکورے لینے لگا۔ اتباع نے اپنے خیال سے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ شاید نہا کر آئی تھی۔ تازہ غسل کا نکھار اسے دلکش و تابندگی بخش رہا تھا۔ مہکے مہکے بال ہلکی نمی لیتے اس کی جاذبیت میں اضافہ کا باعث بن رہے تھے۔

”خیریت بہت خوش ہو.....؟“ اتباع کے اس سوال پہ وہ بازو فضا میں پھیلا کر آنکھیں میچ کر ہنسنے لگی۔

”ہاں خوش تو ہوں، تم Guess کرو کیوں خوش ہوں۔“ اس نے مسکراہٹ دہالی۔ اتباع نے اسے بغور دیکھا۔

”تمہارے چہرے کا پیارا سا رنگ خود گواہی دے رہا ہے۔ تمہارے پیارے پیارے رازوں کی۔ بھائی سے صلح ہو گئی ہے ناں تمہاری.....“ اور جواباً وہ دھنک کے رنگوں میں نہا گئی تھی۔

”میں سمجھتی تھی وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے جسے میں کبھی سر نہیں کر سکتی۔ مگر اب کچھ امید تو ہے کہ.....“

مل کے اس شخص سے میں لاکھ خاموشی سے چلوں

بول اٹھتی ہے نظر پاؤں کی پائل کی طرح وہ تھمی..... پھر جیسے آہ بھر کے افسردگی سمیت گویا ہوئی تھی۔

”مگر..... مسئلہ یہ بھی ہے۔“

پاس جب تک وہ ہے درد تمہا رہتا ہے پھیل جاتا ہے پھر آنکھ کے کاجل کی طرح ”بس بار کچھ ایسا سدباب کرو کہ مستقل بنیادوں پر اس شخص پہ حاکمیت حاصل ہو جائے۔“



بھر پورا اور وجیہہ لگ رہا تھا۔ اتنا اتنا کہ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ یہ دھڑکنیں اس شخص پر مکمل ملکیت کے احساس سمیت سرتال میں بجتی محسوس ہوتی تھیں۔

اسے ایک دم لگا تھا۔ وہ عبدالعلی کے سامنے آ کر یوں بچھ گئی ہے۔ جیسے کہ ستارہ چاند کے سامنے اپنی دمک کھودے۔ مگر ملا کیا تھا بھلا..... یہ طے تھا وہ اس کا تھا پھر کیسا تفکر..... ہاں وہ ترنگ میں تھی جب ہی کھڑکی کا شیشہ اتار کر ملکہ نم بالوں کو ہلکے جھٹکے سے بکھیر دیا تھا۔ عبدالعلی کی ناراضگی یا استغفار پہ بہانہ بال سکھانے کا قدر کو معقول تھا جو پیش ہو سکتا تھا۔ یہ ناراضی سامنے تو آئی تھی مگر دوسرے انداز میں جس کا قدر کو قطعی احساس نہ تھا۔

”تم بالوں کی کٹنگ کرواتی ہو.....؟“ اس کی نگاہوں میں محض استغفار نہیں تھا۔ برہمی بھی تھی۔ اور وہ جو اس کی توجہ کی اور انداز میں طالب تھی۔ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ بلکہ طنز پہ اتر آئی۔

”آپ کو کیا پتا میں کیا کرتی ہوں کیا کرواتی ہوں۔ کبھی غور سے دیکھیں تو پتا بھی لگے۔“

اسے اس بات پہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ عبدالعلی نے اس کی جانب جھک کر کھڑکی کا شیشہ پھر چڑھ رہا تھا۔ صرف یہی نہیں اسے دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھنے کی تاکید میں بھی سخن کا عنصر پایا جاتا تھا۔ وہ جزبر ہو کر رہ گئی۔ اسے اعتراف کرنا پڑا۔ اس جیسارو کھا شخص اس دنیا میں دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں روہانسی ہونے لگی تھی۔

”آپ کو میں کبھی اچھی نہیں لگ سکتی۔ یہ طے ہو چکا ہے۔“ اس نے جل کر بے مروتی سے کہا تو عبدالعلی نے دانت بھینچ لیے۔

”دل میں ان گنت خواہش بھری ہوں تو

تھے۔“ تم بہن بھائی جو باتیں کرتے ہو وہ غلط نہیں ہیں میں جانتی ہوں۔ مگر اتباع اللہ نے شوہر کی اطاعت کا حکم بھی تو عورت کو دیا ہے نا۔

”دیا ہے بالکل دیا ہے۔ مگر یہ اطاعت اللہ کی اطاعت سے اہم نہیں۔ جہاں شوہر کی خواہشات احکام یا مطالبات اللہ کے احکامات اس کی حدود سے متصادم ہوں گے۔ وہاں اطاعت لازم نہیں۔ وہاں شوہر کی اطاعت کو چھوڑ کر رب کی اطاعت کا حکم ہے۔“

اب کہ اتباع کا لہجہ نرم تھا۔ قدر نے گہرا سانس بھر کر تائیدی انداز میں سر ہلانے لگی۔

”یہ بات تو تم عبداللہ بھائی کو سمجھاؤ۔“

”سمجھاؤں گی مگر مناسب وقت آنے پر۔“

اتباع کے جواب پر قدر ٹھہری گئی۔

”ممکن ہے جسے تم مناسب وقت تصور کر رہی ہو اتباع! وہ مناسب نہ ہو انتظار مایوسی کو بھی جنم دیا کرتا ہے۔ ضروری نہیں صبر سے روشناس کرائے۔“

قدر اپنی بات کہہ کر چلی گئی تھی۔ جبکہ اتباع اسی ایک نقطے پہ اٹک رہی تھی۔

”انتظار مایوسی کو بھی جنم دے سکتا ہے بانسبت صبر کے.....“

☆.....☆.....☆

وہ فرنٹ سیٹ پر گاڑی میں اس کے ہمراہ تھی۔ مگر دل عجیب سی پائیت کا شکار تھا۔ حالانکہ جب اسے پتا چلا عبدالغنی کے بجائے وہ عبدالعلی کے ساتھ جا رہی تھی۔ تو دل کی کلی کیسے کھل کر گلاب بنی تھی۔ گاڑی میں اس کے برابر سیٹ سنبالتے اس نے کنکھیوں سے عبدالعلی کو دیکھا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہ سیاہ وہی کوٹ..... وہ کتنا



سے غروب ہوتا ہوا سورج پورے آسمان کو نارنجی رنگ میں ڈھال رہا تھا۔ بارش کی بوندوں کا گاڑی کی چھت سے ٹکرا کر مدھردھن پیدا کرنا قدر کے دل میں خوشی کا احساس جگا رہا تھا۔ اس نے کھنکھسیوں سے اپنے غافل اور بے نیاز ہمسفر کو دیکھا۔ جس کی سنجیدہ نظریں ونڈ اسکرین پہ جمی تھیں تو مضبوط ہاتھ اسٹیرنگ پہ وہ اس سے ایسے بے پرواہ بیٹھا تھا گویا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو۔ اس کا دل اس من پسند شخص کی رفاقت اور قربت کے باوجود عجیب سی یاسیت کے احساس سے لبریز ہونے لگا۔

عجیب موسم ہے بارشوں کا  
کہ جس میں جذبے سلگ رہے ہیں  
دھواں دھواں ہیں یہ بھیگی آنکھیں  
جگر کے چھالے بھی تپ رہے ہیں  
وہ اس وقت چونکی جب گاڑی کے بعد  
دیگرے دو تین زوردار جھٹکے کھا کر ساکن ہوئی۔  
عبدالعلی کی دوبارہ اشارت کی کوشش کے باوجود  
گاڑی کا انجن ہولے سے غرایا اور پھر مکمل خاموشی  
چھا گئی۔ یہاں تک کہ عبدالعلی نے جھنجھلا کر کوشش  
ترک کر دی۔ قدر نے تشویش میں گھر کر ایک دم  
سے اسے سوالیہ انداز میں دیکھا۔

”ک..... کیا ہوا.....؟ گاڑی خراب تو نہیں  
ہوگئی.....؟“

”میرا خیال ہے آپ کا خیال سو فیصد درست  
ہے۔“ عبدالعلی کا لہجہ خشک بھی تھا طنز آمیز بھی۔  
قدر دھک سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار  
مضطربانہ نظروں سے باہر کا جائزہ لیا۔ رات مکمل  
طور پہ ڈھل چکی تھی۔

جہاں تک نگاہ پڑتی تھی سڑک کے اطراف  
کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ جو اس وقت پانی میں ڈوبے

مثبت سوچ کی جانب دھیان جا بھی نہیں سکتا۔ نہ  
ان نعمتوں کے شکر کا خیال دل میں پیدا ہوا کرتا  
ہے۔ جو اللہ نے وافر مقدار میں عطا فرما رکھی  
ہوں۔ ذرا سی تشنگی اور کمی کا احساس ہی اپنا دائرہ  
وسیع کرتا ہوا اسی جانب دھیان لگائے رکھتا ہے۔  
اور بڑا کامیاب رہتا ہے کہ یہ خواہشات کا جنم ہی  
دل میں شیطان کی کامیابی ہے گویا۔ وہی شیطان  
میں نے اللہ کو نہ مانا تو اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر  
اپنی رحمت سے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ  
نے اپنا دشمن بنایا تھا۔ اب اگر انسان اللہ کے دشمن  
سے دوستی کرے اور اس کی تقلید کرتے ہوئے  
اسے خوش اور اپنے اللہ کو ناراض کرے تو اس سے  
بڑھ کر افسوس کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔“

اسے دیکھے بنا وہ کتنی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا  
ظاہری بات تھی اشارہ اس کے بالوں کی کٹنگ کی  
جانب تھا قدر نے ہونٹ بھیج لیے۔ دکھ سے بھرتا  
دل جیسے کوئی پھوڑا تھا۔ کچھ دیر قبل سرخوشی کی  
کیفیت اور مدہوشی کا سرگم ڈھل چکا تھا۔ اس کی  
جگہ عجیب سے ملال نے لے لی تھی۔ دونوں کے  
درمیان خاموشی کی چادر تن گئی۔ قدر اس سے  
شاک کی تھی کہ وہ کبھی اسے نرمی سے پیار سے نہیں  
قائل کر سکتا تھا۔ عبدالعلی اس بات پہ افسردہ تھا  
کہ وہ اس قدر بے حس کیوں تھی۔ آخر وہ کیوں  
کسی بھی بات کا اثر نہیں لیتی تھی۔ سفر طویل تھا اور  
طے ہو ہی رہا تھا جیسا بھی ہو..... مگر گڑبڑ اس  
وقت ہوئی جب ایک دم کالی گھٹائیں چھائیں اور  
ایر برس پڑا۔ آدھے پون گھنٹے کے اندر ہر سو محل  
تھل ہو چکا تھا۔ سڑک کچی نہیں تھی۔ مگر کسی تالاب  
کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ عبدالعلی ٹکڑی میں مبتلا ہوا  
جاتا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس بارش نے قدر کا موڈ  
قدرے بحال کر دیا تھا۔ پھر وہ مغرب میں تیزی



ہوئے تھے۔ اس نے عبد العلیٰ کو اپنے آفیسر کے طور پر پہچان کر سیلوٹ جھاڑا اور مددگی آفر بھی کر دی۔ اتنی ہی غافل تھی وہ یا پھر دانستہ پہ تغاضل برتا تھا۔

”یہ ہمارا بھابی ہوگا سر!“ گل خان نے دانت نکوس کر سوال کیا تھا کہ جواب میں وہ کوئی راہ فرار ڈھونڈتا۔

”آپ یہ امارا برساتی بھابی کو اوڑھا دو سر! امارا خیر ہے آ جاؤ سر! اللہ نے رحمت بھیجا ہے۔ مورے کو پتا لگے گا مہمان آئی ہے تو بہت خوش ہوگا۔“

عبد العلیٰ نے گہرا سانس بھرا اور اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس وقت گل خان کی آمد خدائی مدد کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ جس سے کفران نعمت ممکن ہی نہ تھا۔ بیابان میں ہیں خطرناک علاقہ تھا۔ راہزن تو گویا ایسے مواقع کی تاک میں ہوا کرتے تھے۔ عبد الیٰی کے لیے سب سے تشویش ناک قدر کی موجودگی تھی۔ وہ تو خود کیسے بھی حالات میں گزارا کر سکتا تھا مگر قدر کی وجہ سے کسی محفوظ پناہ گاہ کی اشد ضرورت تھی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے موبائل سگنل بھی دغادے چکے تھے۔ گل خان کا تعلق گاؤں سے تھا یہ تو ٹریننگ کے دوران اس سے ہونے والی بات چیت میں اسے معلوم ہو گیا تھا وہ یہاں کا باشندہ تھا۔ یہ بات ابھی معلوم ہو سکی تھی..... بہر حال وہ فاصلے سے زیادہ مطمئن ہو چکا تھا اب۔

”اگر رونے کا کوٹا پورا ہو گیا ہے تو نیچے تشریف لے آئیے۔ اپنی طرف کا دروازہ لاک کرنے کے بعد اس کا منتظر تھا۔ جب اس کی جانب سے کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تو صبح معنوں میں وہ تلملاتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا تھا۔ کچھ تو صبح سے طبیعت ویسے بھی بوجھل تھی اور اس

”مائی گاڈ.....!“ اب کیا کریں گے.....؟“ اس نے بے قراری سے ہاتھ مسلتے اُسے مخاطب کیا۔

”جو دل چاہتا ہے کریں۔ آپ کے تو غالباً من کی مراد پوری ہوئی ہے۔ بارش بھی ہے۔ گاڑی میں ہوں بھی صرف میں اب کے ساتھ۔ اسی لیے کہتے ہیں انسان کو خواہش بھی ڈھنگ کی کرنی چاہیے۔ فضول نہیں، کوئی قبولیت کا بھی لمحہ ہوتا ہے۔“ وہ کتنا جھلایا ہوا تھا۔

جس قدر برہم تھا۔ اس قدر شدتوں سے برسا۔ قدر صرف شرمسار نہیں ہوئی۔ ان طعنوں پہ سبکی سے بھی اپنی نظروں سے گرنے لگی۔ خفت کا احساس اتنا گہرا اور جان لیوا تھا کہ وہ محض اسے نم آنکھوں میں بے بسی لیے ایک نظر ہی دیکھ سکی۔ اور پھر رُخ پھیر کر بے اختیار بہہ جانے والے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا۔ اس کی محبت اس کی خواہش چاہیے دونوں کتنی ہی معصوم یا جائز تھیں۔ اسے رسوا و ذلیل کرنے پہ تلی تھیں۔ صبح کہا ہے کسی نے جذبے بے اختیار ہی ہوتے ہیں مگر خود کو کبھی بے اختیار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔ اس زعم میں جتلا رہ کر وہ اس کا جائز مالک ہے۔ وارث ہے، محرم ہے مگر سامنے والے کے حالات وجہ بات بھی تو محض نہیں تھے۔ پھر..... پھر.....

اے دل دھڑک..... تڑپ مگر اتنا یاد رکھ تیرے جذبات اور ہے میرے حالات اور ہیں

ان کے خیالات کچھ اور ہیں۔ وہ خود کو ڈانٹنے جھڑکنے اور ملامت میں اتنی مصروف ہوئی تھی کہ گل خان گاڑی تک آیا کب



کے سینے میں یا تو دل نہیں تھا اگر تھا تو اس میں جذبہ نہیں پھوٹ سکتا تھا ہمدردی تک کا بھی۔۔۔  
”سر آپ بھابی کا ہاتھ پکڑ لو پلیز! گر جائے گا بیچارہ.....“

اس کی نسبت تو گل خان کو اس سے ہمدردی لاحق ہو گئی۔ قدر نے ترچھی نگاہوں سے عبدالعلی کو دیکھا۔ جو گریزاں تھا۔ مگر حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ ناگریز بھی تھا جیسی ہچکچاہٹ آمیز انداز میں انداز میں سہی مگر اسے اپنا ہاتھ قدر کی جانب بڑھانا پڑا تھا۔ قدر نے بلا تردد اس کا سہارا لے لیا۔ اس کے باوجود ہر راستہ بہت کھٹن تھا۔ جیسے جیسے گاؤں نزدیک آ رہا تھا پانی بڑھتا ہوا ان کے گھٹنوں تک پہنچ گیا۔ جب وہ لوگ گل خان کے گھر میں داخل ہوئے سرتاپا نچڑ ہے تھے۔ مگر قدر کے لیے یہ گزرگاہ ستاروں کی گزرگاہ بن گئی تھی۔ خوشبوؤں کا سفر تھا جیسے..... وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹی تو مسکراہٹ اس کے لبوں پہ کھیل رہی تھی۔ گل خان نے مختصر تعارف پہ اس کی ایک ماہ کی بیابانی نئی نویلی دلہن اور بوڑھی ماں عبدالعلی اور قدرے آگے بچھ بچھ جانے لگیں۔ قدر کو بالخصوص ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ گل خان کی نو عمر نازک سی بیوی پلو شے ساس کے اشارے پہ اسے اپنے بچے سجائے کمرے میں لے آئی۔ جہاں رنگین لڑکیوں اور پنوں کی آرائش مسہری کے گرد ہنوز موجود تھی۔ سستا سفر نیچر اور ہاتھ کی کڑھائی سے مزین تکیے غلاف اور چادر ہی تھیں پردے لٹک رہے تھے۔

”آپ یہاں بیٹھو ابھی ام آپ کو کپڑے دیتا ہے۔ نہا کر بدل لینا۔“

پلو شے عمر میں قدر سے بھی چند سال چھوٹی تھی۔ مشکل سے سولہ برس کی ہوگی۔ اس کا بس نہ

پہ طویل سفر اس پہ ستم اب کس بارش میں بھیگ کر پوری ہو رہی تھی۔ اس کا حرارت دیتا وجود اس خنک موسم میں انکارے کی مانند چٹخا محسوس ہو رہا تھا۔ قدر کی یہ لا تعلقی اسے سخت گراں گزری تھی۔ جیسی مدہم مگر سخت لہجے میں پھنکارنے کے انداز میں بولا تو قدر جو واقعی آنسو بہا رہی تھی گڑ بڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر کچھ کہے بغیر بے انتہا ہچکچاہٹ کا شکار نیچے اتری تھی۔ مگر پہلے ہی مقام پہ جب پاؤں ٹخنوں سے اوپر تک بارش کے گدے پانی اور کچھڑ میں لت پت ہوئے وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ نگاہ میں بے چارگی تھی۔ بے بسی تھی مگر عبدالعلی متوجہ کہاں تھا۔

”چلو یار! بارش ابھی بہت تیر ہے۔“  
عبداللہ کی جھلائی ہوئی آواز بارش کے پردے کے پار سے اس تک پہنچی تھی۔ گل خان نے برساتی بڑھا دی۔ جو عبدالعلی نے اس سے لے کر قدر کے آگے کی۔

”میں چل نہیں سکتی۔ ایک قدم اٹھانے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ ایک لمحے کو تو لگا تھا۔ زمین قدموں تلے سے بھی نکل گئی ہو۔ ابھی منہ کے بل گر جائے گی۔ مگر خیریت گزری۔ لیکن اسے یقین واثق تھا کہ اگلی کوشش میں وہ ہرگز نہیں سنبھل سکتی۔ بھلا کہاں چلی تھی وہ ایسے راستوں پہ جو ذرا سا بھی تجربہ ہوتا۔ جیسی روہا سی ہونے لگی۔

”کیوں نہیں چل سکیں گی.....؟ اب کیا میں آپ کو اٹھا کر سر پر رکھ لوں.....؟“

عبدالعلی جو گل خان کے ساتھ کئی فٹ آگے جا چکا تھا۔ اس نے بے بسی احتجاج اور مشکل کو خاطر میں لائے بغیر اس پہ چڑھائی کر گیا۔ قدر نے بھیگی آنکھوں سے اس بے مہر شخص کو دیکھا تھا۔ جس



احتجاج کو خاطر میں لائے بغیر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔

”گل خان کو برآمدے میں لیٹنے سے روکیں۔ آپ سب خواتین ایک کمرے میں لیٹ جائیں۔ دوسرے میں، میں اور گل خان.....“ عبدالعلی کے لہجے میں گڑبڑاہٹ بھی تھی۔ شدت کا اصرار بھی۔ گل خان کی والدہ کو تو جیسے یہ بات کسی گناہ کبیرہ کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ جھمی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی گویا۔

”آپ نے کیسا بات کیا ہے اللہ کا نام لو۔ امارا تو دل ہی اتنا خوش ہے کہ اللہ نے رحمت بھیجی ہے۔ بارش کے ساتھ مہمان بھی۔ دو دو رحمتیں..... یہ بیوی ہے آپ کا تو آپ کو کیا گھبراہٹ۔ ام خود بھی ایسے ہی خوش ہیں۔“

عبدالعلی کو خاموش ہونا پڑا۔ یہ الگ بات کہ اب وہ باقاعدہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ پریشانی تو قدر تو بھی بات سن کر ہوئی تھی۔ جب ہی وہ ڈھنگ سے کھانا بھی نہ کھا سکی تھی بے تحاشا بھوک ہونے کے باوجود۔

”کھاؤ نا آپ! پہلے ہی بہت کمزور ہو آپ۔ جان بنے گی تو گھر بچے سنبھالو گی۔“ گل خان کی والدہ کو قدر بہت اچھی لگی تھی۔ جھمی نادر مشوروں سے نوازنے لگیں تھیں شاید۔ وہ جو پہلے ہی جزیر تھی اس کے باقاعدہ ہونٹ کچلنے لگی۔

”شادی کو کتنا عرصہ ہوا.....؟ کوئی خوشخبری ہے.....؟“ خاتون کا انداز راز دارانہ ہوا تھا مگر اس کے باوجود عبدالعلی کی سماعتوں نے باآسانی یہ بات سن لی۔ وہ شپٹا سا گیا۔ جبکہ قدر تو جیسے دہک سی گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بزرگ خواتین پر شدید غصہ آیا۔

چلتا تھا قدر کو پلکوں پہ ہٹھالے جو لباس وہ الماری سے استری شدہ اس کے لیے نکال کر لائی اسے دیکھ کر قدر کا دل گھبرانے لگا تھا۔

گوئے کناری سے مزین طبی پٹھانی فرائک جو کہ عموماً پٹھان عورتیں پہنتی ہیں مگر یہ چونکہ دلہن کا لباس تھا جھمی خاصا بھڑکیلا تھا۔

”نہیں..... نہیں میں یہ نہیں پہن سکتی کوئی سادہ لباس چاہیے۔ اس نے فی الفور انکار کیا۔ جس کے جواب میں پلوٹے نے جتنے بھی لباس نکالے سب ایک سے بڑھ کر ایک بھڑکیلے تھے۔ جنہیں وہ بہر حال نہیں پہنتا چاہتی تھی۔ مگر پلوٹے کی ساس نے اندر آ کر کچھ اتنی محبت سے اصرار کیا کہ اسے ناچار مانتی پڑی۔

”سادہ لباس ہے نہیں کوئی امارے پاس۔ ورنہ ام آپ کو ضرور دیتا۔“

پلوٹے جو چند جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ شرمساری بولی۔

”ابھی نیا شادی ہوا ہے ایسا ہی کپڑا پہنتی ہے ہماری بہو۔ آپ کیوں نہیں پہن رہی۔ آپ کا لہجہ شادی نیا ہوا ہے نا.....“

پلوٹے کی ساس جس یقین سے کہہ گئی تھیں۔ قدر کے اختلاف ہونے کے باوجود صحیح نہیں کر پائی۔ جس وقت وہ نہا کر لباس بدل کر آئی۔ عبدالعلی بھی کمرے میں آچکا تھا۔ اور گل خان بھی موجود تھا۔ قدر نے سرخ کڑھائی کی شال اچھی طرح پھیلا کر اوڑھی۔

”مورے امارا بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ آج رات یہ لوگ ادھر ہی ٹھہرے گا۔ پلوٹے آپ کے ساتھ لیٹ جائے گی میں برآمدے میں ٹھیک رہوں گا۔“

وہ ہر گرام طے کر چکا تھا گویا۔ عبدالعلی کے



اختیار کی۔

”آپ ان کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں کہ میں ..... ہمارے بچے یہ رشتہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں۔“

وہ سخت چڑ رہی تھی۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آرہی تھی اپنی ناپسندیدگی اپنی ناگواری کس طرح سے ظاہر کرے۔

رشتہ تو موجود ہے۔ آپ مانتی بھی ہی، اب کہ عبدالعلی کا انداز بہت سرد تھا۔ اتنا کہ ایک لمحے کو قدر کو بھی سن کر رکھ گیا۔

وہ اس سے کترا کر بیرونی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ باہر برستی بارش کو دیکھتا ہوا۔ مگر قدر کی اس بات پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ گلابی چہرہ۔ باتونی لب، بھگی بھگی سی پلکیں جگمگاتا ہوا شفاف سحر طاری کرتا ہوا عکس..... اس کی ساری بے نیازی حسن کی شعاعوں میں جل کر خاک ہونے لگی۔ یہ الفاظ جتنے بھی سرد تھے مگر بہت جتلا کے کہے گئے تھے۔

دل کی پوری آمادگی کے ساتھ..... قدر مسہری پر بڑے ریلکس انداز میں براجمان تھی۔ تراشیدہ ہلکی نمی لیے سلکی بال سارے سمیٹ کر ایک سائڈ پر کندھے پر ڈال رکھے تھے۔

”اپنے الفاظ یاد ہیں آپ کو.....؟ میں چیز نکاح ہوتا ہے۔ رخصتی تو ایک فارمیٹی ہے۔ جس کی شریعت میں ہرگز اتنی اہمیت نہیں ہے۔“

عبدالعلی کے الفاظ اب آنچ دینے لگے۔ وہ خود بھی کھڑکی بند کر کے اس کے مدقابل بستر پہ ٹک گیا تھا۔ اس کی نظر میں قدر کو دیکھتے پہلی بار گہرائی اترنے لگی۔ دیکھنے کا یہ انداز نیا تھا۔ اس سے قبل اس نے قدر کو پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ قدر کو جو اس کی بات پر حیران ہو رہی تھی۔ اس کی

”کوئی بات نہیں ہے۔ دیر سویر اللہ کے گھر میں ہونا ہے۔ اماری بہو کو بھی ابھی تلک کوئی امید نہیں ہو سکا۔ ام نے کل ہی بڑے پیر صاحب سے گڑ پڑھوایا ہے۔ اللہ کے فضل سے بچہ ہوگی۔ کہو تو تھوڑا سا لا دوں۔ اللہ گود بھرے دے گا۔“

قدر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ خاتون نے ان دونوں کی خاموشی سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا اس لحاظ سے مزید گوہر افشانی کی تھی۔

”ٹھیک ہے ماں جی ضرور! آپ لا دیجیے گا۔ مگر صبح.....“

عبدالعلی کے جواب نے قدر کو گنگ کر ڈالا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ شبہ کا گمان ہوا۔ اس نے کنگا بستر پر پینچ دیا اور غیر یقینی سے پلٹ کر عبدالعلی کو دیکھا۔ جو گل خان کی والدہ کی دعائیں سمیٹنے میں مصروف تھا۔ جو اس کی فرمانبرداری سے نہال ہو کر اسے دینے میں مصروف ہوئی تھیں۔

”واٹ نان سینس عبدالعلی.....! یہ گڑ جب وہ لائیں تو آپ خود کھا لینا سمجھے آپ.....؟“

محترمہ کے تشریف لے جاتے ہی وہ جو سرتاپا سلگ رہی تھی اس پہ چڑھائی کر دی۔ عبدالعلی نے جواباً شاید پہلی بار آج کے دن اسے براہ راست دیکھا تھا۔ پھر کاندھے اچکا دیے۔

”میشن ناٹ کھا لوں گا۔“ نسلی بھر انداز قدر کو مزید آگ لگانے کا باعث ٹھہرا۔

”اور یہ سب اس نے کمرے کی جانب اشارہ کرتے اسے باقاعدہ گھورا۔“

”آپ نے سوچا بھی کیوں کہ میں آپ کے ساتھ کمرے میں تہنارہ لوں گی۔“ وہ اتنے غصے میں تھی کہ مناسب الفاظ کا استعمال بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ عبدالعلی نے اب کی مرتبہ مصلحتاً خاموشی



نظروں کا بدلا انداز اسے ہڑ برانے کو کافی ثابت ہوا۔ اپنے مابین رشتے کا احساس جاگا تو دل بے ترتیبی سے بدحواس ہو کر بہت بے ہنگم انداز میں دھڑک اٹھا۔ اس کی پلکیں لرز کر عارضوں پہ گریں اور دل جیسے اتھاہ گہرائیوں میں اترنے لگا۔

”تم نے آئینہ دیکھا کیا لگ رہی ہو.....؟“ عبدالعلی چونکہ اس بہکا دینے والے ماحول میں خود کو لاچار بے بس اور سحر زدہ محسوس کر رہا تھا۔ جیسی دھیان بٹانے کو مزاح کے انداز میں گویا ہوا۔

”ان کپڑوں میں تم بالکل دیہاتی لگ رہی ہو.....“

وہ مسکراہٹ دبا کر بے حد شرارت سے کہہ رہا تھا۔ قد کی لانی پلکیں بے تحاشا لرزنے لگیں۔

”مجھے بہت آکورد فیل ہو رہا ہے۔“ وہ جیسے منمنائی تھی۔ عبدالعلی سے کہیں بڑھ کر وہ مشکل کا شکار تھی جیسے عبدالعلی ہولے سے ہنس دیا۔

”پھر تم نے مجھے نہیں دیکھا شاید..... میں بھی گل خان لگ رہا ہوں۔“

اس نے خوبصورت گھیر دار شلوار کو چھوا اونچی سی مگر کھلی مردانہ نمیض کا دامن تھپتھپایا اور بے تحاشا بننے لگا۔ قدر نے چونک کر سر اٹھایا تھا تو جیسے اس کی ہنسی نہیں رک سکی تھی۔ وہ اس لباس میں جو کہ گل خان کا تھا۔ واقعی کوئی پٹھان نوجوان نظر آ رہا تھا مگر اس کا یہ روپ بھی بہت اٹریکٹیو تھا۔ یہ قدر کے دل نے چپکے سے گواہی دے دی تھی اسے۔

”واقعی آپ بالکل گل خان لگ رہے ہیں۔“ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھے ہنوز ہنس رہی تھی۔

نازک سا ہاتھ سیاہ بالوں کی آبشار موتیوں سے دانتوں کی چمک سیاہ گہری آنکھوں کا طلسم۔ دلکشی جاذبیت نزاکت کا مجسم مجموعہ۔ وہ آج عبدالعلی

کے حواسوں پر چھا رہی تھی پتا نہیں کیوں۔

”اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کیا حرج ہے۔ اگر

ہم گل خان اور اس کی بیوی کی طرح ہی آج رات گزار دیں۔“ عبدالعلی نے گو کہ شرارت سے کہا

تھا۔ مگر اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل ہو رہا تھا۔ جو

قدرے نارمل ہو چکی تھی۔ اس بات پہ دھک سی رہ

گئی۔ اسے عبدالعلی سے اپنا فاصلہ یکدم بہت کم

محسوس ہوا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھولنے لگا۔

التفات کی یہ بارشیں نئی اور عجیب تھیں۔ اس کی

نرم نظروں کی روشنی قدر کو مسح کر رہی تھی۔ اس کی

نظریں عبدالعلی کے سامنے اٹھنے کی تاب کھونے

لگیں۔ قدر کو یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا اور غیر

مناسب بھی..... عجیب متضاد کیفیات تھیں۔ دل

گداز ہوا جاتا تھا۔ معا اس نے اٹھنا چاہا وہ یہ

فاصلے بڑھا دینا چاہتی تھی مگر حالات واقعات

سب شاید اس کے مخالف تھے۔ جیسی اس لمحے

بادل گر جاتا تھا۔ یہ کڑک اتنی خوفناک تھی کہ ایسی

دل دہلا دینے والی کہ وہ خوف کے حصار میں

گھرتی بے اختیار ہو کر چیختی لاشعوری طور پہ سہی

عبدالعلی کے وجود میں پناہ لے بیٹھی تھی۔ یہ چند

لمحوں کی اعصابی کشمکش کا احساس تھا۔ حواسوں

میں لوٹتے ہی اس نے فاصلے پہ ہونا چاہا۔ مگر

عبدالعلی نے یہ کوشش ناکام بناتے ہوئے اسے

بازوں کے مضبوط شکنجے میں کس لیا تھا اور فاصلہ

مزید گھٹا دیا۔

”اٹس او کے..... ٹیک اٹ ایزی۔“ وہ اس

پہ جھکا تھا اور اس کے نم مہکتے بال چوم لیے۔ قدر

شاکڈ رہ گئی۔

”تم کوئی ساحرہ ہو جس نے بالآخر مجھے اپنا

اسیر کر لیا ہے۔“

اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ مگر بے



اور ..... میرے میدان میں اترتے ہی بھاگ کھڑی کیوں ہوئی تم .....؟ محبت کے بڑے دعوے تھے تمہیں تو.....“

وہ جیسے با مشکل مسکرایا۔ قدر نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا اور بستر پہ گرمی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی۔

”آپ شاید مجھے پرکھنا اور آزمانا چاہتے تھے عبدالعلی! یہی مقصد پیش نظر ہوگا کہ میں کس حد تک کمزور نفس کی مالک ہوں۔ تو سن لیں میں محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ کے علاوہ کسی کو زندگی میں کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ مگر میں پھر بھی نفس کی اتنی تابع نہیں ہوں اس کے باوجود یہ تعلق جائز ہے۔ میری فضول اور بے محض اور محض شرارت میں کبھی باتوں کا بہت غلط مطلب لے چکے ہیں آپ۔“

اس کا درشت لہجہ بے حد نئی سموائے ہوئے روکھا اور سرد تھا۔ عبدالعلی کچھ نہیں بولا۔ قدر صوفے پہ سکر کر لیٹ گئی۔ اپنے اوپر وہی شال پھیلائی تھی۔ عبدالعلی نے لائٹ بند کر دی اور بیڈ پر چلا گیا۔ قدر اس سنسناتی ہوئی تاریکی میں اپنے ہی سانسوں کی آواز سنتی رہی۔ کچھ دیر قبل جو آگ اسے سر سے پاؤں تک سلگا رہی تھی وہ اب دل کی جانب رُخ کر رہی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر سونے کے بجائے رو رہی تھی حالانکہ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ آج کی رات اسے یہی کرنا تھا۔ دوسری جانب عبدالعلی تھا۔ آج کی رات نیند اسے بھی نہیں آئی تھی کہ یہ رات ایک نئے ادراک کی رات تھی۔

جھیل پر اترتی مرغابیوں کی طرح دل کے ساحل پر جو کیفیات آج اتری تھیں۔ وہ بہت نئی اور انوکھی تھیں۔ آج کی رات جیسی پہلے بھی کوئی رات نہیں آئی تھی۔ وہ کھویا کھویا سا تھا۔ ایک کسک پورے وجود میں نشاط انگیز بے چینی پھیلا

حد بوجھل تھی۔ قدر کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ عبدالعلی کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ اس کے مضبوط بازوؤں حصار میں نرمی بھی تھی اور گرمی بھی۔ شدت بھی اس کی گرم بے ترتیب سانس قدر کے بالوں اور گالوں کو چھو کر گردن تک پہنچ رہی تھیں۔ دو انگارہ لبوں نے اس کے چہرے کو دہکایا تو وہ جیسے تڑپ کر ہوش میں آگئی۔ جیسی بے اختیار مچلی تھی۔

”چھوڑیں علی!! بس از ناٹ فیئر۔“ اس کی آواز میں نی بھی تھی۔ بے بسی بھی تھی۔ مگر عبدالعلی یہ اثر نہیں ہوا۔

”مجھے لگتا ہے..... میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قدر ہمارا تعلق جائز ہے۔“

وہ اسی سمجھتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا قدر کے اندر غضب کی ٹوٹ پھوٹ غضب کی بدگمانی اور اشتعال اتر آیا۔ اس نے پوری طاقت صرف کی تھی اور ایک جھٹکے سے اس کے بازوؤں کا حصار توڑ دیا تھا۔ لڑکھڑانے کے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ کر بری طرح کا پتی خاموش آنسو بہانے لگی۔

”مجھے نہیں پتا آپ کو کیا ہوا ہے علی! مگر مجھے اتنا معلوم ہے آپ اس وقتی خواہش سے مغلوب ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ ورنہ آپ ایسے کبھی بھی نہیں تھے کہ میرے بغیر نہ رہ سکتے۔ میں خود کو آپ کے اس عارضی جذبے کے حوالے نہیں کر سکتی۔ سن لیں آپ.....“

وہ زار و قطار رو رہی تھی عبدالعلی سکتہ زدہ کھڑا تھا۔ معا اس نے ہونٹ نیچے اور رُخ پھیر لیا۔

”تم غلط سمجھ رہی ہو قدر ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے



کرنا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ سروں پر چارے اور گوبر کے ٹوکڑے رکھے دوپٹوں میں منہ چھپائے خواتین بھی اپنے کام میں نظر آتیں۔  
”آپ کمرے میں چلو سر! ام ابھی ناشتہ لاتی ہے۔“

گھر کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی گل خان نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا تھا۔  
گاڑی ٹھیک ہونے کا بندوبست کر دو گل خان پلیز! وہ عاجز ہوا تھا گل خان نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور انکساری سے جھک گیا۔

”آپ فکر نہ کرو سر! اللہ کے فضل سے یہ کام بھی جلد ہی ہو جائے گا۔“ عبدالعلی مسکرایا اور قدم باہر بڑھا کر بیٹھک کی جانب گیا۔ جہاں رات سے اس کا اور قدر کا قیام تھا۔ اندر آ کر اپنے پیچھے ہی اس نے دروازہ بند کرتے اس نے درزیدہ نگاہ بستر پہ ڈالی اور گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ قدر ہنوز صوفے پر دراز تھی۔ حالانکہ مسجد جانے سے قبل اس نے اسے جگا کر بستر پہ جانے کا کہتے اپنے باہر جانے کی نوید سنائی تھی۔ مگر وہ شاید ابھی تک بدگمان تھی۔

”ابھی نہیں ہو تم.....؟ صبح ہو چکی ہے تیاری پکڑو اپنی۔“ بستر کے کونے پر ٹکتے ہوئے اس نے نارمل انداز میں قدر کو مخاطب کیا تھا۔  
”آپ واپس چلیں۔ مجھے سمعیہ کی طرف نہیں جانا۔“ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے نگاہ ملائے بغیر خشک انداز میں کہہ گئی تو عبدالعلی نے بے طرح چونک کر اسے دیکھا۔

”سمعیہ غالباً وہی خاتون ہیں جن کی خاطر آپ نے یہ کشت کاٹے تھے۔“ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ قدر دہک سی گئی۔ البتہ ہونٹوں کو سختی سے بھینچے رکھا۔

رہی تھی۔ ذہن تھا کہ اس گھڑی بھر کی قربت کے خمار سے نہیں نکل رہا تھا۔ یہ عجیب مدہوشی کی کیفیات تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اتنا سرد مہر خشک اور روکھا انسان ایک دم سے کیسے کچھ کا کچھ ہو گیا۔ یہ صرف ماحول کا اثر تو نہ تھا۔ دل پہ یکدم ایسی واردات ہوئی تھی کہ وہ اس خواہش کے بہاؤ میں بہتا چلا گیا تھا۔ قدر کا جوانی رد عمل اسے کس خفت جھنجھلاہٹ یا تناؤ کا شکار کرنے کی بجائے مزید ہلکا پھلکا کر گیا تھا۔

گو کہ وہ اس کو جانچ رہا تھا نہ پرکھ جیسا کہ قدر اس کے متعلق گمان کر رہی تھی۔ ہاں البتہ اس کا یہ وقار اس کی یہ انا سے بہت اہم بہت خاص بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بلاشبہ وہ خیالات سوچ اور عمل بھی پاکیزگی کی حد تک بے داغ تھی۔ معیار کے مطابق جہاں عبدالعلی اپنی شریک حیات کو دیکھنے کا ممتنی تھا۔ اسے قدر کی حقیقی کا احساس تھا مگر فکر مندی نہیں۔ اسے اپنے اس عمل پہ ہرگز کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے بہر حال کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے۔

☆.....☆.....☆

سورج ابھی پوری طرح نہ نکلا تھا اور کھر فصلوں سے ذرا اوپر سر اٹھائے ٹھہری گئی تھی۔ چڑیوں کے غول کے غول گھنے درختوں سے اڑتے اور ان کی چہکائیں فضا میں شور کا احساس بھر جاتیں۔ گل خان کے ساتھ قرہبی مسجد میں وہ نماز پڑھ کر اب واپس آ رہا تھا۔ گاؤں کی گلیاں ہنوز گزشتہ رات کے طوفان کے مناظر کا عکس پیش کر رہی تھیں۔ گوڈے گوڈے کیچڑ بھرے تالاب جیسی گلیاں جن میں جانور منہ مارتے تھے۔ مرغیاں، بکریاں اور گدھے گل خان جانوروں کو ششکار تانا گلی محلے کے آشنا بوڑھے نوجوانوں سے سلام دعا



تھا۔ مگر دھیان کا بننا ضروری تھا۔ جیسی چل رہا تھا مگر کسی نے اندر آ کر جب ایک دم سے آف کیا تو اس کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا گویا۔ قہر سے بھرے انداز میں وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تو آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ طبیعت کی خرابی سے کچھ غصے سے..... مگر امن کے ساتھ اتباع کو کھڑے پا کر اس کے اندر حیرت استعجاب گیر یقینی خوشگوار اور بے تحاشا خوشی کا احساس اترتا چلا گیا تھا۔ جیسی چند لمحوں کو اس زاویے پر ساکن ہو کر رہ گیا۔

”یہ اتباع.....! خیریت معلوم کرنے آئی ہے آپ کی بھائی!“

امن کے کہنے پہ وہ گہرا سانس بھرتا خوشی کے عالم میں سیدھا ہو بیٹھا۔

”آگنی ہیں تو تشریف رکھ لیجیے۔ احسان عظیم ہوگا۔“ اس کا لہجہ اس کے اندر کی سرشاری کا گواہ تھا۔ امن نے مسکراہٹ دبائی۔

”بیٹھو اتباع! میں چائے بنا لاتی ہوں۔“ وہ اگلے لمحے چھبک سے باہر تھی۔ اتباع جو اسے اس وعدے کے ساتھ لائی تھی کہ وہ اتنی دیر اس کے بیٹھی رہے گی جب تک وہ عبداللہ کے ساتھ ہے اس دعا بازی پہ دھک سی رہ گئی۔

”بیٹھو اتباع! گھبرا کیوں رہی ہو.....؟“ وہ ہلکے سے ہنسا تھا اور خود بھی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگالی۔ اس کی روشن آنکھیں بہت تفصیلی جائزے میں مگن تھیں۔ اتباع کو اس قدر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ اس کی دھمکیاں خفگی اور شکوے تھے لاریب سے کہ انہیں اسے زبردستی اس کی خیریت بوجھنے کو بھیجنا پڑا تھا۔ مگر اب اتباع کو لگ رہا تھا پھر غلطی ہو گئی ہے۔ عبداللہ جنیز کے اوپر صرف بنیان پہنے ہوئے تھا۔ اتباع کو اس کی یہ بے تکلفی ہی بہت بری لگ رہی۔ وہ پہلی بار اس طرح اس کے

”اس فیصلے کی وجہ.....؟“ عبدالعلی حیران و پریشان نظر آنے لگا۔

”میں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔“ وہ نروٹھے پن سے بول پڑی۔

”پابند تو ہیں خیر آپ۔ صرف جواب دینے کی نہیں۔ میری ہر خواہش کی تکمیل کی چاہے وہ خواہش.....“

”عبدالعلی صاحب.....! پلیز خاموش ہو جائیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھا ہے۔“ اس کی آواز میں سوز تو تھا ہی نمی بھی اتر آئی۔

”میں نے اب ہی تو تمہیں سمجھا ہے قدر.....!“ اس کا گھمبیر لہجہ تر ہوا۔

”میں نے جانا جو لوگ رشتوں کے تقدس میں ذرا سی اونچ نیچ والوں کو ناخالص اور قابل نفرت گراندتے ہوں۔ ایسے لوگ عام نہیں ہو سکتے۔“

قدر حیران رہ گئیں۔ اسے عبدالعلی کی بات خاک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں وہ اتنا سمجھ سکتی تھی۔ اس کی پرکھ ہوئی تھی اگر وہ اس پرکھ میں ہار جاتی تو عبدالعلی کے معیار سے ہمیشہ کے لیے گر جاتی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اٹھ کر تیزی سے باہر چلی گئی۔

عبدالعلی نے کہاں اس کی کیفیت اس کے احساسات پہ توجہ دی۔ وہ تو بس اپنی کیفیات پہ مطمئن تھا۔ خوش تھا سرشار تھا۔ وہ اس وقت برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ پرسکون، قدر آگ آگ ہو رہی تھی۔ دھواں آگ سے بھی نکلتا ہے اور برف سے بھی۔ آگ اور برف کا دھواں..... نتیجہ دھندلا منظر۔ ان کے سامنے بھی منظر دھندلا رہے تھے۔

☆.....☆.....☆

بستر پہ تکیوں میں منہ چھپائے سخت بے زاری کا عالم میں بھی وہ میوزک انجوائے نہیں کر سکتا



اتارے بغیر میں سو نہیں سکتا۔ تو آج بستر سے نکلا ہی نہیں جیسی اس جانب توجہ ہی نہیں جاسکتی۔“  
سرہانے پڑی شرٹ اٹھا کر پہنتا ہوا وہ بے ساختہ وضاحت پیش کر رہا تھا۔ اتباع کچھ بولی نہیں۔ تو عبداللہ نے مٹن بند کرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔

”ابھی بھی خفا ہیں.....؟“ وہ کتنا سادہ معصوم لگ رہا تھا سوال کرتے۔ اتباع کو ہنسی آئی مگر دبا لی۔

”اٹس اوکے۔“ اس نے سنجیدگی سے ہی جواب دیا۔ وہ قدرے ریٹکس ہوا۔  
”ہینٹکس..... بیٹھ جائیں نا آپ۔“ امن چائے لاتی ہوگی۔

اتباع کو ناچار دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ عبداللہ جیسے پرسکون ہو کر رہ گیا۔ کچھ دیر اسے تبسم خیز نظروں سے دیکھتا رہا پھر بے ساختہ گنگنایا تھا۔  
نگاہ یار کے پردوں میں بے حیا کیسی ستم کیسا کرم کیسا جفا کیسی وفا کیسی اس کا لہجہ شوخ و شنگ بھی تھا۔ سراہتا ہوا بھی۔ اتباع کی پھر سے جان پہ بننے لگی۔ اس نے اضطراب سے پہلو بدلا تھا اور پھر عاجز نظروں سے اسے دیکھا۔

”اگر ایسے کریں گے تو میں چلی جاؤں گی۔“ دھمکی ایسی تھی کہ وہ کھل کر ہنسا پھر جواباً گویا ہوا تو انداز شرارت و سنجیدگی کا مظہر تھا۔ کسی حد تک دھمکی آمیز بھی۔

”اگر آپ ایسا کریں گی تو ہم بھی مستقل بنیادوں پر آپ کو یہاں لانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایسے کہ پھر واپس نہیں جاسکیں گی۔

اتباع کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جو اس کی سمت ہی متوجہ

سامنے آیا تھا۔ شاید اسے تو احساس بھی نہیں تھا۔ مگر اتباع جزبہ ہو چکی تھی۔ کہنا چاہتی تھی مگر حجاب مانع تھا۔ وہ ہرگز اس سے اتنی بے تکلف نہیں تھی۔  
”سچ پوچھو تو بہت اچھا لگتا تمہیں اس طرح آج اپنے پاس دیکھنا۔ مجھے یقین کرنے میں دشواری نہیں رہے گی اتباع! کہ تمہیں میری پرواہ ہے۔ میرا خیال ہے تم وہ ہو جسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ تم میرے ہی وجود کا گمشدہ حصہ ہو۔ جیسی تمہیں حاصل کرنے کو بے قرار ہوا تھا۔ اتباع میں خود کو مکمل دیکھنا چاہتا تھا۔“

وہ اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ پلکیں چھپکاتے بنا۔  
”پہلی بات میں نے تمہیں دیکھا۔ مجھے لگا تھا جیسے ارد گرد پھول کھل گئے ہوں۔ روشنی کی کرن چمکی ہو۔“

وہ کتنے دھیان سے کس وجہ سچائی سے اپنی کیفیات آشکار کر رہا تھا۔ جبکہ اتباع اس قدر سچائی گھبرائی ہوئی تھی۔ معاوہ ہاتھ مسلتے ہوئے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تو عبداللہ بے قرار سا ہو کر ایک جھٹکے سے اس کے مقابل آ گیا۔  
”ابھی مت جاؤ اتباع! اتنی جلدی نہ جاؤ پلیز!“

وہ ہنوز اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ جن میں ایک خاص کشش تھی۔ جو لوٹ لینے خرید لینے جوگی بنا دینے میں ماہر تھی۔

”مم..... مگر آپ نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔“

وہ جھنجھلائی تھی اور بالآخر اپنی خفگی کی وجہ اگل دی۔ عبداللہ پہلے حیران ہوا۔ پھر خفت زدہ اس کے بعد اس شرمندگی میں جتلا خجالت آمیز ہنسی مننے لگا۔  
”اوہ..... سوری اتباع! پلیز غلط نہ سمجھیے گا مجھے بہت خراب عادت ہے۔ رات کو شرٹ



تھا۔ اس درجہ کیفیات کے نزول پہ جیسے اسے دیکھتا  
سحرزدہ ہو گیا۔

ضرورت نہیں وہ پھر سے خوش و خرم چاق و چوبند  
تھا جیسے۔

کیا غضب ہے کہ اس کی خاموشی  
مجھ سے باتیں ہزار کرتی ہے  
وہ جیسے کراہا تھا۔ اتباع ایک جھٹکے سے اٹھ  
کھڑی ہوئی۔۔۔ عبداللہ نے بے اختیار ہو کر اس کا  
ہاتھ پکڑ لیا تھا۔

اتباع نے اس تبدیلی کو پتا نہیں کس حد تک  
نوٹ کیا اور گہرا سانس بھر کے مدہم انداز میں گویا  
ہوئی تھی۔

”ابھی آپ نے کہا نا..... آپ کی روح کی  
غذا موسیقی اور شاعری ہے۔ عبداللہ میں یہ کہنا  
چاہتی ہوں کہ روح کی غذا موسیقی نہیں، قرآن  
کریم کی سورتیں ہیں۔ ایک ہی گانا بار بار سننے  
اور گانے سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے مگر قرآن کریم  
کی ایک ہی صورت بار بار پڑھنے اور سننے سے  
اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال سورہ فاتحہ  
ہے۔ ہر رکعت میں پڑھی اور تلاوت کی جاتی  
ہے۔ آج تک کوئی اکتایا نہیں۔ اگر ہو سکے  
تو زندگی میں اس کا تجربہ ضرور کیجیے گا۔ یہ خواہش  
ہے میری۔“

”کیسا لگا میرا سراہنا..... میرا انتخاب.....“  
اتباع کا دل رونے کو چاہنے لگا۔ یہ امن بھی بد تمیز  
جانے کہاں رہ گئی تھی۔ اسے اس پہ بھی غصہ آیا۔  
”شاعری اور موسیقی میرے لیے میری روح  
کی غذا ہے سمجھ لیں۔ آپ بیٹھیں نا میں آپ کو  
ایک سانگ سنا تا ہوں۔ جو آپ کی آمد سے پہلے  
سن رہا تھا۔ اف..... کیا شاعری کی ہے۔ کلم ہے  
، تباہی ہے۔“

وہ جوش جذبات سے پلٹ کر بستر پہ گرا اور  
ریموٹ اٹھانے گا۔ ارادہ ظاہر ہے۔ میوزک آن  
کرنے کا تھا۔ جب اتباع نے درستی سے مداخلت  
کردی تھی۔

جھکی پلکیں سلیقے سے اوڑھا دو پٹا تقدس کے  
بالے میں روشن چہرہ..... انسان کے روپ میں  
فرشتہ لگی اسے، جنت کی حور جو شاید راستہ بھٹک گئی  
تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر آہستگی  
سے..... نرمی سے مسکرایا تھا۔ یہ مسکراہٹ بہت  
دل سے اٹھی تھی۔ جیسی بہت خوبصورت تھی۔ پیور  
تھی۔ شفاف تھی جس نے اس کے چہرے کو اجال  
دیا تھا۔ معاوہ خود کو اس مسحور کن کیفیت سے نکالنے  
کو کھنکھارا اور بھاری آواز میں بولا تھا۔

”زحمت نہ کریں عبداللہ! میں گانے نہیں سنتی  
نہ سننا چاہتی ہوں۔“

عبداللہ میکانکی انداز میں رکا۔ پھر پلٹ کر  
اسے دیکھا اور گہرا سانس بھر کے ریموٹ واپس  
بستر پہ اچھال دیا۔ انداز میں بے دلی تھی۔ سارا  
جوش خروش ماند پڑ گیا تھا گویا۔

”عبداللہ ایک بات کہوں..... اگر آپ غور  
کریں تو.....؟“ نظریں جھکائے کچھ سوچتی ہوئی  
وہ متذبذب بھی لگی۔

عبداللہ حیران رہ گیا۔ معاس کی آنکھیں کسی  
احساس سے چمکیں اور بے ساختہ مسکرانے لگیں۔  
”ضرور مادام! اور آپ کو اجازت کی ہرگز

”شیوروائے ناٹ اتباع! مگر ایک بات میں  
بھی کہوں گا وہ یہ کہ..... ہر بار اتنی خوبصورت  
بات آپ اتنے فاصلے سے کرتی ہیں تو بہت تشنگی کا  
احساس ہوتا ہے مجھے۔ سمجھیں سارا مزہ ہی کر کرہ  
ہو جاتا ہے ایسا نہ کریں۔ شادی کر لیں ہم۔ پھر  
آپ مجھ پہ جتنے مرضی فرمان صادر کیجیے گا۔ نہ



میں کس جگہ  
**دوستی**

کے چہرے نہیں

آپ دوستی کے خریدار بن کر ملک کو

ذمہ دار بنا دیجیے

اندرون ملک = 890 روپے

ہر ملک ہر شہر اور ہر محلے میں دستیاب ہے

|                  |          |                  |           |
|------------------|----------|------------------|-----------|
| 155 امریکی ڈالرز | ایران    | 155 امریکی ڈالرز | کویت      |
| 155 امریکی ڈالرز | سری لنکا | 155 امریکی ڈالرز | سعودی عرب |
| 155 امریکی ڈالرز | جاپان    | 155 امریکی ڈالرز | یو اے ای  |
| 155 امریکی ڈالرز | لیبیا    | 155 امریکی ڈالرز | مصر       |
| 155 امریکی ڈالرز | ڈنمارک   | 155 امریکی ڈالرز | یونان     |
| 155 امریکی ڈالرز | جرمنی    | 155 امریکی ڈالرز | فرانس     |
| 155 امریکی ڈالرز | ہالینڈ   | 155 امریکی ڈالرز | برطانیہ   |
| 155 امریکی ڈالرز | پولینڈ   | 155 امریکی ڈالرز | ناروے     |
| 165 امریکی ڈالرز | کینیڈا   | 165 امریکی ڈالرز | امریکہ    |
| 165 امریکی ڈالرز | آسٹریلیا | 165 امریکی ڈالرز | افریقہ    |

ذمہ دار بنو

آج ہی رابطہ کیجیے II 88-C فرسٹ فلور۔ خیابان جامی کمرشل۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ فیز-7، کراچی

فون نمبر: 35893122 - 021-35893121

READING  
Section



جوڑا تھا۔ مگر دوسری جانب کچھ ایسی کیفیت کا شکار تھا کہ کس تبدیلی پہ غور نہیں کر سکا۔

”وسلام! طبیعت کا نہ پوچھو جان من! اگر آشکار کر دی تو تم اتنی خفا ہو جاؤ گی کہ ڈرے پھر شاید بات بھی نہ کرو۔ بس اتنا سن لو مجھے نیند نہیں آرہی۔ تمہاری کمی فیل کر رہا ہوں۔“

اور اتباع کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے۔ وہ خاموش رہی مگر دل کی دھک دھک بہت واضح تھی۔

”خفا ہو گئیں اتباع! وہ آہستگی سے مگر بے حد بوجھل آواز میں مخاطب ہوا۔ اتباع نے محض ہنکارا بھرا۔“

”تم شادی کر لو مجھ سے پلیز! میں بعد میں ہرگز پابندی نہیں لگاؤں گا تم پہ..... جتنا مرضی پڑھنا چاہو۔“

وہ سچی ہوا تھا۔ اتباع گڑبڑا گئی۔  
”یہ تو ممکن نہیں ہے پلیز.....“  
”کیا..... پڑھنا کہ شادی.....؟“

عبداللہ چڑا۔  
”آپ دیٹ کریں عبداللہ! میرے نزدیک میری تعلیم بہت اہم ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ عبداللہ کو یکدم چپ لگ گئی۔“

”طے ہوا بہت ظالم ہو تم..... تمہیں کیا پتا مجھ پہ کیا بنتی ہے ذرا سا اندازہ اس سے کر لو کے۔“

رات چپ چاپ دے پاؤں چلی آتی ہے  
صرف خاموش ہے روٹی بھی نہیں ہنستی بھی نہیں  
چاند کی کرنوں میں وہ سابق ہر شمع بھی نہیں  
چاند مصری کی ڈلی ہے کہ گھل بجانی ہے  
اور سناٹے کی اک دھول اڑی جاتی ہے  
ہجر کی راتوں میں یہ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے  
اس کے لہجے کی آج اتنی دور سے بھی اتنے

مانوں تو جو مرضی سزا.....“

وہ ہنس رہا تھا۔ اتباع بے اختیار جھینب گئی۔  
خفگی کا تاثر اس کے صبح چہرے پہ اتر ا تھا۔ مگر وہ وہاں مزید نہیں رکی۔ اور تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ کتنی دیر بعد تک بھی اس کی دھڑکنیں اس کی سانسیں اعتدال پہ نہیں آسکی تھیں۔

☆.....☆.....☆

وہ گھر آ گئی تھی تو کچھ دیر بعد ہی عبدالعلی اور قدر بھی آ گئے۔ وہ ان میں گمن ہو گئی۔ کھانا پکانا پھر نماز اس کے بعد مصروفیات..... کتنی دیر بعد موبائل دیکھا تو وہاں عبداللہ کا مسج u love ا کی صورت میں جگمگا رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ وہ کچھ دیر اس کیفیت سے نہیں نکل سکی۔ اسے لگنے لگا تھا عبداللہ اپنی محبت کا سنہرا جال اس کے گرد جانفشانی سے بن رہا ہے کہ وہ چاہے بھی تو اس سے نہیں نکل سکتی۔ بلکہ اگر حقیقت کی نظر سے اپنا تجزیہ کرے تو اس سے بھی عبداللہ کی یہ محبت بہت اچھی لگ رہی تھی۔ چاہے جانے کا دلر با احساس اسے خود اپنی نظروں میں با وقت بنانے لگا تھا۔ وہ پوری طرح اس کی سوچوں اس کی باتوں میں محو تھی۔ جب ہاتھ میں موجود سیل فون اچانک وا سبریت کرنے لگا۔ اتباع اپنے دھیان میں اتنی محو تھی کہ بری طرح سے ہڑبڑا گئی۔ سنبھلتے ہوئے بے تحاشا خجالت نے آن لیا کہ سیل فون اس کے ساتھ سے چھوٹ کر بستر پہ جا گرا تھا۔

”عبداللہ کالنگ.....“ اس کا دل زور سے دھڑکا تو لبوں پہ بڑی بے ساختہ قسم کی مسکان اڈی۔

”السلام وعلیکم! طبیعت کیسی ہے.....؟“ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے عبداللہ سے سلسلہ کلام



دیا ہے۔ وہ باتیں جو میں نے محض شرارت میں کہہ جاتی تھی۔ میرے گلے کا طوق ثابت ہو چکی ہیں۔ نظروں سے گرنا وہ بھی اس شخص کی جو آپ کے نزدیک سب سے خاص سب سے اہم ہو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے۔..... تم نے کہا تھا اتباع.....! کہ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے حسین دلکش اور نایاب چیز ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت وہ محبت کا اقرار کر لیتی ہے تب مرد کی نگاہوں میں اس عورت کی اہمیت اور دلکشی ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ عورت کی نگاہوں میں اس مرد کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ..... عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص خاص موقعوں پر ہی کیا جاتا ہے۔ جبکہ عزت ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر آدھی ہوتی ہے۔ جبکہ عزت کے بغیر عورت، عورت نہیں رہتی۔“ مجھے اب جا کیا حساس ہوا۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار ڈالی۔ عبدالعلی..... جنہیں میں خاص بہت بلند سمجھتی تھی۔ وہ بھی.....“ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں مگر آنسو پھر بھی مچلتے رہے بکھرتے رہے۔

”انہیں پتا ہے میں ہرٹ ہوں۔ وہ پھر بھی کوئی وضاحت نہیں مجھے دے کر گئے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک میری عزت ہی نہیں ہے۔ کاش میں مر جاتی اس دکھ کو سہنے سے پہلے..... مجھ سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی۔“

(لفظ لفظ مہکتے اس خوبصورت ناول کی

For Next Episode Visit

Paksociety.com



فاصلوں کے باوجود اتباع کھلسانے لگی تھی۔ وہ ساکن بیٹھی رو گئی۔

”ٹھیک ہے آپ آرام کریں۔ میں نے خواہ مخواہ ڈسٹرب کر دیا۔“

وہ ایک دم رابطہ منقطع کر گیا۔ اتباع ششدر ہوئی تھی۔ گہرا سانس بھرتی نیم دراز ہو گئی۔

(یہ کن راہوں پہ ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جا رہے ہیں آپ مجھے عبداللہ! کیوں چاہتے ہیں میں بھی چین کھودوں۔) اس کی خوبصورت آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔

☆.....☆.....☆

لان کے آخری کونے میں گلابوں کے کنج کے پاس وہ کب سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اداس، ملول..... ویران کل سے آئی تھی۔ کل سے یہی کیفیت تھی۔ سب ہی حیران تھے۔ مگر اتباع تو مضطرب ہو چکی تھی۔ کتنا پوچھا بھی تھا اس نے..... مگر وہ جواب ہی نہ دیتی تھی۔ خود میں غلطاں..... کسی اضطراب کا شکار..... اتباع نے بات کو شرارت کا رخ دے کر اسے چھیڑا تھا تو آنکھیں بھگ گئیں۔

”لاسٹ ٹائم تمہیں یاد ہے۔ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ میرا بھائی اتنا سرد نہیں جتنا تم سمجھتی تھیں۔ اچھا خاصا لوفر ہے۔ کیا اس سفر میں ان کی لوفری..... میرا مطلب ہے رشتے کا کوئی استحقاق تمہیں برا لگا ہے یا کوئی اور بات ہے۔“

جواب میں قدر کی آنکھیں جھنی تیزی سے بھیگی تھیں وہ بات اتباع کے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اور کمرے میں بند ہو کر شدت و من سے روٹی رہی تھی۔

”میں تمہیں کیا بتاؤں اتباع! میں نے کیا کھو




## ضبط کا حوصلہ نہ پوچھ

”چپ ہو جاؤ وینی..... چپ ہو جاؤ۔“ وہ خوشامد سے کہہ رہا تھا۔ الوینہ کی امی کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اگر وہ اس وقت ان دونوں کو اور خاص طور پر الوینہ کو لان میں دیکھ لیتیں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن الوینہ کو آنے والے خطرے کا احساس نہیں تھا۔ وہ پوری.....

اس نے اپنے دوست سے ایک پرانا ستار بھی خرید لیا تھا۔ اور دن رات الوینہ کے کان کھاتی تھی۔

وہ تو ہر جگہ دوست بنانے میں ماہر تھا۔ میوزک کلاسز کے لیے بھی اسے زیادہ خرچہ کرنا نہیں پڑتا تھا۔ کچھ واقفیت کام آگئی تھی۔ باقی

آشی کو دیکھ کر اسے بھی ستار بجانے کا شوق ہو گیا۔ لیکن کم بخت سرقا بو میں ہی نہیں آتے تھے جبکہ آشی کو ستار بجانے میں خاصی مہارت تھی۔ اس نے ایف ایس سی کے امتحان کے بعد چھٹیوں میں میوزک کی کلاسز جوائن کی تھیں اور ستار بجانے سیکھ لیے تھے۔



Downloaded From  
Paksociety.com





Downloaded From  
Paksociety.com

READING  
Section



لان میں لے آئی۔ اسے امی کو یہ بات نہ بتانے کے لیے اسے اپنے جیب خرچ سے کچھ رشوت بھی دینی پڑی۔ عالی بھیا کا کمرہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پڑھائی کے دوران ڈسٹرب ہوں۔ گو پاپا کی طرح عالی بھیا بھی بے ضرر تھے۔

اپنی پسندیدہ جگہ چھوٹے سے تالاب کے پاس سفید گلابوں کے کنج کے پاس بیٹھ کر اس نے بڑے اشائل سے ستار اپنے کندھے سے نکا کر بجانا چاہا۔

ابھی اس نے ستار کے تاروں پر انگلیاں پھیری ہی تھیں کہ اسے پیچھے سے 'ہاؤ' کی آواز آئی۔ دل امی کے ڈر سے پہلے ہی سہا ہوا تھا۔ الوینہ ستار زمین پر پٹخ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ستار کے تار زور سے بھنجھائے اور خاموش ہو گئے۔ وہ اندر دوڑ لگانے والی تھی کہ آشی کے قبضے نے اسے آپے سے باہر کر دیا۔

”آشی کے بچے.....“

وہ دانت کچکچا کر اور مکا تان کر آگے بڑھی۔ آشی کمال پھرتی سے ایک طرف ہو گیا اور الوینہ اپنی جھونک سے آگے نکل گئی۔ آشی کے سامنے ستار کی چوری پکڑے جانے پر شرمندگی کا احساس۔ ان سب باتوں نے مل کر الوینہ کو بری طرح بوکھلا دیا اور وہ وہیں گھاس پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگی۔

آشی نے اس کا آنچل کانٹوں سے چھڑایا اور اس کے پاس آ بیٹھا۔

”چپ ہو جاؤ وینی..... چپ ہو جاؤ۔“ وہ خوشامد سے کہہ رہا تھا۔ الوینہ کی امی کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اگر وہ اس وقت ان دونوں کو اور خاص طور پر الوینہ کو لان میں دیکھ لیتیں تو کچھ بھی

گزارا ٹیوشن سے ہو گیا تھا۔ الوینہ نے آشی کی بہت خوشامدیں کی وہ اسے ستار بجانے سکھا دے لیکن دو تین کوششوں کے بعد آشی نے صاف کہہ دیا وہ ستار بجانا نہیں سکھا سکتا۔

اب الوینہ کے لیے یہ انا کا سوال بن گیا تھا۔ مگر مجبوری یہ تھی کہ ستار بھی آشی کا تھا جسے وہ جان سے لگا کر رکھتا تھا۔ ویسے تو آشی ایک کول ملٹری اکیڈمی ٹریننگ کورس مکمل کر رہا تھا لیکن آج کل چھٹیوں میں آیا ہوا تھا۔

الوینہ بھی تاک میں لگی رہتی تھی اور آج اسے موقع مل گیا تھا۔

امی بھی اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھیں اور آشی بھی باہر گیا ہوا تھا۔ ابو سے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر اپنی اسٹڈی میں کتابوں میں گم رہتے تھے۔ یوں بھی انہیں الوینہ کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا اگر وہ اسے ستار سے بجاتے دیکھ لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا وہ تو امی ہی تھیں جو چوبیس گھنٹے 440 والٹ کا خطرہ بنی رہتی تھیں۔

آج امی گھر پر نہیں تھیں مگر مشکل یہ تھی کہ وہ رات کے کھانے کی پوری ذمہ داری اس پر ڈال گئی تھیں۔ باورچن موجود تھی مگر ان کا حکم تھا کہ ایف اے کے امتحان کے بعد اسے امور خانہ داری میں ماہر ہونا چاہیے۔ اور امی کا ہر حکم نادر شاہی ہوتا ہے۔

بابا اس میں اختلاف کرنے کے عادی نہیں تھے۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر رات کا کھانا تیار کیا اور کھانے کی میز سجا کر فارغ ہو گئی۔

امی نوبے تک آنے کا کہہ کر گئی تھیں۔ ابھی ساڑھے سات بجے تھے چنانچہ اس کے پاس ڈیڑھ گھنٹہ تھا۔ ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ ستار پچھلے



اپنے بزنس کی ایک اور شاخ کھولنے لاہور آ رہے ہیں ان کا قیام طویل بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی سنا تھا کہ وہ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتے ہیں مگر الوینہ کی امی کے اصرار پر ان کے گھر رہنے پر راضی ہوئے تھے الوینہ کو بھلا ان سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔

”سنا ہے بہت ہینڈسم ہیں بلکہ میں نے تو ان کی تصویر بھی دیکھ لی ہے۔ دیکھو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔“

”مجھے کیا.....“ الوینہ نے شانے جھٹکے۔

”اور میں کیا تمہاری طرح ہوں ہر وقت لڑکیوں کو تاکتے رہتے ہو۔“

الوینہ بھلا آشی سے انتقام لینے کا موقعہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی۔ اچھا بھلا ستایا تھا اس نے بے چاری کو۔

”میں..... لڑکیوں کو تاکتا ہوں۔ کس نے کہا تم سے.....؟“ آشی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔

”وہ جو سامنے والی نیلو کو ٹنگنی باندھ کر دیکھا کرتے ہو۔“ الوینہ نے یونہی ہوا میں تیر چلایا۔

”ارے ہاں.....“ آشی نے زور سے سر ہلایا۔

”یار اس سے دوستی تو کرواؤ شاید کچھ بات بن جائے۔ ورنہ جب تک یہاں سے تم دفعتاً نہیں ہوگی۔ اپنے لیے کوئی چانس نہیں ہے۔ اوپر سے وہ بفراط بھی یہاں موجود ہیں۔“ وہ عالی بھیا کو اسی نام سے پکارا کرتا تھا۔

”دوستی کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ نیلو کے مقابلے میں تو بہت اچھی ہوں۔“

الوینہ کی رگ شرارت پھڑک اٹھی۔ اس نے دایاں ہاتھ آشی کی طرف بڑھایا۔

آشی نے جو مزے سے گھاس پر پاؤں بشارے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔

ہو سکتا تھا۔ لیکن الوینہ کو آنے والے خطرے کا احساس نہیں تھا۔ وہ پوری شد و مد کے ساتھ رونے میں مصروف تھی۔ آخر آشی کو غصہ آ گیا۔

”واہ بھئی..... اچھی رہی۔ الٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے۔ ایک تو میرا ستار چوری سے یہاں اٹھا لائیں وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ اوپر سے یہ رونا دھونا مچا رکھا ہے۔“

”میں کوئی چوری وری سے نہیں لائی اور مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پورے دو سو اڑتالیس روپے دیے تھے اس ستار کے لیے۔ بڑے آئے ستار والے۔“

الوینہ نے بات ختم کی اور دوبارہ اسی رفتار سے رونا شروع کر دیا۔

اچھا بابا تمہارا ہی ستار ہے۔ آشی کو ٹھنڈا ہونا پڑا۔ الوینہ کسی بھی وقت ان دو سو اڑتالیس روپے کا مطالبہ کر سکتی تھی اور اس کی جیب میں فالٹو ایک کوڑی بھی نہیں تھی۔

”میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے آیا تھا۔ نہیں سنتی تو نہ سنو۔ میں تو جا رہا ہوں۔ تم بیٹھی رہو یہیں.....“ الوینہ کے رونے کو بربیک لگ گئے۔

”کیسی خوشخبری.....“ اس نے دوپٹے کے پلو سے ناک اور آنکھیں پونچھیں۔

”وہ شعیب بھائی آ رہے ہیں.....“

”میرے لیے یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے۔“ الوینہ نے منہ بسور کر کہا۔

سوائے اس کے کہ میرے کام اور امی کی ڈانٹ پھٹکار میں اضافہ ہو جائے گا اور کچھ نہیں۔ کافی دن سے شعیب بھائی کے آنے کا گھر میں تذکرہ ہو رہا تھا جو کہ الوینہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ لیکن نہ الوینہ نے کافی عرصے سے انہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان سے دلچسپی تھی۔ سنا تھا وہ



بھی دیر ہو گئی تھی۔ بیٹا بھی ابھی تعلیم سے فارغ نہیں ہوا تھا اور الوینہ نے تو ابھی ایف ہی کیا تھا۔ کافی وسیع اور خوبصورت گھر والد کو کلیم میں مل گیا تھا۔

ابھی تک تو ان کے پاس ہی تھا مگر ظاہر ہے اس میں بہن بیٹیوں کا بھی حصہ تھا اور پر کا حصہ کرائے پر چڑھا دیا تھا مگر اچھے کرایہ دار کی تلاش کے چکر میں کرایہ بھی کافی کم کرنا پڑا تھا۔

الوینہ کی امی یوں تو اعتدال پسند خاتون تھیں۔ میاں کے بڑے عہدے تک پہنچتے پہنچتے زندگی بہت سے نشیب و فراز دیکھ لیے تھے۔ الوینہ کے ابو طبیعتاً نرم مزاج کے مالک تھے۔

ان پر بیوی کا رعب بہت زیادہ تھا۔ ایک تو ویسے ہی تنگ مزاج تھیں اور تھیں بھی نسبتاً اونچے اور امیر خاندان سے۔ زندگی بھر من مانی کرنے کی وجہ سے مزاج میں رعونیت آ گئی تھی۔ شادی کے بعد انہیں صرف ایک بات اپنی منشا کے خلاف برداشت کرنا پڑی تھی اور وہ یہ تھی آشی کی ذمہ داری۔

آشی الوینہ کی اکلوتی پھوپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے والدین چند ہفتوں کے وقفے سے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ پھوپھو کے سسرال میں کوئی ایسا عزیز نہ تھا کہ پانچ سالہ آشی کی ذمہ داری قبول کرتا لہذا بڑے ماموں ہونے کے ناطے احسن صاحب پر یہ بار آ پڑا۔ احسن صاحب کو اپنا یہ بھانجا بہت عزیز تھا لیکن بیگم کو یہ بوجھ بہت ناگوار گزارا تھا لیکن کچھ نہ کہہ سکیں کیونکہ زندگی میں پہلی اور آخری بار ان کے شوہر نے کوئی فیصلہ حتمی طور پر کیا تھا۔

عمر کے اس دور میں اپنے لیے تو دل میں کوئی ارمان نہیں تھا لیکن عام ماؤں کی طرح بیٹی کے

دوستی اور تم سے۔ ممانی جان جان جو مثال دیتی ہیں کہ آگ کو پکڑو۔ اس کو نہ پکڑو۔ وہ تم پر صادق آتی ہے مجھے کوئی شوق نہیں آگ سے کھیلنے کا۔“

”نہیں تو نہ سی.....“ الوینہ کو بھی غصہ آ گیا۔ ”شکل دیکھی ہے اپنی۔“  
”ہاں دیکھی ہے۔ تمہارے شعیب صاحب سے تو اچھی ہے۔ مقابلہ کر لینا۔“  
آشی نے مسکرا کر کہا۔

”جہنم میں جاؤ..... اب بات کرنا مجھ سے۔“ الوینہ روٹھ کر چل دی۔  
اسے شعیب بھائی کے نام سے ویسے ہی چڑھتی تھی۔

”تم بھی ساتھ چلونا اکیلے وہاں دل نہیں لگے گا۔ آشی نے پیچھے سے ہانک لگائی الوینہ کے جانے کے بعد آشی نے ہاتھ بڑھا کر ستار کو قریب کیا۔ تاروں کو انگلیوں سے چھوا اور عجیب بے ہنگم سی آواز آئی۔

”تو تاریخ مچ ٹوٹ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا اور گھاس پر لیٹ کر شروع کی تاریخوں کے مدہم سے چاند پر نظریں جمادیں۔ اگر اس وقت کوئی وہاں ہوتا تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا۔

الوینہ کے والد واپڈا کے ڈائریکٹر کے عہدے سے دو تین سال پہلے ہی ریٹائر ہوئے تھے۔

کم بچے خوشحال گھرانے کے تحت ابھی تک تو زندگی خوشحال ہی گزری تھی۔ لیکن ساری عمر دیانت داری کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس لیے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی مسئلے کھڑے ہو گئے۔

بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں نمٹاتے شادی کو



ضروریات اپنی ٹیوشنز سے پوری کرتا تھا۔ احسن صاحب بھی اس معاملے میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتے تھے ایک تو عالیشان کی سیلف فنانسنگ میڈیکل کی تعلیم کی وجہ سے ان پر کافی بوجھ تھا۔ پھر وہ اسے حتی الامکان خود مختیار رہنے دینا چاہتے تھے۔ وہ اس کی خود ارطیعت سے واقف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اسے کسی ایسی بات پر مجبور کریں جو اس کی فطرت کے خلاف ہو۔ اس نے تو اپنے ماموں کو یہ بھی معلوم ہونے نہیں دیا تھا کہ ڈاکٹر بن کر آرمی جوائن کرنا وہ واحد خواب تھا جو وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔

والدین کی محرومی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس خواب کو اپنی آنکھوں سے نوج پھینکا تھا حالانکہ وہ ایف ایس سی میڈیکل کے میرٹ پر آ گیا تھا۔ اس نے کسی کو بتائے بغیر فوج میں کمیشن کے لیے درخواست بھیجی۔ لیکن ٹائیٹل ہونے کی وجہ سے وہ آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ کلیر نہ کر سکا۔ اب بی ایس سی کے بعد اس نے پھر کوشش کی اور کامیاب ہو گیا۔

احسن صاحب اپنی بیگم کے مزاج سے واقف تھے جو آشی کو بادل نخواستہ برداشت کرتی تھیں آشی کو بھی اس بات کا ادراک تھا اور وہ اپنے حوالے سے اپنے شفیق ماموں کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ احسن صاحب کو اپنا یہ بظاہر کھلنڈرا، ہنسوز لیکن انتہائی خود ار حساس اور ذمہ دار بھانجہ بے حد عزیز تھا اور دل کے کئی گوشے میں یہ تمنا چھپی ہوئی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی اور پیاری بہن کے ہونہار بیٹے کو اپنا داماد بنا سکیں، لیکن فی الحال وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رازیہ بیگم الوینہ کے لیے بہت اونچے خواب دیکھ رہی ہیں اپنے محدود وسائل کی وجہ سے وہ آشی کو

لیے ایک بہت خوشحال اور پر تعیش زندگی کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ ان کی بڑی بہن کے میاں بزنس مین تھے پہلے وہ سعودی عرب میں رہے پھر پاکستان آ کر کاروبار شروع کیا اور خوب ترقی کی قابل بیٹے کی مدد سے تقریباً پورے پاکستان میں کاروبار پھیلا چکے تھے اور اب کاروباری ضروریات کے تحت لاہور میں ایک اور شاخ کھولنا چاہتے تھے۔ جب سے انہوں نے سنا تھا کہ ان کا ہونہار بھانجہ لاہور آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سہرے مستقبل کے خواب بننا شروع کر دیے تھے۔

عالی بھیا جن کا پورا نام عالیشان تھا۔ ایم بی بی ایس کے فائنل ایئر میں تھے۔ ایک تو وہ ویسے ہی الوینہ سے پانچ چھ سال بڑے تھے، پھر انہیں بزرگ بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔

پڑھائی کی وجہ سے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں الوینہ کی اپنے سے تین سال بڑے آشی سے بہت جلد دوستی ہو گئی لیکن لڑائی بھی بہت ہوتی تھی۔

آشی بظاہر کھلنڈرا اور لاہالی تھا۔ کھیلوں میں ہمیشہ اول آتا لیکن پڑھائی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ دیکھنے میں کھلنڈرا اور لاہور واہ ہونے کے باوجود شاید والدین کا سایہ سر پر نہ رہنے کی وجہ سے اور کچھ رازیہ بیگم کے سرد اور خشک رویے کی وجہ سے بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ اسے شدت سے احساس تھا کہ وہ اپنے ماموں کے معاشی مسائل میں اضافے کا باعث ہے۔ اسی لیے وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔

احسن صاحب کو یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے کوئی فرمائش کی ہو۔ کوئی چیز مل گئی تو خوش ورنہ نہ تھی۔ اور میٹرک کے بعد تو وہ اپنی بیشتر



آشی کو جہاز کی آمد سے تین گھنٹے پہلے ایئر پورٹ روانہ کر دیا گیا تھا۔ عالی بھیا نے تو پڑھائی کی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر لی تھی۔ اس وقت الوینہ کو عالی بھیا پر بے تحاشا رشک آیا تھا اور اپنی نالائقی پر غصہ بھی کہ اس نے اگر سولہ سال کی بجائے چودہ سال کی عمر میں میٹرک کر لیا ہوتا تو آج وہ بھی میڈیکل کی طالبہ ہوتی اور عالی بھیا کی طرح پڑھائی کا بہانہ بنا کر امی سے نادر شاہی احکامات سے بچ سکتی جو صبح سے بارش کی طرح بلکہ اولوں کی طرح اس پر تو اتر سے برس رہے تھے۔

بہر حال امی کی ہدایات کے مطابق نو بجے یعنی شعیب بھائی کی متوقع آمد سے دو گھنٹے قبل انتہائی پر تکلف ناشتہ اور بے شمار ڈشز پر مشتمل کھانا تیار ہو چکا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ لاڈلا بھانجہ آتے ہی ناشتہ کرے گا یا کھانا، لہذا دونوں طرح کی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کا پورا انتظام ہو چکا تھا۔ گیٹ سے لے کر باورچی خانے تک پورا گھر جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ اور اب امی الوینہ کے سر پر کھڑی تھیں کہ وہ غسل کر کے جلد از جلد تیار ہو جائے۔

”امی مجھے تیار ہو کر کیا کرنا ہے شعیب بھائی کھانا کھا کر یا تو آرام کریں گے یا آپ لوگوں سے باتیں بھلا میں وہاں بیچ پر بیٹھ کر کیا کروں گی۔“ الوینہ نے لا پرواہی سے کہا اور رازیہ بیگم نے سر پیٹ لیا۔

اب وہ اس بے عقل لڑکی کو کیسے سمجھاتیں کہ پچھلے پندرہ دنوں سے جو انہوں نے سارے گھر کو لگنی کا ناچ نچا رکھا ہے تو اس کا اصل معنی تو وہی ہے پہلے تو انہوں نے اسے کوئی وجہ بتائے بغیر چند صلواتیں سنائیں اور پھر عرق گلاب، ملائی، ایشن

ایسا تباہناک مستقبل نہیں دے سکتے تھے جو ان کی توقعات پر پورا اتر سکے۔ اور اب تو شعیب کو دیکھ کر یہ آرزو دل کے کسی گہرے گوشے میں جا چھپی تھی کہ بہر حال ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے زیادہ شاندار اور خوشحال کل کا متمنی ہوتا ہے۔

آج کل الوینہ کی شامت آئی ہوئی تھی۔ اور یہ شامت تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب رازیہ بیگم کو پتا چلا تھا کہ شعیب لاہور آنے والے ہیں۔ انہوں نے تقریباً سارے گھر کی ترتیب بدل ڈالی تھی اور زیادہ تر کام الوینہ کو ہی کرنا پڑا تھا ان کی خواہش تھی کہ شعیب کے سامنے الوینہ کے کمال خانہ داری کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر سکیں۔ امی سے زیادہ وہ آشی سے عاجز تھی جو اسے بات بے بات شعیب بھائی کے نام سے چھیڑتا تھا۔ حالانکہ اسے ان سے رتی بھر بھی دلچسپی نہیں تھی۔

ایک تو اس نے انہیں دیکھا ہی کہاں تھا۔ وہ پہلے تعلیم اور پھر کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر رہے تھے دوسرے الوینہ کو فی الحال اپنی تعلیم اور اپنے مشاغل سے فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچے۔ اس کی دنیا تو بس گھر، کالج اور سہیلیوں تک محدود تھی۔ ایم اے کرنا اس کا خواب تھا۔ امی کی عائد کردہ پابندیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ اسے زیادہ سہیلیوں کے گھر جانے اور انہیں گھر بلانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے کالج میں سہیلیوں کے علاوہ اس کی دوستی بس آشی سے ہی تھی۔ اور یہ دوستی بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی تھی آشی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا اور وہ اس سے لڑتی تھی لیکن زیادہ دیر ناراض بھی نہیں رہ سکتی تھی۔

آخر کار وہ دن آ گیا جب شعیب بھائی کو لاہور پہنچنا تھا رازیہ بیگم کی گھبراہٹیں عروج پر تھیں



تمہیں کم از کم اس وقت ڈرائنگ روم میں ہونا چاہیے تھا بے وقوف لڑکی۔“  
آشی نے الوینہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گھسیٹ لیا۔

”آشی کے بچے چھوڑو میرا ہاتھ۔ ہائے اللہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔“

”چلاتی رہو۔ مگر ڈرائنگ روم کے پاس جا کر خاموش ہو جانا۔ ورنہ تمہاری یہ دل دوز چھینیں سن کر شعیب بھائی واپس روانہ ہو جائیں گے انہیں جہاز کے پہیوں سے ہی کیوں نہ لپٹ جانا پڑے۔“

اور الوینہ کو واقعی چپ ہونا پڑا کیونکہ سامنے ہی امی غیظ و غضب کا نمونہ بنی کھڑی تھیں۔

اس کی ایک وجہ تو اس کا غائب ہو جانا تھا جبکہ اسے شعیب کے استقبال کے لیے کم از کم ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہونا چاہیے تھا۔ دوسری وجہ کاٹن کا وہ سادا سا سوٹ تھا۔ حالانکہ وہ نارنجی سوٹ انہوں نے خاص طور سے آج کے لیے بنوایا تھا۔ الوینہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تیزی سے ڈرائنگ تک کا فاصلہ طے کیا اور امی کے کچھ کہنے سے پہلے اندر داخل ہو گئی۔

”السلام علیکم۔“ اس کی مترم نہ آواز سن کر شعیب بھائی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور احتراماً کھڑے ہو گئے۔ رسماً حال چال پوچھا اور دوبارہ عالی بھیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔

مگر رازیہ بیگم کی تجربہ کار اور باریک بین نظروں نے ان چند لمحوں میں ان کی آنکھوں میں الوینہ کے لیے پسندیدگی کی جھلک دیکھ لی تھی۔

صبح صادق کا وقت تھا۔ ستارے آنکھیں جھپک جھپک کر اپنی مدہم ہوتی ہوئی روشنی میں اپنی رخصتی کا اعلان کر رہے تھے۔ آشی اپنے جانے کی

اور نہ جانے کیا کیا دے کر اسے واش روم کی طرف دھکیل دیا۔ وہاں تک تو الوینہ انتہائی سعادت مندی سے پہنچ گئی لیکن دروازہ بند کرتے ہی اس نے امی کے تمام اہتمام کو ڈسٹ بن کی نذر کیا اور پھر سیدھے سادے طریقے سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔

امی کے دیے ہوئے شوخ نارنجی جارجٹ کے سوٹ کے بجائے پنک کڑھائی والا سفید کاٹن کا سوٹ پہنا، آنکھوں میں ہلکا ہلکا جل لگایا اور گیلے گھنے بالوں کو پشت پر پھیلا کر صوفے پر دراز ہو گئی اور اطمینان سے وہ کتاب پڑھنے لگی جو امی کی لائی ہوئی ’قیامت‘ سے پہلے پڑھنا شروع کی تھی۔ اور پھر پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ابھی وہ چند سطور ہی پڑھ پائی تھی کہ آشی زلزلے کی صورت میں کمرے میں وارد ہوا۔ الوینہ نے اسے کوئی اہمیت نہ دی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ قیامت سے نمٹ چکی تھی اور زلزلہ ہر صورت قیامت سے زیادہ ہولناک نہیں ہو سکتا۔ ارے وینی کی بچی تم یہاں بیٹھی ہو۔ میں نے تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ لیا۔“ الوینہ نے شان بے نیازی سے اس کی طرف دیکھا۔

”مثلاً کہاں..... کہاں مجھے تمہارے خیال میں اس وقت اپنے کمرے کے سوا اور کہاں ہونا چاہیے تھا؟“ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔

”میرے خیال کے مطابق تمہیں اس وقت، جہنم میں ہونا چاہیے تھا۔ آشی دانت پیس کر بولا۔  
”لیکن وہاں تو تمہارے بغیر نہیں جاسکتی۔“ الوینہ نے گویا اپنا بدلہ لے لیا۔

”چلو اٹھو ممانی جان بلا رہی ہیں۔ شعیب بھائی آگئے ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو۔“



زرد چاند کو دکھنے لگا۔

”وینی تم میری عادتیں خراب کر دو گی۔ تم تو پیادیں سدھا جاؤ گی اور میں بس تمہیں یاد کرتا رہ جاؤں گا۔ آشی کے ہونٹوں سے بے اختیار جملہ نکل گیا۔

”اتنی دور کی باتیں کیوں سوچتے ہو آشی۔ یہ جو پل ہے یہ تو ہمارا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ الوینہ نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔

”بڑی عقلمند ہو گئی ہو۔“ آشی نے طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔

”آخر میری اتنے دنوں کی محبت کا اثر تم پر ہو گی گیا۔ ویسے خاصی دیر کر دی تم نے۔ خیر دیر آید درست آید۔

آشی نے چائے کی خالی پیالی ٹرے میں رکھی اور اپنا سفری بیگ کاندھے میں ڈال کر دروازے طرف چل پڑا۔ اچھا وینی خدا حافظ خوش رہنا اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔“ الوینہ اس کے پیچھے پیچھے برآمدے تک چلی آئی۔ آشی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ گم صم سی کھڑی تھی۔ آشی نے نرمی سے الوینہ کے ہاتھ کو چھوا۔ اور تیز تیز قدموں سے گیٹ سے نکل گیا۔

کچھ دور جا کر اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو رگڑا اور دو آنسو آنکھوں سے نکل کر مٹی میں جذب ہو گئے۔

آشی کو کاکول گئے کئی مہینے ہو گئے تھے اس کی عدم موجودگی میں الوینہ ایک دم اداس ہو جاتی تھی اور یہ بات تھی کہ آشی کی موجودگی میں صلح چند منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ لڑائی بھی دوستی کی طرح بے سدا رہتی تھی۔ بس اسے آشی کی عادت ہو گئی تھی۔ اس کے بغیر گھرا جیسی سا

تیار یوں میں مصروف تھا سے چھٹیوں کے بعد کاکول اکیڈمی کے لیے دوبارہ روانہ ہونا تھا۔ اس نے رات کو کھانے کی میز پر ماموں اور ممانی جان سے جانے کی اجازت لے لی تھی۔ نماز کے بعد وہ تیار ہو کر صوفے پر بیٹھا جو توتوں کے تسمے باندھ رہا تھا کہ الوینہ چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ آشی اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ساتھ ہی اس کی رگ شرارت پھڑک اٹھی۔ ”وینی تم.....!“ اتنی صبح صبح چائے بنا ڈالی۔ اچھا اچھا پریکٹس کر رہی ہو۔ مگر شعیب بھائی تو دس بجے سے پہلے نہیں اٹھتے۔ تم بلا وجہ.....“

اسے فوراً رک جانا پڑا۔ کیونکہ الوینہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ جو نہ جانے کس خیال سے بھر آئے تھے۔ آشی بوکھلا کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ الوینہ نے منہ پھیر کر دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور آگے بڑھ کر ٹرے میز پر رکھ دی۔

”تم نے ناحق تکلیف کی.....“ وہ اتنا ہی کہہ سکا۔

”بڑے پر تکلف بن رہے ہو۔ زپادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں جیسے میں جانتی نہیں کہ نہ تو تم ریلوے اسٹیشنوں کی چائے پسند کرتے ہو اور نہ ہی بازار کا کھانا۔“ الوینہ نے پلیٹ میں رکھے سینڈوچز اس کی طرف بڑھائے اور پیالی میں چائے بنانے لگی۔ آشی نے اس کی طرف دیکھا۔

سیاہ دوپٹے کے حلقے میں اس کا گلابی چہرہ دمک رہا تھا آنکھوں میں نیند کا خمار تھا اور دراز پلکوں کا سایہ گالوں پر پڑ رہا تھا۔ الوینہ نے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھائی تو آشی اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کھڑکی میں ڈوبتے ہوئے



ایک بار پھر خالص فوجی انداز میں ایڑیاں بجائیں وہ فوجی یونی فارم میں اتنا ہنڈسم اور شاندار لگ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچانک آشی کی نظر اس کی انگلی پر پڑی۔ اس کی انگلی سے کافی تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔

”ارے تمہارا ہاتھ کیسے زخمی ہو گیا۔ یار بہت ہی بے وقوف لڑکی ہو۔ کس نے کہا تھا زمین سے شیشہ اٹھانے کو۔ چلو اٹھو فوراً میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خوشی اس ہی نہیں آتی۔“ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔

”ارے آشی کچھ بھی نہیں ہوا ذرا سا شیشہ لگ گیا ہے۔ تم بس کس کر پٹی باندھ دو ابھی خون بند ہو جائے گا۔ آشی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔

”کیا بات ہے بڑی بہادر ہو گئی ہو۔“ آشی جانتا تھا کہ وہ کتنی ڈر پوک تھی۔ انجیکشن سے اس کی جان نکلتی تھی۔ ذرا سی چوٹ لگ جائے تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی اور آشی اس کا بے تحاشہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ لیکن آشی کی اپنے لیے پریشانی دکھ کر وہ ساری تکلیف بھول گئی تھی آشی نے دو الگا الگا اس کی انگلی پر کس کر پٹی باندھ دی۔

”جی جناب تو اب فرمائیے۔ آپ کی انگشت ناتواں شیشے سے کس خوشی میں بزد آزما ہوئی تھی.....؟“

آشی کی اردو خطرناک حد تک اچھی تھی اور جب آشی محض اسے تنگ کرنے کے لیے مشکل مشکل لفظ بولتا تو اسے آشی پر بے حد غصہ آتا تھا لیکن اس وقت وہ یہ تفصیل جملہ کڑوے گھونٹ کی طرح پی گئی۔

وہ تمہاری تصویر کا شیشہ۔“ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ آشی کہیں پھر نہ خفا ہو جائے لیکن نہ

لگتا تھا۔ کئی دن چھائی اداسی اور بوریٹ دور کرنے کا بس یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ گھر کی تفصیلی صفائی شروع کر دے۔ وہ آخر میں آشی کے کمرے میں داخل ہوئی۔

آشی کی عادت تھی کہ وہ نوکرانی کو کمرے کی صفائی کی اجازت کم ہی دیتا تھا وہ اپنا ہر کام خود کرنے کا عادی تھا۔ وہ تو الوینہ کو بھی اپنا کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ ہاں اس کی غیر موجودگی میں الوینہ کا کمرہ باقاعدگی سے صاف کر دیا کرتی تھی۔ کمرہ صاف کرنے کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کے بڑے سے دوپٹہ کا آنچل سائیڈ ٹیبل پر رکھی آشی کی تصویر سے ٹکرایا۔ تصویر آنچل سے الجھ کر گری اور شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔

تصویر الوینہ نے ہی آشی کی گزشتہ سال گرہ پر دی تھی جو اس نے اس کی بے خبری میں خود ہی پھینچی تھی۔ الوینہ کا دل عجیب وسوسوں سے بھر گیا۔ امی کہتی تھیں کہ شیشے کا ٹوٹنا اچھا شگون نہیں ہوتا۔ تمام حالات میں شاید وہ پروا نہ کرتی لیکن آشی کی اتنی طویل غیر حاضری نے اسے پہلے ہی اداس کر دیا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر نیچے بیٹھ کر شیشے کی کرچیاں اٹھانے لگی۔ اچانک دھڑ سے دروازہ کھلا توجہ ہٹ جانے کی وجہ سے ایک کرچی اس کے ہاتھ میں چبھ گئی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آشی نے اسے دیکھتے ہی زوردار سیلوٹ مارا۔

”اوہو بڑے اکڑ رہے ہو۔ کیا بات ہے.....؟“ الوینہ نے اپنی خوشی چھپا کر کہا۔ وہ اتنا اچانک اپنے سامنے پا کر بے حد مسرور ہو گئی تھی۔

”سیکنڈ لیفٹیننٹ اشعر کامران سر۔ آشی نے



جانے کیوں وہ اداس ہو گیا۔

”اوہو..... میری تصویر کا شیشہ ٹوٹ گیا.....!“ خیر کوئی مضائقہ نہیں شاید اس بات کی علامت ہے کہ مجھے اب یہاں رہنا ہی نہیں۔“

آخری جملہ جیسے اس نے اپنے آپ سے کہا۔  
”آشی..... اب تو تم پاس آؤٹ ہو گئے ہو۔ تمہاری پوسٹنگ کہاں ہوگی.....؟“ اچانک الوینہ کو خیال آیا۔

ہاں وہی مجھے تین دن بعد کھاریاں جانا ہے۔ اس خیال سے کہ آشی پھر چلا جائے گا اس کا دل بیٹھ سا گیا۔

”تم پھر چلے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی.....؟“

”تم شکرانے کے نفل ادا کرنا کہ سر سے بلا ٹلی اور کیا۔“

آشی نے اس کے سر پر چپت مار کر کہا۔  
”ہاں یہ تو ہے.....“ الوینہ نے سر ہلا کر کہا۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روک رہی تھی۔ پتا تھا کہ اگر آشی نے اس کے آنسو دیکھ لیے تو اتنا مذاق اڑائے گا کہ وہ یاد کرے۔

”مگر مجھے اس بلا کے بغیر جینے کی عادت نہیں ہے۔ میں اس بلا کے بغیر رہ نہیں سکتی نہیں رہ سکتی۔“

الوینہ کے ہاتھ سے اچانک ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آشی ایک بار پھر بوکھلا اٹھا۔

”ارے..... ارے بدھو کہیں کی۔ بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے ارے ارے اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ۔ اگر ممائی جان نے دیکھ لیا تو دونوں کی شامت آ جائے گی۔ کیا بتاؤ گی انہیں کس بات پر رو رہی تھیں.....؟ آشی نے

مدہو اس ہو کر الوینہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔  
الوینہ کا رونا اچانک رک گیا۔ واقعی کتنی عجیب و غریب صورت حال ہوتی اگر امی دیکھ لیتیں تو۔ وہ یہ سوچ کر کانپ گئی لیکن آشی کا یہ جملہ بہت دنوں تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ ”مجھے تو کوئی خوشی راس ہی نہیں ہے۔“ کیا واقعی وہ آشی کے لیے اتنی اہم تھی کہ اس کی ذرا سی تکلیف آشی کی خوشی برباد کر دیتی۔ مگر کیا کبھی وہ دن آئے گا جب وہ اس کے سامنے سنجیدگی سے اس بات کا اعتراف کرے۔ شاید کبھی نہیں۔

تھوڑی دیر بعد عالی بھیا آشی کو سینے سے لگائے کھڑے تھے اور پاس آؤٹ کی تقریب پر پہنچ نہ سکنے کی معذرت کر رہے تھے۔ ماموں جان آنسو بھری آنکھیں لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ آج تو ممائی جان نے بھی سرسری طور پر ہی سہی مگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کامیابی کی دعا دی تھی۔ آشی کو زندگی میں پہلی بار اتنی خوشی ملی تھی لیکن یہ تو وہ اپنے رب سے ہی کہہ سکتا تھا کہ پاس آؤٹ کی تقریب میں الوینہ کے نہ ہونے سے اس کی مسرت آدمی رہ گئی تھی۔

الوینہ اپنے کمرے میں بیٹھے آشی کی تصویر کا فریم بدل رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر اگلے ہی لمحے شعیب بھائی اندر چلے آئے شعیب بھائی کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر لاہور آنا جانا لگا رہتا تھا آج کل بھی وہ آئے ہوئے تھے الوینہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر میں کیا چھڑی پک رہی تھی۔ اس بات کا اسے کچھ کچھ اندازہ تو تھا مگر شعیب نے کبھی اشارتا بھی اس خیال کی تائید نہیں کی تھی راز یہ بیگم کے ذہن میں تھا۔ اس لیے اب شعیب بھائی سے کوئی پیر



نہیں کرتی تھی مبادا انہیں ناگوار گزر جائے۔ لیکن آشی کے ساتھ اس کا رویہ سرد اور غیر جانبدارانہ تھا۔ اب آشی کے جانے کے بعد وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔

وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی کہ شعیب بھائی خود ہی بات کا آغاز کریں گے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی سے اٹھ کر چلے جائیں تاکہ وہ آزادی سے سانس تولے سکے۔ کیا خبر امی کو یہ بات بری لگ جائے کہ ان کے سامنے سانس کیوں زور سے لیں۔ وہ ان کی امی کے بہت زیادہ چہیتے ہونے پر شاک تھی۔ آخر شعیب بھائی نے خود ہی بات شروع کی۔

”آپ کو یہ کام کرتے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی ایک تصویر فریم کر دانی ہے۔ مگر فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہاں یوں کہہ لیجئے کہ مجھے ایسے کاموں کا تجربہ نہیں ہے۔ دراصل خالہ جان کہہ رہی تھیں کہ انہیں اپنے کمرے میں میری تصویر لگانی ہے۔ تصویر تو میرے پاس ہے مگر فریم نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے حکم کی تکمیل کیسے کروں۔“

وہ الجھے الجھے بول رہے تھے۔ وہ جل بھن کے سوچ رہی تھی۔ ”میری تصویر تو آج تک نہیں لگائی..... انہہ۔“ لیکن اسے شعیب بھائی کی پریشان سی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی کوئی بھید نہیں کہ امی نے یہ فرمائش اپنے مخصوص ہلڑانہ انداز میں کی ہو۔

”تمہاری تصویر جلد از جلد میرے کمرے میں لگ جانی چاہیے۔ ورنہ۔“

اسے اپنی اہمانہ سوچ پر پھر ہنسی آ گئی۔ مگر وہ ان کے سامنے اپنی بے وقوفانہ بات پر ہنس بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر شعیب بھائی کو جلد از جلد فارغ

نہیں رہا تھا۔ اس کے خیال میں امی کا یہ خیال ایک طرف ہی تھا۔ ویسے بھی وہ بہت ہی خاموش اور سنجیدہ قسم کی شخصیت تھے ان سے بے تکلف ہونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ گھر میں بھی بہت کم رہتے تھے۔ اس وقت انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی۔

’الوینہ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا.....؟‘ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولے۔  
”نہ..... نہیں..... شعیب بھائی آپ آپ پلیز بیٹھیے نا۔“ اس نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر کہا۔

شکریہ آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ میں تو بس یونہی چلا آیا تھا۔ دراصل گھر میں اس وقت کوئی ہے ہی نہیں میں نے سوچا آپ سے ہی تھوڑی گپ شپ ہو جائے۔“  
انہوں نے سرسری انداز میں کہا۔

”جی ضرور میں کوئی خاص کام نہیں کر رہی تھی۔ بس یونہی۔“

الوینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا بات کرے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ امی کے لاڈلے بھانجے کے سامنے کوئی گڑبڑ بات نکل گئی تو ان کے ہاتھوں اس کی وہ درگت بنے گی کہ یاد رہے اور اسے تو اتنے سنجیدہ لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا آتی تھی۔ اسی لیے اس کی عالی بھیا سے بھی زیادہ دوستی نہیں تھی اور شعیب بھائی تو عالی بھیا سے بھی عمر میں دو تین سال بڑے ہی تھے۔ گھر میں اگر وہ کسی سے بے جھجک بات کر لیتی تھی تو وہ آشی کے علاوہ ابوتھے۔ مگر امی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو باپ سے زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے ادبی کہلاتی ہے۔ وہ ان کے سامنے آشی سے بھی زیادہ بات



سرپیٹ کر رہ گئی۔ یعنی امی کو پکا یقین تھا کہ اس نے ضرور کوئی حماقت کی ہوگی۔

ڈوبتے سورج کی سرخیاں آتی سردیوں کی اس شام کو اداس مگر اور خوبصورت بنا رہی تھیں۔ الوینہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی یادلوں پر نظریں جمائے نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ گود میں دھرے ہاتھوں پر پانی کے قطرے گرے تو اسے معلوم ہوا وہ رورہی تھی وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ آنسو دوپٹے میں جذب کر کے وہ اس ڈر سے اٹھنے ہی والی تھی کہ امی اسے ڈھونڈ نہ رہی ہوں۔“

اچانک اس کے سر پر ہلکی سی چپت پڑی۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور آشی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کتنی باہر تصور میں یونہی دیکھا تھا وہ آج بھی اسے اپنا تصور سمجھ کر ہلکی باندھے دیکھتی رہی۔ دوسری چپت پر وہ ہوش میں آگئی اور اس کے منہ سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکل گئی۔

”خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ وینی۔ گھر والے پریشان ہو جائیں گے تمہاری یہ زوردار چیخ سن کر۔“

آشی بوکھلا اٹھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ الوینہ اسے دیکھ کر یوں خوشی سے بے حال ہو جائے گی۔ دل میں خوشی کا ایک عجیب سا احساس جاگا پھر ساتھ ہی تلخ حقیقت یاد آنے پر دل بجھ کر رہ گیا۔ ”مجھے تو خوش ہونے کا حق نہیں ہے پروردگار۔ تو ہی بتا کہ مجھے گلہ کرنے کا حق ہے کہ نہیں تو ہی میرا واحد رازدان ہے میرے مالک۔“ اس نے دل ہی دل میں کہا لیکن چہرے سے جذبات کو بالکل بھی آشکار نہ ہونے دیا۔

الوینہ اس کے شانے پر بیچ دیکھ کر سمجھ گئی تھی

کرنے کی ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔  
”شعیب بھائی آپ اپنی تصویر مجھے دے دیں۔ میرے پاس ایک فریم ہے اگر آپ کی تصویر اس میں فٹ آ جائے تو.....“

شعیب بھائی کی پریشانی فوراً ہی دور ہو گئی۔  
”بے حد شکر یہ الوینہ۔ آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی۔ درحقیقت فرصت ہی نہیں بازار جانے کی یہ بھی ڈر ہے کہ خالہ جان ناراض نہ ہو جائیں کہ ان کی اتنی سی فرمائش پوری نہیں کر سکا۔“

الوینہ کو اپنا اندازہ درست ہونے پر ایک بار پھر ہنسی آگئی اور خوشی بھی ہوئی کہ اتنے لاڈلے ہونے کے باوجود وہ اپنی ڈکٹیٹر خالہ سے خوف زدہ تھے۔

تھوڑی ہی دیر میں شعیب بھائی نے ملازمہ کے ہاتھ تصویر بھجوا دی۔ بے خیالی میں الوینہ دونوں کا موازنہ کرنے لگی۔ دونوں ہی پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ شعیب بھائی تصویر میں بھی سنجیدہ اور پر وقار نظر آ رہے تھے جبکہ آشی کے ہونٹوں پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ شعیب بھائی تھری پیس سوٹ میں تھے جبکہ آشی جینز اور ٹی شرٹ میں ہونا اس کے لابیالی پن کو ظاہر کر رہا تھا۔ جب الوینہ نے امی کو بتایا کہ شعیب بھائی اس کے کمرے میں آئے تھے تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔

”تم..... تم نے کوئی اہمانہ بات تو نہیں کی ان سے۔“ انہوں نے چھوٹے ہی سوال کیا۔  
”ہائے اللہ امی..... میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں۔“ اس نے برامان کر کہا۔

”ہاں..... ہاں کتنی عقلمند ہیں آپ مجھے اچھی طرح پتا ہے۔ خیر آئندہ خیال رکھنا۔“ اور الوینہ



جانے سے انکار کر دے۔۔ پھر امی کے سامنے انکار کی تاب تھی نہ مجال۔ ابھی تک باقاعدہ رشتے کی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات دونوں بہنوں کے درمیان ہی تھی کہ الوینہ اور شعیب کو ملنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے چاہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔

الوینہ یوں بھی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ ہر سال خود ہی تو فریاد کیا کرتی تھی کہ اسے برف باری دیکھنے مری جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اب اس واویلے کی شنوائی ہوئی تھی تو دل خوش ہونے کے بجائے بچھ کر رہ گیا لیکن بحر حال جانا تو تھا۔

خزاں کا موسم اداس تھا بادل پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو آشی گھر آ کے سوچتا کہ چھٹی کے دن جلدی گزر جائیں گے وہ دل کے نہاں خانوں میں چھپے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلکان ہو جاتا کہ یہ چند دن الوینہ کے بغیر گزارنے مشکل ہیں تو پوری زندگی کیسے گزرے گی۔

اور یہ تو اسے ہی معلوم تھا کہ کیڈٹ شپ کے دوران P.M.A کی خاموش راتیں ہوں یا ٹریننگ کے کٹھن اور جان لیوا مرحلے۔ الوینہ کا خیال تو ایک پل کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوا تھا دن تو مصروفیات میں گزر جاتے تھے مگر کئی راتیں ایسی بھی آئی تھیں کہ آرام دہ کمرے کے خواب ناک ماحول میں ایک لمحے کو بھی نیند نہ آئی ہو اور وہ اس بے خوابی کی وجہ نہ جان سکا ہو۔

پھر جب آشی کے جانے میں ایک دن بچا تھا تو شیمہ آ گئی۔ وہ آشی اور الوینہ کی مشترکہ کزن تھی وہ میٹرک کی طالبہ تھی اور اس عمر کی لڑکیوں کی طرح شوخ، خوش باش اور بیحد باتونی لڑکی تھی۔

کہ وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ ہو گیا ہے۔ مری میں برف باری متوقع تھی۔ اسی دن شعیب کا اسلام آباد سے ٹیلی فون آ گیا وہ سب کو مری جانے کی دعوت دے رہے تھے۔ الوینہ کو تو ویسے ہی سیر پائے کا سوق تھا مگر امی سے اجازت نہیں ملتی تھی جب اسے آشی ایبٹ آباد، کاکول اور دوسرے پہاڑی مقامات کے بارے میں بتاتا تو بے اختیار اس کا دل چاہتا کہ کاش وہ لڑکا ہوتی اور فوج میں جاسکتی۔

اور اسے شادی مرگ ہوتے ہوتے بچا جب اسے پتہ چلا کہ امی نے اسے مری جانے کی اجازت دے دی ہے۔۔ اس سے بھی زیادہ چیرت اس بات کی تھی کہ عالی بھیا نے بھی مری جانے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیا تھا آج کل وہ ہاؤس جاب کے ساتھ ساتھ کسی اور امتحان کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ الوینہ کا خیال تھا کہ سب ہی مری جائیں گے مگر امی نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ مری کی کی شدید سردی کو برداشت نہیں کر سکیں گی اور ابو کو ان کا ساتھ دینا پڑا۔

الوینہ ان کے انکار پر بد مزہ تو ہوئی لیکن آشی کے انکار پر بالکل ہی آؤٹ ہو گئی پہلے اس نے شور مچا کر غصہ اور ناراضگی دکھا کر آشی کو رضامند کرنا چاہا۔ پھر سارے ہتکھنڈے بے کار دیکھ کر خیر شاہد پر اتر آئی مگر آشی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کا ایک ہی عذر تھا کہ اسے نئی پوسٹنگ سے پہلے چند دن کی چھٹی ملی ہے اور وہ دن ماموں اور ممانی بان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔

”چند دن کی تو چھٹی ملی ہے پھر نہ جانے کب ملے اور میں یہ دن گھر سے باہر گزار دوں۔ no way اس نے حتمی طور پر کہہ دیا۔ اب یہ بات الوینہ کی انا کے خلاف تھی کہ وہ آشی کی وجہ سے



جی نہیں آپ کو یہ سینڈویچ بھی کھانے ہوں گے کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار سینڈویچ بنائے ہیں اس کے بعد آپ سردرد کی گولی کھائیں گے اور پھر میں آپ کا سر اس وقت تک دبائی رہوں گی جب تک آپ آرام سے سو نہ جائیں۔“

”یا اللہ!“ آشی زور سے کراہا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔

”مجھے جلدی نیند آ جائے تاکہ اس خوبصورت بلا سے نجات مل جائے۔“ شیمانے اس بات کا بالکل بھی برا نہیں مانا۔ سینڈویچ آشی کے ہاتھ میں تھمایا اور چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کر آشی کے پاس آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ فی الحال وہاں سے نکلنے والی نہیں ہے۔ آشی نے عافیت اسی میں جانی کے چپ چاپ شیمانے کی بات ماننا چاہئے ورنہ اس کا وہاں ٹھہرے کا دورانیہ بڑھ بھی سکتا تھا۔ پھر جب شیمانے کی نرم گداز انگلیوں نے اس کی پیشانی کو چھوا تو اسے واقعی بہت سکون محسوس ہوا۔

اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن نیند کی دیوی پھر اس سے روٹھی ہوئی تھی وہ پونہی آنکھیں موندے پڑا رہا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ شیمانے دیر سے خاموش کیسے بیٹھی تھی گذشتہ ریکارڈ کے مطابق وہ تین سیکنڈ سے زیادہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔

”وینی آپا بہت خراب ہیں۔“ آخر شیمانے نے چپ نہ رہا گیا۔ مگر الوینہ کے بارے میں اس کا یہ انکشاف خاصہ سنسنی خیز تھا کیوں کہ عمر کے فرق کے باوجود ان دونوں کی دوستی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ اور شیمانے کی بھی صورت الوینہ کے خیال ایک لفظ بھی سنا پسند نہیں کرتی

کہاں تو آشی تنہائی اور خاموشی سے اکتایا ہوا تھا کہاں اب وہ کونے کھدرے میں تلاش کرتا پھرتا۔ جہاں تھوڑی دیر خاموشی نصیب ہو جائے۔ شیمانے کے پاس باتوں کا ایک خزانہ تھا جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا تھا اور آشی کو اپنی یہ معصوم، بے فکر اور برخلوص کزن بے حد پسند تھی۔

صبح اسے جہلم جانا تھا جہاں اس کی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ اور سر کا درد تھا کہ سر اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ سامان کی پیکنگ تو شیمانے کر دی تھی لیکن صبح تک اس کی طبیعت سنبھل جائے گی یہ امید نظر نہیں آرہی تھی ایسے میں اس کا دل چاہا کہ الوینہ آجائے جانے پھر کب اسے دیکھنا نصیب ہو مگر ہر دعا کب قبول ہوتی ہے۔

اچانک دروازہ کھلا اور شیمانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ آشی کے شکرے کے الفاظ کو اس نے قابل توجہ نہیں سمجھا اور جب آشی نے دل نہ چاہنے کی بنا پر چائے پینے سے انکار کیا تو اس نے زبردست ڈانٹ پلائی اور زبردستی اسے اٹھا کر چائے کی پیالی اور سینڈویچز اس کے سامنے رکھ دیے۔

شیمانے کی بچی تم بڑے بھائی کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہو رہی ہو۔

آشی نے غر کر کہنا چاہا لیکن یہ ناکام غراہٹ ایک کراہ میں تبدیل ہو گئی کیوں کہ زور سے بولنے کی وجہ سے سر میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔

”جب چھوٹی بہنیں بڑے بھائیوں سے زیادہ سمجھدار ہو جائیں تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔“

شیمانے بردباری سے کہا۔

”اچھا سمجھدار صاحبہ، اگر میں چائے زہر مار کر لوں تو آپ میرا پیچھا چھوڑنا گوارا کر لیں گی۔ آشی نے کراہ کر کہا۔



جس کی وجہ سے اس کا تنہائی کا احساس بہت کم ہو گیا تھا۔  
”سچ آشی بھیا!“ شیمہ ایک دم خوش ہو گئی۔  
”اور کیا یہی تو بات تھی اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں.....؟“

آشی نے پھر آنکھیں بند کر لیں بولنے سے درد اور بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر شیمہ چپکی بیٹھی رہی، لیکن مجبوری تھی وہ زیادہ دیر تر چپ نہیں رہ سکتی تھی زبان میں کھلبلی ہونے لگتی تھی اور دماغ بھی تو زبان کا ساتھ دیتا تھا۔

”آشی بھیا آپ یوں آنکھیں بند کیے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے ہیں جیسے کوئی پرستان کا شہزادہ ہو۔“  
”کوئی مکھن بازی نہیں چلے گی۔“ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر کہا۔ اب اسے نیند بھی محسوس ہو رہی تھی۔

”مہینے کی آخری تاریخیں ہیں حالات بہت زیادہ خراب جا رہے ہیں جیب میں فالٹو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔“  
”میں کوئی مکھن بازی نہیں کر رہی۔“ شیمہ نے پہلی بار برامان کر کہا۔

”اور مجھے آپ سے کوئی فرمائش بھی نہیں کرنی۔ حالانکہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آشی بھیا سے کہوں گی کہ مجھے ایک چھوٹا سا ویڈیو کیسٹ پلیسر دلوادیں پرانا والا خراب ہو گیا ہے۔ امی یا ابو سے کہوں گی تو ایک لمبی چوڑی تقریر سننے کو ملے گی۔“ کیا کرو گی۔“ وقت ضائع کرو گی وہی وقت پڑھائی میں لگاؤ۔ اگر میٹرک میں اچھے نمبر نہ آئے تو کسی کالج میں داخلہ نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں اب آپ سے ناراض ہو گئی ہوں۔“

تھی۔ وہ راز یہ بیگم سے بھی ڈرتی ورتی نہیں تھی۔ وہ اگر اس کے سامنے الوینہ کو ڈانٹیں تو وہ اچھے خاصے زوردار انداز میں احتجاج کر بیٹھتی آشی نے درد سے بوجھل آنکھیں کھول کر شیمہ کی طرف دیکھا۔

”سیجائے کی کوشش بلکہ ناکام کوشش کی تو آپ کافی دیر سے کر رہی ہیں لیکن یہ آپ کو یہ الہام کب سے ہونے لگا؟“  
”نہیں آشی بھیا میں بہت سنجیدہ ہوں۔“  
”یا الہی خیر۔“ آشی نے ایک بھر پھر زور سے کہا۔

”یہ دن بھی مجھے ہی دیکھنا تھا۔“ اس نے تقریباً روکے فریاد کی۔ لیکن کیا آپ بتا سکیں گی یہ حادثہ کیسے ہوا یعنی آپ اور سنجیدگی۔ الامان الحفیظ۔“

”کوئی حادثہ نہیں ہوا۔“ شیمہ غصے سے بولی۔  
”بس مجھے پتہ چل گیا ہے وینی آپا بہت بری ہیں۔“

”لیکن اس الہام کی جو آپ پر تازہ تازہ نازل ہوئی ہے کوئی توجہ ہوگی۔ بیٹھے بٹھائے وہ ایک ہی وقت ہی خراب اور بری کیسے ہو گئیں۔“  
”آپ اتنے دن بعد آئے تھے ار وہ سیر پائے کے لیے نکل گئیں.....؟“

”اگر تم محض اس وجہ سے انہیں ان قابل قدر خطا بات سے نواز رہی ہو تو بھئی یہ بات غلط ہے ان لوگوں نے تو مجھے بھی آفر کی تھی مگر میں خود ہی نہیں گیا ان کے ساتھ کیوں کہ مجھے الہام ہو گیا تھا کہ میری ننھی سی بہن بغیر بتائے لاہور آ رہی ہے۔ تو میں ان کے ساتھ کیسے جاسکتا تھا۔“

آشی نے پیار سے شیمہ کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی یہ کزن سگی بہنوں کی طرح عزیز تھی اور



تھام لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ "اگلے دن دوپہر کو الوینہ اور عالی بھیا کے ساتھ گھر پہنچی تو آشی جاچکا تھا۔ اور شیما اپنی خالہ کے ہاں چلی گئی تھی۔ الوینہ کا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ پہلے تو وہ یونہی ادھر ادھر پھرتی رہی۔

پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے کرنے کو کوئی کام بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یونہی آشی کے کمرے کے پاس سے گزری تو اسے خیال آیا کہ آشی ہب عادت اپنا کمرہ بکھرا ہوا چھوڑ کر گیا ہوگا چلو اسے ہی ٹھیک کر لیا جائے۔

وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ نسبتاً کم بے ترتیب تھا۔ صرف رائیٹنگ ٹیبل کے پاس کچھ کاغذ مڑے تڑے پڑے تھے۔ اور میز پر آشی کی ڈائری پڑی تھی شاید وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یوں بھی وہ ایک عام سی یادداشت دائری تھی۔ اس نے بے خیالی میں یونہی اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تو ایک صفحے پر اس کی نظر چند اشعار پر پڑی۔ الوینہ کو بے حد حیرت ہوئی آشی اور شاعری اس نے حیران ہو کر سوچا اور پڑھنے لگی۔

مجھ کو تقدیر سے اب کوئی شکایت ہی نہیں اور مرے لب یہ ترے عم کی حکایت بھی نہیں تو نے کب مجھ سے کیا تھا کوئی اقرار وفا نہ کوئی وعدہ فروانہ کوئی حرف دعا ہیں تو یادوں سے بھی اب دل کو نہ بہلاؤں گا میں بہت دور، بہت دور چلا جاؤں گا (اشعر کا مران)

تو گویا یہ آشی کے اپنے شعر تھے۔ الوینہ نے اداس ہو کر ڈائری اپنی جگہ پر رکھ دی اس نے اکثر آشی کو یہ شعر گنگتاتے سنا تھا۔ لوٹ کر تیری محفل میں نہ آؤں گا کبھی

شکر اللہ کا۔" آشی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ "تو تم اب میرا پیچھا چھوڑ دو گی.....؟" "شیما بھی ایک چکنا گھڑا تھی۔ اس کے پاس ایک اور بہانہ بھی تھا۔ چچی جان نے مجھے الوینہ کا کمرہ دیا ہے مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے۔" آشی کو اس کی معصومیت پر پیاز آ گیا تو بیٹھی رہونا یہیں۔ میرا کب دل چاہتا ہے کہ میری پیاری بہن مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔

"جب نیند آنے لگی گی تو جا کر سو جاؤں گی۔" شیما پھر خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔

"آشی بھیا آپ کو وینی آپا اچھی لگتی ہیں نا۔" آخر شیما چپ نہ رہ سکی۔ "ہاں مجھے کیا تمہاری وینی آپا سب کو ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ ہیں ہی اتنی اچھی۔" آشی کم از کم شیما کے سامنے تو یہ کہہ سکتا تھا۔

"تو پھر وینی آپا کو میری بھابی بنا دیں۔ پھر میں بھی آپ سے فرمائش نہیں کروں گی۔" آشی کو جیسے کرنٹ لگ گیا وہ کسبل پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے میرے سر کا درد تمہارے سر میں منتقل ہو گیا ہے جب ہی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ بے وقوفوں کی طرح۔"

"واہ اس نے بے وقوفی کی کیا بات ہے آپ بھی اتنے ہینڈ سم ہیں اور وہ بھی اتنی پیاری ہیں۔ سچی بہت اچھی لگے گی آپ دونوں کی جوڑی۔ میں تو چچی جان سے بھی کہوں گی۔"

"تو مروائے گی مجھے۔" آشی نے سر پکڑ لیا۔ "خدا کے واسطے کسی اور کے سامنے مت کہنا۔ تجھے اللہ کی قسم کبھی مذاق میں بھی یہ بات نہ کہنا۔" آشی نے شیما کے سامنے ہاتھ جوڑ دینے شیما نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے آشی کے دونوں ہاتھ



بس چند لمحوں کے لیے پہلے والی الوینہ بنا دیتی لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سہم سی جاتی۔ کھانے کی میز پر اب بھی سب افراد جمع ہوئے تھے مگر ایسے جیسے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں یا پھر چند اجنبی لوگ پہلی بار مل بیٹھے ہوں۔

آشی کو PMA میں قیام کے دوران اور بھی بہت سے لطیفے یاد ہو گئے تھے وہ جب بھی ماحول سازگار بنانے کے لیے کوئی لطیفہ سنا تا تو سب لوگ یوں چونک کر اسے دیکھتے جیسے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا اس نے کسی اجنبی زبان میں لطیفہ سنا دیا ہو جو ان کے لیے نا قابل فہم ہے۔ آشی کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ چند دن قبل شعیب بھائی کے والدین بھی آ کر گئے تھے اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ کچھ صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن تصدیق کس سے کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ ایک دن ممائی جانے سے بلا بھیجا۔

یہ حادثہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا لہذا وہ جل جلالتوں کا ورد کرتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز تھیں اور آنکھوں پر بازو رکھے سو رہی تھیں یا کچھ سوچ رہی تھیں آشی کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے اندر جائے یا نہ جائے آ کر ہمت کر کے اس نے کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ”آ جاؤ۔“ ممائی جان کی اجازت پا کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ ممائی جان بدستور دراز رہیں۔ صرف آنکھوں پر سے بازو ہٹا لیا۔ اور آنکھ کے اشارے سے بیٹھنے کا حکم صادر کیا اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اسے سن کر آشی حیران و پریشان رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ بول بھی نہ پایا تھا کہ انہوں نے اپنا نادرا شاہی حکم جاری کیا۔

لیکن اسے یہ پتا تھا کہ وہ آشی کے اپنے شعر ہیں ورنہ وہ شعروں کے نیچے اپنا نام نہ لکھتا وہ یہ درد بھرے شعر پڑھ کر اور بھی رنجیدہ ہو گئی۔ بھلا آشی جیسے لاابالی اور زندہ دل انسان کا ایسے ممکن شعروں سے کیا سروکار۔ وہ تو اس کے شاعری کے ذوق کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ حالانکہ آشی کی اردو اس کی اپنی اردو سے بہت بہتر تھی لیکن وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آشی شاعری بھی کر سکتا ہے اور وہ ابھی اتنی ممکن اور یاس انگیز۔

آشی اگر گھر پر موجود ہوتا تو وہ اس کے سر پر سوار ہو جاتی اور اس سے پوچھ کر رہتی کہ ان شعروں کا محرک کون ہے، کہاں ہے اسے تو خوشی فہمی تھی کہ آشی کو جتنی اچھی طرح وہ جانتی ہے کوئی نہیں جانتا لیکن اس نے تو اس سے بھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا مگر پوچھتی تو کس سے وہ تو جا چکا تھا۔ دل اس کے یوں ملے بغیر جانے پر پہلے ہی اداس تھا ایک عجیب سا بوجھ دل پر آ پڑا تھا۔

حالانکہ بہار کی آمد آمد تھی مگر پھر ہر طرف عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی رہتی تھی۔ چھٹیوں میں آشی گھر آیا تو اسے گھر کی فضا میں اجنبی سی لگی۔ یوں تو سب موجود تھے، پھر بھی پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری رہتی تھی۔

ماموں جان حسب معمول اپنا زیادہ تر وقت اسٹڈی میں گزارتے اور عالی بھیا ہسپتال سے آ کر اپنے کمرے میں قید ہو جاتے ممائی جان زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں سر لیٹے بستر پر نظر آتیں۔ وہی الوینہ جس کی مترنم اور سریلی ہنسی ممائی جان کی قہر آلود نظروں کے باوجود گھر کی فضا میں موسیقی اور رنگینی بکھیر دیتی تھی اب بالکل کم صم تھی۔ اول تو وہ نظر ہی نہیں آئی تھی، سامنے آتی بھی تو سہمی سہمی ہوتی۔ آشی کی چھیڑ چھاڑ اسے



کو حتی الامکان ہر خوشی دینا چاہتے تھے جو رازیہ بیگم نے اس پر ممنوع کر دی تھی۔

یہاں الوینہ نے اپنی پسند سے پھول لگوائے تھے جہاں سفید گلاب کے پھولوں کی بہتات تھی۔ جھیل کے نزدیک سفید گلابوں کا کنج الوینہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔

اس وقت بھی وہ وہاں موجود تھی سفید لباس میں گھاس پر بیٹھی کتاب زانو پر رکھے وہ نہ جانے کس خیال میں گم تھی۔

”ہاؤ.....!“ آشی نے بالکل اس کا کان کے پاس منہ لا کر کہا تو وہ بری طرح سہم گئی۔ اور دوڑ لگانے ہی والی تھی کہ آشی کے تہقہبے نے اس کے قدم روک دیے۔

”تم کبھی انسانوں کی طرح نہیں آسکتے۔ بھوت کہیں کے۔“

ارے بھئی چڑیلوں کے پاس بھوت ہی آئیں گے۔“ آشی وہیں گھاس پر پر پاؤں پیار کر بیٹھ گیا اور الوینہ کو اٹھتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بیٹھا لیا۔

”سفید کپڑوں میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس لیے جھگڑا ختم۔“

آشی کے منہ سے تعریف کا جملہ نکل جائے ایسا شازونادر ہی ہوتا تھا۔ الوینہ کا موڈ ایک دم ٹھیک ہو گیا پھر اسے یوں بھی معلوم تھا کہ آشی جانے والا ہے۔

”اچھا جاؤ معاف کیا تم بھی کیا یاد رکھو گے۔ چلو میں اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں پھر باتیں کریں گے۔“

”اچھی سی چائے تم سے بننے سے رہی خیر لے آؤ۔“

آشی نے بھی اسے جانے دیا اس نے سوچا

”ہم نے زندگی میں پہلی بار تم کو اہم کام کو کہا ہے وہ بھی صرف اس لیے کہ الوینہ تم سے خاصی بے تکلف ہے اور ہم نے دونوں کے رشتے کے بہن بھائی ہونے کے ناطے اس پر کبھی کوئی اعتراض بھی نہیں کیا اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس قریبی رشتے کو نبھاؤ کرنے کو تو ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ پہلے تمہیں آزما لیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ تم ہماری توقعات پر کس حد تک پورا اترتے ہو بلکہ اترتے ہو بھی کہ نہیں۔“

یہ کہہ کر انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا گویا یہ اعلان تھا کہ اب آشی کو مزید رکنے کی ضرورت نہیں ہے اس پوری گفتگو کے دوران انہوں نے آشی کو ایک لفظ بھی بولنے کا موقعہ نہیں دیا تھا اس کے سلام کو بھی انہوں نے درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا۔

تمام کمروں میں تلاش کے بعد آخر آشی نے الوینہ کو پچھلے باغیچے میں جا لیا۔ سامنے والے لان میں لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے الوینہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حسن صاحب کا تو پتہ نہیں زار یہ بیگم کو اس بات بہت غرور تھا کہ ترقی اور فیشن پرستی کی اس بے ہودہ دوڑ میں انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے۔

الوینہ کو بے ایس سی کرنے کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اسے اب بھی اپنی سہیلیوں کے گھر جانے یا انہیں بلانے کی آزادی نہیں تھی۔ ان کے خیال کے مطابق نئی تہذیب نے نوجوان لڑکیوں کو شتر بے مہار بنا دیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اس روش سے دور رکھنا چاہتی تھیں۔ الوینہ کی فرمائش پر احسن صاحب نے پچھلے وسیع صحن کو باغ میں تبدیل کر دیا تھا جہاں ایک چھوٹی سی مصنوعی جھیل اور آبشار بھی تھی وہ اپنی پیاری بیٹی



بات کا آغاز ہونے ہی روٹھ کر چل دے گی۔ اور یہ بات تو اس پر اچھی طرح واضح تھی کہ اس گھر میں وہ رہا تھا تو صرف الوینہ اور ماموں جان کی وجہ سے۔ ورنہ ممائی جان کا رویہ تو اس جیسے خوداد شخص کے لیے بے حد ناقابل برداشت تھا۔ اور یہ بات اور ہے کہ وہ بیٹی سے بھی لیے دینے ہی رہتی تھیں۔ الوینہ کا سارا لاڈ پیار اور فرمائشیں باپ سے ہوتی تھیں اور وہ بھی راز یہ بیگم کی غیر موجودگی میں ورنہ ان کی ایک ہی نظر اسے سہا دیتی تھی۔

تھوڑی دیر بعد الوینہ ٹرے میں بھاپ اڑاتی خوشبودار چائے کے دوگ لے واپس آ گئی۔ اس نے ایک گگ آشی کو تھما دیا۔ اور اپنا گگ لے کر وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ آشی چائے پیتا رہا اور بات کا سراڈھوٹڈنے کی کوشش کرتا رہا۔

”چائے اچھی ہے اتفاق سے.....“ آشی کو اور کوئی بات نہ سوچھی تھی۔

”اچھی ہے اتفاق سے نہیں۔ میں ہمیشہ اچھی چائے بناتی ہوں۔“

”خیال ہے آپ کا ورنہ ہمارے حوصلے کی داد دینی چاہیے جو یہ چائے پی لیتے ہیں اور اف نہیں کرتے۔“

”کیا.....!“ الوینہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔  
”واپس کرو چائے۔ خبردار کو ایک گھونٹ پی اور لیا۔“

”اچھا بابا معاف کر دو میں تو مذاق کر رہا تھا۔“ آشی نے بات بڑھتی دیکھ کر سفید جھنڈی لہرائی۔ اسے معلوم تھا کہ جو بات الوینہ سے کرنی تھی اس کے بعد اسے اس کا وقت نہیں ملے گا کیونکہ اگلے ہی دن اسے جانا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد آشی نے بات کا آغاز کیا۔

کہ شاید اتنی دیر میں وہ اپنے آپ کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائے اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت بکھرا ہوا محسوس کر رہا تھا نہ جانے کیوں بچپن سے لے کر آج تک کا زمانہ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا ماموں جان کی مصروفیات اور تنگ مزاج بیوی کی خاطر آشی سے زیادہ لگاؤ ظاہر نہ کرنا۔ عالی بھیا کی بے نیازی اور ممائی جان کی سرد مہری کے درمیان اس کی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں گزری تھی۔ پھر اس کی انا اور خوداری ہر خوشی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ ایسے میں صرف الوینہ کا پر خلوص وجود تھا جس نے اس کی زندگی میں دل کشی پیدا کر دی تھی۔ اس کی ناراضگی اور غصہ بھی اسے اچھا لگتا تھا اس سے اس کی اپنائیت اور اس کے لیے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا تھا یہ خدشہ کہ یہ ساتھ زیادہ دن وہ قائم نہیں رہ سکتا اسے ہمیشہ ہی رہا تھا اور اب تو یہ خوف نظروں کے سامنے ہی تھا۔ اچانک اسے وہ دن یاد کر کے ہنسی آ گئی جب اس نے کہہ دیا تھا کہ تم صرف سفید یونی فارم میں اچھی لگتی ہو اور الوینہ اس ریمارک پر غضبناک ہو گئی تھی اور کہا بھی ایسے وقت پر تھا جب وہ بڑے اہتمام سے عنابی غرارہ سوٹ میں کسی شادی میں شرکت کے لیے تیار ہوئی تھی۔

وہی یہ حقیقت بھی کہ الوینہ پر سفید لباس بہت جتنا تھا۔ سفید کپڑوں میں اس کی شخصیت اور بھی پاکیزہ سی ہو جاتی تھی۔ مگر آشی نے یہ بات الوینہ سے سنجیدگی سے نہیں کہی تھی کیونکہ کہ سنجیدگی سے کوئی بات کرنے کے موقعہ ان دونوں کے درمیان بہت کم آتا تھا اچھی خاصی دوستی کے لمحات کا انجام اکثر زبردست جنگ ہوتا تھا۔ اور آج بھی الوینہ سے سنجیدہ گفتگو کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جانے وہ اس کی پوری بات سنے گی بھی یا



بارسوخ ہیں، لڑکیاں تو امیر شوہروں کی تمنا کرتی ہیں خواہ وہ بد صورت اور ادھیڑ عمر کے ہوں۔ وہ تو رئیس ہونے کے ساتھ ساتھ خوبو بھی ہیں اور عادت مزاج میں بھی کسی سے کم نہیں پھر تمہیں کیوں انکار ہے.....؟“

”کاش تم سمجھ سکتے کہ میرے انکار کی کیا وجہ ہے۔“ الوینہ نے دل میں سوچا مگر کہہ نہ سکی۔

”دیکھو وینی، ممانی جان نے بڑے مان سے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ میں تمہارے انکار کو اقرار میں بدل سکوں کیا تم مجھے ان کے سامنے شرمندہ کرواؤ گی.....؟“ ہاں کہہ دو الوینہ۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم اپنی خوشی کو اپنے ہاتھوں ٹھکرارہی ہو۔“ الوینہ نے نظریں اٹھا کر کاشی کی طرف دیکھا وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے آسمان پر آشیانوں کی طرف لوٹتے ہوئے تجھیوں کو دیکھ رہا تھا اس نے آج تک آشی کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔

”اچھا آشی جیسی تمہاری مرضی، جاؤ امی سے کہہ دو مجھے ان کی بات منظور ہے کسی کی زندگی کی ہر خوشی مٹا دو۔ تمہیں شرمندہ تو نہ ہونا پڑے۔“ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔

”نہیں الوینہ..... ایسا نہ کہو۔“ آشی نے بے چین ہو کر کہا۔

”خدا نہ کرے میں تمہاری خوشیاں برباد کروں اس پہلے مجھے موت آ جائے۔“

”آشی دوبارہ گھاس پر بیٹھ گیا۔ الوینہ نے بے اختیار اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آشی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

”تم دیکھنا تمہارا یہ فیصلہ نہ صرف پورے گھر بلکہ تمہارے لیے بھی بہت خوش کن ثابت ہوگا۔ انشاء اللہ۔“

”آشی..... کیا..... کیا تم بھی خوش ہو.....؟“

”وینی گھر میں جو آج کل ایک سکوت سا طاری ہے اس کی وجہ جانتی ہو.....؟“ آشی نے جائے کا آخری گھونٹ لے کر الوینہ کی طرف دیکھا۔

”ہاں..... جانتی ہوں۔“ الوینہ نے نظریں جھکا کر صاف گوئی سے اقرار کیا۔

”اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے حوالے سے ممانی جان کی یہ آخری اور سب سے بڑی خواہش ہے۔“

”ہاں یہ بھی جانتی ہوں۔“ الوینہ نے گھاس کا ایک تنکے توڑتے ہوئے کہا۔

”پھر بھی..... پھر بھی تم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا.....؟“

”ہاں آشی.....“ الوینہ نے نادام سی ہو کر سر جھکا لیا۔

”وجہ پوچھ سکتا ہوں.....“

”آشی یہ میری زندگی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا میرا حق بھی تو ہے۔“

”یہ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے۔“ آشی نے بھی پر زور دے کر کہا۔

”یعنی تم مانتی ہو کہ تمہارے والدین، تمہارے بڑے بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ پھر بھی تم نے یہ حق کلی طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا.....؟“

”آشی.....!“ الوینہ نے کچھ کہنا چاہا۔

”وینی پہلے میری بات غور سے سنو۔ ایک اچھی بیٹی ہونے کے ناتے تمہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ تمہارے والدین تمہارے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ شعیب بھائی میں کیا برائی ہے وہ ہر لحاظ سے ہزاروں میں ایک ہیں سب سے بڑھ کر وہ دولت مند اور



تھوڑی دیر بعد الوینہ نے عجیب انداز میں

لوٹ کر تیری محفل میں نہ آؤں گا کبھی۔

اچانک ہی الوینہ کا دل گھبرا اٹھا۔

”خدا کے واسطے آشی۔ یہ مصراع نہ دہراؤ  
میرا دل گھبراتا ہے۔“

”ارے بھئی میں یہ شعیب بھائی کے لیے  
نہیں کہہ رہا۔ وہ تو اب یہاں بار بار آئیں گے۔“  
”خدا کے واسطے آشی۔ کیا ہمارے درمیان  
اس موضوع کے سوا اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔“  
الوینہ کی آواز رندھ گئی۔ آشی اٹھ کر کھڑا  
ہو گیا۔

”اب تو لگتا ہے ہمارے درمیان گفتگو کا ہر  
موضوع ختم ہو گیا ہے آؤ اندر چلیں۔ سردی بڑھ  
گئی ہے مجھے صبح روانگی کے لیے تھوڑی سی تیاری  
بھی کرنی ہے۔“

”میں نے تمہاری ساری پیکنگ کر دی  
ہے۔“

”وہی مت خراب کرو میری عادتیں۔“ ورنہ  
تمہیں بھولنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔“

باوجود کوشش کہ آشی اپنی بھرائی ہوئی آواز  
پر قابو نہ پاسکا۔ الوینہ نے چونک کر اس کی طرف  
دیکھا لیکن اس وقت لواحقین کی آواز پر اٹھ کر اندر  
چلی گئی شاید کسی مہمان کے لیے چائے بھجوانی تھی۔  
اس کے جانے کے بعد آشی نے بڑی فراغ

دلی سے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت دے دی۔  
کہ اب وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔

آج آشی نے وہ قرض اتار دیا تھا جو اس خاندان  
کا اس پر تھا۔ روح تو ہلکی پھلکی ہو گئی تھی لیکن اس  
دل کا کیا کرتا جو ایک انجانے غم کے بوجھ تلے دبا  
جا رہا تھا۔

آشی کا خیال تو تھا کہ وہ الوینہ کی شادی میں  
نہیں پہنچ سکے گا۔ کیونکہ اسے ایک سرساز پر جانا تھا

”پتہ نہیں الوینہ۔“ آشی باوجود کوشش کے  
بھی ہاں نہ کہہ سکا۔

”مجھے زندگی میں خوشیاں بہت کم ملی ہیں اس  
لیے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ خوشی اور غم میں کیا فرق  
ہے میرے لیے سب سے بڑا صدمہ تمہارا اس گھر  
میں نہ ہونا ہوگا لیکن وہ میں آسانی سے برداشت  
کر لوں گا۔ کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہی کہاں ہے  
۔“ آشی جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔

”خیر چھوڑو میں جا کر یہ خوش خبری ممانی جان  
کو سناتا ہوں گھر میں چھایا ہوا یہ سناٹا تو  
ٹوٹے۔“ آشی اٹھنے لگا تو الوینہ نے اس کا ہاتھ  
پکڑ کر روک لیا۔

”تھوڑی دیر رک جاؤ کل تو تم چلے ہی جاؤ  
گے پھر نہ جانے کب ملنا نصیب ہو.....“ آشی نے  
الوینہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ گھاس پر بیٹھ گیا۔  
”وہ تمہاری سہیلی کہاں ہے آج کل.....؟“

آسی نے کچھ دیر بعد پوچھا۔  
”کون سی سہیلی.....“ الوینہ حیران ہو کر آشی کی  
طرف دیکھنے لگی۔

”ارے وہی نیلو اور کون۔ یار ہمارا بھی کچھ  
خیال کرو۔ اپنے ہی بارے میں سوچتی رہو گی۔“

”سچ آشی اگر یہ بات ہے تو کہوں امی  
سے..... الوینہ نے مسکرا کر کہا۔

”ارے..... ارے میں نے بس یہ مسکراہٹ  
تمہارے ہونٹوں پر دیکھنے کے لیے یہ بات کہی  
تھی۔ مروانہ دینا کہیں۔“ الوینہ کچھ نہ کہہ سکی۔

آشی بازوؤں پر ہاتھ رکھے گھاس پر دراز تھا اور  
آسمان پر ابھرتے ہوتے ہوئے چاند کو دیکھ رہا تھا۔  
وہ پھر دھیرے دھیرے گنگٹانے لگا۔



آشی کو نہ صرف ستار اور ہارمونیم بجانا آتا تھا بلکہ اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی لیکن وہ بہت کم گانا سنانے پر راضی ہوتا تھا پھر گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ آشی کو گنگنانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی لیکن وہ نہ جانے کیوں آج فوراً ہی مان گیا شاید اس نے الوینہ کی نگاہوں کی التجا سمجھ لی تھی عالی بھیا کو اس بات پر خاصی حیرت ہوئی اور خوشی بھی۔

”اگر یہ بات ہے تو ہو جائے، آواز اور ساز کا سنگم۔ جاؤ میرے کمرے سے ہارمونیم تو اٹھا لاؤ۔“ کبھی فرصت کے دنوں میں آشی کا ستار دیکھ کر عالی بھیا کو بھی شوق چرایا تھا اور وہ ایک سیکنڈ ہینڈ ہارمونیم اٹھا لائے تھے اور اب ایک مدت سے کمرے میں بیڈ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ آشی کے ستار کے تار بھی ٹھیک کرانے کی نوبت نہیں آئی تھی آشی کو یقین تھا کہ ہارمونیم یقیناً خراب ہوگا اس لیے اس نے نوکر سے منگوا لیا۔ بڑی مشکلوں سے اس کی گرد صاف ہوئی اور آشی نے اس کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اسے انتہائی حیرت ہوئی کہ ہارمونیم ٹھیک تھا۔ مجبوراً آشی کو اسے بجانا پڑا۔ ”عالی بھیا اجازت ہے.....؟“

اس نے خالص گویوں کے انداز میں سروں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔

اجازت ہے۔ عالی بھیا نے شاہانہ انداز میں جواب دیا۔

”کیا سناؤں.....؟“ آشی نے پھر گویوں والا سوال کیا۔

”ارے بھئی جلدی کرو۔ تم تو ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہو۔ کچھ بھی سنا دو۔“

”کچھ بھی سنا دوں.....؟“ آشی نے عالی بھیا کی طرف دیکھا۔

”ہاں..... ہاں کچھ بھی سنا دو۔ جلدی

لیکن ایک سرساز جلدی ختم ہوگئی اور وہ شادی سے چند دن پہلے آ گیا۔ رازیہ بیگم نے پرانی رسومات کی پابند تھیں۔ لہذا شادی سے پانچ چھ دن پہلے الوینہ کو مایوں میں بٹھا دیا گیا اور اس کے کمرے سے نکلنے پر مکمل پابندی تھی بلکہ سخت کر فیونا فز تھا۔ عالی بھیا نے کئی دنوں سے الوینہ کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے سوچا وہی جا کر الوینہ سے مل آئیں۔ ان کے کہنے پر آشی بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ پیلے کپڑوں میں الوینہ بالکل سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ عالی بھیا کی ڈاکٹروں والی رگ پھڑک اٹھی۔ وہ گھبرا کر اس کی آنکھوں، زبان اور ناخنوں کا معائنہ کرنے لگے۔ آشی نے بمشکل ان کو یقین دلایا کہ وہ پیلے لباس کی وجہ سے وہ کپڑوں کی ہم رنگ لگ رہی ہے تو انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ وہ پرانے رواجوں کے خلاف چند جملے بول کر مطمئن ہو گئے کیونکہ رازیہ بیگم کے سامنے تو کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔

کافی دیر تک خوشگوار ماحول میں باتیں ہوتی رہیں لیکن باتیں تو وہ دونوں ہی کر رہے تھے الوینہ تو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ عالی بھیا نے یہی سمجھا کہ وہ گھر سے جدائی کے خیال سے رنجیدہ ہے اچانک عالی کو خیال آ گیا۔

”یار آشی کوئی گانا وانا ہی ہو جائے۔ شاید اس طرح الوینہ کی اداسی دور ہو جائے۔“

گانے بجانے کی محفلیں ابھی ماند ہی تھیں کیونکہ نہ تو الوینہ کی کزن زیادہ تھیں اور نہ ہی سہیلیاں۔

”تھوڑی بہت رونق رات کو ہو جاتی تھی۔ جب محلے کی چند ایک لڑکیاں اکٹھی ہو جاتی تھیں دن بھر تو سناٹا ہی رہتا تھا۔ کزنز میں سے ابھی شیمہ ہی آئی تھی اور اسے رازیہ بیگم نے اپنے ساتھ مصروف کر لیا تھا۔“



حیثیت سے کل صبح مری پہنچ کر جوائن کرنا ہے۔  
”عجیب نالائق ہوتی۔ پر دوشن کی خبر بغیر مٹھائی  
کے سنا رہے ہو۔ اور یہ کیا بات ہوئی تم شادی تک  
نہیں ٹھہرو گے.....؟“ تمہارے بغیر بھلا مزہ کیا  
آئے گا۔“ انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔

”کیا کروں عالی بھیا ہم فوجیوں کی زندگی تو  
ایسی ہی ہوئی ہے کندھوں پر بوری یا بستر اٹھائے  
پھرتے ہیں جہاں آڈر ہو وہاں ڈیرہ لگا لیا۔“  
ماحول پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔  
آشی نے دو تین لطفیے سنا کر ماکھول کو خوشگوار کر دیا۔  
”اچھا بھیا اب میں چلوں۔ ممانی جان نے  
دو تین کام بتائے ہیں وہ کر لوں تو اپنی تیاری  
کروں۔ اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتا اور مسکراتا ہوا  
وہاں سے چلا گیا۔ اور الوینہ سوچتی رہ گئی کہ ہر  
وقت بننے اور ہنسانے والے آشی کی مسکراہٹ  
میں آنسوؤں کی نمی کیوں گھل گئی تھی۔

آج شادی کی رات بھی الوینہ سرخ غرارہ سوٹ  
میں ملبوس خوبصورت زیورات سے سجی بیٹھی تھی۔  
سب کی تعریفوں کے باوجود اسے اپنا اپ اجنبی سا  
لگ رہا تھا۔ اس وقت اس کی سہیلیاں بارات کے  
استقبال کے لیے باہر چلی گئی تھیں۔ اسے لگا جیسے  
آشی اس کے سامنے کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو۔ ”سرخ  
کپڑوں میں ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہیں۔ اس نے  
چونک کر سر اٹھایا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔

اسی لمحے کسی نے ایک بڑا سا پیکٹ اس کے  
پاس رکھ دیا جس پر خوبصورت الفاظ میں لکھا تھا۔  
”الوینہ کے لیے بہت سی دعاؤں کے  
ساتھ۔“ الوینہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیکٹ  
کھولا تو ملے سبز رنگ کی ریشمی کا مدار ساڑھی پھسل کر  
اس کے ہاتھوں میں آ رہی۔ ایک چھوٹے سے سرخ  
مخمل کے ڈبے میں بہت نازک اور خوبصورت سونے

کرو.....“ عالی بے قراری سے پہلو بدل کر  
بولے۔ آشی نے سروں پر انگلیاں پھیریں اور  
کان پر ہاتھ رکھ کر قوالوں کی طرح تان لگائی۔  
بگڑی مری بنا دے اجمیر والا خواجہ

عالی بھیا ہم تن گوش تھے۔ وہ جھینپ سے  
گئے اور انہوں نے ایک دھپ آشی کی کمر پر جڑ  
دیا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر بولے۔  
”سناتے ہو سیدھی طرح یا دوں ایک اور  
ہاتھ۔“

نہ..... نہیں سناتا ہوں..... سناتا  
ہوں۔“ آشی نے سہم جانے کی ایکٹنگ کی الوینہ  
جو اب تک بالکل خاموش بیٹھی تھی کھکھلا کر ہنس  
پڑی اور آشی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی  
مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہی تو اس کا مقصد تھا۔ وہ  
الوینہ کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اسے عملی دیکھ کر اس  
کے دل کا بوجھ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔

”اب جو کچھ بھی سنانا انسانوں کی  
طرح۔ سمجھے۔“ عالی بھیا نے پھر آنکھیں نکالیں۔  
”سمجھ گیا..... سمجھ گیا۔“ آشی نے مسکرا کر کہا  
اور پھر سروں کو چھیڑ دیا۔

نا کام رہے مرے گیت، بدنام ہوا میرا پیار  
مری دنیا کے کچھ ایسے ٹوٹے تار  
غزل ختم ہو گئی۔ دونوں ہی اتھے محو تھے کہ کسی  
کو غزل کے ختم ہونے کا پتا ہی نہ چلا۔  
”ہیلو..... اجی میں نے کہا واپس آ جائیے۔

اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میری آواز بہت  
اچھی ہے۔“ اس نے خود اپنا ہی شانہ تھپتھا کر کہا۔  
عالی بھیا محویت سے چونک پڑے۔ پھر  
انہوں نے آشی کو خوب خوب داد دی۔

اسی دوران آشی نے بتایا کہ اس کی پر دوشن  
کی اطلاع اچانک آئی ہے اور اسے کیپٹن کی



کے ٹاپس تھے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔

الوینہ..... سدا خوش رہو۔

آج تمہاری شادی کا دن ہے جب تمہیں یہ پیکٹ ملے گا تو تم سرخ لباس میں پیاری سی دلہن بنی بیٹھی ہوں گی سوچتا ہوں کہ اچھا ہوا جو میں اس وقت وہاں نہ ہوا۔ مجھے تو تم ہمیشہ سفید لباس میں ہی اچھی لگیں۔ کہیں یہ بات منہ سے نکل جاتی تو کتنی بدشگوننی ہوتی۔ ممانی جان کس قدر ناراض ہوتیں۔ واقعی اللہ میاں کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے یہ ساڑھی تم جیسی اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی کے شایان شان تو نہیں مگر ایک غریب فوجی کی بس یہی حیثیت ہے جب ساڑھی خریدنے گیا تو ایک بہت ہی خوبصورت سفید ساڑھی خریدنے کو دل چل اٹھا۔ مگر ظاہر ہے میں ایسا نہیں کر سکتا تھا نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے جو چاہتا ہوں کر نہیں سکتا۔ خیر کہو تمہیں ساڑھی پسند آئی یا نہیں اور یہ ٹاپس میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے خریدے ہیں نہ جانے کیوں.....؟“

اب یہ ساڑھی اور ٹاپس نہ بھی پسند آئیں تو ایک بار ضرور پہن لینا کسی کا دل رکھ لینا اچھی بات ہوتی ہے اور نیلو صاحبہ کو دیکھو، ہم ان کی نظرات کی نظر ہی رہے اور انہوں نے دل رکھنے کے لیے بھی مسکرا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ خیر جو اللہ کی مرضی اب ایک بات سچی سچی بتانا۔ تم خوش تو ہونا.....؟“ ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ شعیب بھائی کے گھر میں کتنی بے شمار سرسٹیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں تم بھی کتنی نادان تھیں اپنی زندگی کی اتنی ساری خوشیوں کو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ٹھکرارہی تھیں۔

اس دن جب میں صبح صبح جانے کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ تم میرے لیے جانے لے کر آ رہی ہو پھر مجھے اپنے پاگل پن پر ہنسی آ گئی۔ بھلا تم کیسے

آ سکتی تھیں۔ تم تو شاید اس وقت اپنے ہاتھوں پر مہندی رچائے بیٹھی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے نہ جانے کیوں ایک شعر لبوں پر آ گیا تم بھی سن لو۔ کسی کی آنکھ میں آنسو نہ لب پہ حرف دعا کوئی چراغ تو ہوتا رہ سفر کے لیے

مجھے ابھی تک کوارٹر نہیں ملا۔ خیر مل جائے گا ہم جیسے لوگوں کو گھر کی ضرورت بھی کیا ہے یوں بھی ساری عمر گھر کے بغیر ہی گزارنی ہے میں اس وقت PMA میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہوں۔ تمہارے نام کا پہلا اور آخری خط۔ میرے سامنے مری کی برف پوش پہاڑ ہیں۔ جہاں تک نظر جاتی ہے برف ہی برف نظر آتی ہے کل ساری رات برف باری ہوتی رہی ہر طرف ایک جمود ایک ویرانی سی چھائی ہوئی ہے۔ جسے دیکھ کر دل خواہ مخواہ ڈوبتا جاتا ہے یا شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے آج نہ جانے کیوں دل بہت ہی اداس ہے اب خط ختم کرتا ہوں کہیں خطا خواستہ میری اداسی کا سایہ تم پر بھی نہ پڑ جائے۔ نہ جانے کیا کچھ لکھ دیا۔ معاف کر دینا فقط آشی۔

الوینہ خط ہاتھ میں تھا مے سوچ رہی تھی۔ آشی آخردہی ہونا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ تم مجھے کیا سمجھتے۔ تم تو اپنے آپ کو بھی نہ سمجھ سکے یا شاید دوسروں کی خوشیوں کے لیے جان کے انجان بن گئے۔ آشی مجھے تم خوش دیکھنا چاہتے ہو نا تو میرا وعدہ ہے۔ میں خوش رہنے کی پوری کوشش کروں گی اور تمہیں کبھی یاد نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ خدا کرے تم بھی مجھے بھول جاؤ۔ خدا کرے.....“ الوینہ نے اپنے حنائی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور دو آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے زرتار دوپٹے میں جذب ہو گئے۔

☆☆.....☆☆

For More Visit  
Paksociety.com

دو شیزہ 100

READING  
Section



## ناولٹ

فوزیہ احسان رانا

Downloaded From  
Paksociety.com

# لححوں نے خطا کی تھی

”میں بھی تھانے میں ہی قید تھا آج ہی رہا ہوا ہوں۔“ وہ دو قدم اور آگے بڑھا اجالانے پوری قوت سے اسے تھپڑ مارا پھر اس نے ناخنوں سے نوچنا شروع کر دیا۔ ”کتنے جھوٹ بولو گے تم گھٹیا انسان۔“ اجالانے اس کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا اسے زمین کی گردش رکتی ہوئی.....

## آخری حصہ

اُس دو شیزہ کی کتھا، جس کی ایک لمحے کی خطا نے اُس کی ساری زندگی کو مجسم خطا بنا ڈالا تھا

لئے ترستار ہا کہتا جا رہا تھا میری اجالا ایسی نہیں ہو سکتی، میری اجالا ایسی نہیں ہے۔“

”ویسے یار ایک بات ہے دونوں بہن بھائی ہیں بہت اچھے۔“ فاروق نے تاسف سے مسخر اڑایا۔

”کل تیرے اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ پہنچ جائیں گے۔“

ان آوازوں نے ان باتوں نے اجالا کے چودہ طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ بھر بھری مٹی کا ڈھیر بن گئی تھی، عزت نفس اس کی انا اس کی محبت سب کو تماشاً بنا دیا تھا۔ اس کا دل چاہا کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے ان مردوں کو نوچ لے سب کچھ تباہ کر دے۔ سوچیں دیمک کی طرح اس کے دل کو چاٹنے لگیں دل کا درد سو گنا بڑھ گیا۔ اجالانے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔

”فاروق تم یہاں.....“ سب کچھ اپنے کانوں سے سننے کے بعد نہ جانے وہ کس خوش فہمی

”رحمان میں نے اپنا کام پوری دیانتداری سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے ذرا بھی بددعانتی نہیں گلے تک نہیں لگایا اُسے، اب لا میری رقم۔“

فاروق یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ”ایئر پورٹ پر لگایا تو تھا۔“ رحمان ہنسا تھا مکروہ ہنسی۔

”ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے یہ تو ضروری ہے تا ورنہ وہ پولیس والا یار ہمیں رنگے ہاتھوں کیسے پکڑتا۔“ دونوں ہاتھوں پر ہاتھ مار کر بنے۔

”وہی تصویر تو میں نے اخبار میں چھپوا کر نیچے خبر لگوائی تھی ڈاکٹر سعد مرتضیٰ کی بہن اپنے آشنا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی پولیس کا چھاپہ، ہا ہا ہا اخبار دیکھ کر سعد مرتضیٰ بس دیواروں میں ٹکریں مار مار کر خود کو لہو لہان کرتا رہا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ تھا، اس کی دل جوئی کے لیے، میرے دل میں سکون اترتا رہا، وہ ساری زندگی عیش کرتا رہا اور میں آنے آنے کے



پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے کہا ہوتا، اتنی کم مایہ تھی اجالا، اتنے کم دام، اتنی سستی بک گئی۔“ وہ جیسے ہوش و خرد سے بے گانہ ہو کر خود کلامی کرتی رہی روتی رہی۔

☆.....☆.....☆

سعد مرتضیٰ جب سو کر اٹھا تو چونک کر اٹھنے سے روک کر اجالا کو بتایا کہ اجالا بی بی اپنی گاڑی میں علی الصبح کہیں چلی گئی ہے گیٹ کھلا ہوا تھا جب وہ نماز پڑھ کر واپس لوٹا۔ سعد مرتضیٰ سمجھا کہیں قریبی پارک تک گئی ہوگی۔ آجائے گی وہ بھی جاگنگ کے لیے چلا گیا واپس آیا فریش ہوا ناشتا کیا اجالا ابھی تک نہیں لوٹی تھی تو اسے فکر ہونے لگی اس نے رحمان کو فون کیا رحمان فوراً چلا آیا وہ سعد کے غم اس کی پریشانی میں شامل رہا۔ سعد کے ساتھ رحمان نے شہر کا کونہ کونہ چپہ چپہ چھان مارا مگر اجالا شہر میں ہوتی تو ملتی نا۔ سعد اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا اٹھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔

دن شام میں ڈھل گیا۔ شام نے رات کے وجود میں پناہ لے لی۔ سعد ساری رات روتا رہا دعائیں مانگتا رہا۔ رحمان اسے تسلیاں دیتا رہا اس کی ڈھارس بندھواتا رہا اجالا کے لوٹ آنے کی امید دلاتا رہا۔ رات کا نجانے کون سا پہر تھا جب رحمان نے زبردستی اسے نیند کی گولی دی تھی جب سعد سو گیا تو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی اس نے فاروق کو چند ضروری ہدایات دیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حرص اس کی مسکراتی نظروں میں ناچ رہی تھی وہ جو کر رہا تھا جو وہ اتنے لمبے عرصے سے پلان کر رہا تھا وہ کسی کا گھر اجاڑنے کا سوچ رہا تھا کسی کا معصوم آنچل داغدار کرنے کی ٹھان بیٹھا تھا وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا اور اسے ندامت نہیں تھی۔

میں مبتلا تھی یا پھر اس کے منہ سے روبرو سننا چاہ رہی تھی۔

”ہاں جان میں.....“ وہ اٹھ کر اس کی طرف آیا۔

”مجھے تھانے میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔“ وہ رودی۔

”میں بھی تھانے میں ہی قید تھا آج ہی رہا ہوا ہوں۔“ وہ دو قدم اور آگے بڑھا اجالا نے پوری قوت سے اسے تھپڑ مارا پھر اس نے ناخنوں سے نوچنا شروع کر دیا۔

”کتنے جھوٹ بولو گے تم گھٹیا انسان۔“ اجالا نے اس کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا اسے زمین کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی درد کی تیز چھین نے سارے وجود کو چور چور کر ڈالا تھا۔

”بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا، میری تو بہن کی، محبت کا مذاق بنایا کیوں کیا ایسا۔“

”میرا کام ہے یہ، مجھے رحمان نے تمہارے پیچھے لگایا تھا پانچ لاکھ میں ہماری ڈیل ہوئی تھی۔

سچ تو یہ ہے کہ اجالا میں کبھی شکا گو گیا ہی نہیں، میں یہیں تھا میں تو شکا گو جانے کا تصور بھی نہیں کر

سکتا میں تمہیں یہیں سے فون کرتا تھا۔“ وہ ہولے کہتا اجالا کی ہستی فنا کرتا جا رہا تھا۔ اجالا اسے

مارتی رہی روتی رہی۔ اس نے اپنے دفاع میں اجالا کے ہاتھ نہیں جھٹکے۔

”محبت بیچ ڈالی تم نے، اجالا کا سودا کر ڈالا۔ اتنی کم قیمت میں، اتنی ارزاں تھی۔ کیا میری

محبت۔“ اس کی آنکھوں میں اتنی بے یقینی تھی شک اور صدمے سے نڈھال وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھے گئی۔

”اجالا نے تو اپنی ایک ایک سانس تمہیں دان کر دی تھی دل و جان سے تمہاری ہو گئی تھی،



Downloaded From  
Paksociety.com



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور
- ✦ ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسج کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](http://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety](http://twitter.com/paksociety)



وہ اجالا اور سعد کی تباہی بربادی کا سامان کر چکا تھا اس کے دل پر بے حسی کی مہر ثبت ہو چکی تھی وہ نفس پرستی کا شکار کمزور انسان تھا وہ عیش سے جینا چاہتا تھا اور بہت سارا جینا چاہتا تھا۔ انسانیت کو چھوڑ کر انسان بت کر فرعون بن جاتا ہے۔ دوسروں کی زندگی میں سیاہی گھل دیتا ہے کسی کی لٹی پٹی حالت پر خوشیاں منانے والا انسان بھول جاتا ہے کہ ظالم کی رسی اللہ دراز کرتا ہے۔ اور پھر جب رسی کھینچتا ہے طنابیں ٹوٹ جاتی ہیں آخرت میں نجات نہیں ملتی بس اتنا سا کھیل اور انجام سے بے خبر انسان۔ دنیا میں رحمان جیسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو گناہ کر کے بھی تمام عمر مطمئن رہتے ہیں۔ ساری زندگی رائیگاں کر کے تمام عمر تہی داموں رہتے ہیں۔

رحمان کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے سنے تھے وہ مسرور تھا۔

☆.....☆.....☆

اگلا دن سعد مرضی کی زندگی کا سیاہ دن تھا رحمان ابھی ابھی لاہور سے نکلنے والا اخبار ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا اور پھر کسی خاص جگہ پر رحمان نے اشارہ کیا سعد نے اخبار دیکھا اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اجالا کسی نوجوان کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ دوسری تصویر میں اجالا پولیس والوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی کھڑی تھی۔

”نہیں میری اجالا ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ ضرور کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔“ سعد رو رہا تھا اپنے بال نوج رہا تھا۔ دیواروں سے سر پھوڑ رہا تھا وہ پاگل ہو رہا تھا۔

”اجالا کل سے گھر سے غائب ہے مگر رحمان ایک بار بھی کوئی ایسا خیال مجھے چھو کر نہیں گزرا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ..... نہیں اجالا ایسی نہیں ہے

سعد کی بہن ایسی نہیں ہو سکتی اسے پتا ہے وہ سعد کی لاڈلی ہے وہ ایسی نہیں ہے وہ بہت معصوم ہے۔“

”اخبار گھر گھر جا رہا ہے۔ بہت بدنامی ہوگی سعد ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔“ رحمان نے دے الفاظوں میں اسے جتایا تھا۔

”رحمان تم کسی طرح پتا چلاؤ کے اجالا تھانے میں ہے؟ ہم لاہور چلتے ہیں اس کی ضمانت کروا دیتے ہیں پھر ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے۔“ رحمان چاہ رہا تھا کہ بدنامی و رسوائی کے خوف سے سعد چپ کر کے گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے مگر سعد کو ابھی صرف اجالا کی جان کی عزت کی سلامتی کی فکر تھی کون کیا کہہ رہا تھا اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔

”سعد ہم چلتے ہیں لاہور، تم پریشان مت ہو مگر پار ایک حقیقت تسلیم کر لو کہ اجالا کا اس فاروق نامی شخص سے گہرا تعلق ہے وہ خود اس کے گھر سے گئی ہے۔ اپنی مرضی سے، رائمہ بھابی کو شاید پتا ہو۔“

”رائمہ، رائمہ۔“ سعد نے با آواز بلند اسے پکارا وہ بھاگی چلی آئی۔

”اجالا کا فاروق سے کوئی تعلق تھا کیا وہ اس سے ملتی رہی ہے دیکھو تمہیں میرے سر کی قسم جھوٹ مت بولنا۔“ سعد نے اسے شانوں سے پکڑ کر کہا رائمہ کا سر جھک گیا۔

”جی ان کی دوستی تھی فون پر بھی بات کرتے تھے وہ اس سے ملتی تھی کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتہ۔“

”سعد اجالا خود اپنی مرضی سے لاہور گئی ہے۔ یہ تو ظاہر ہو گیا۔ رحمان نے کہا۔

”مان لیا یہ سب مان لیا مگر پھر بھی میرا دل نہیں مانتا، اجالا گھر سے بھاگ جانے والا اتنا بڑا سنگین قدم نہیں کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ سعد مرضی کو



اس گھر میں عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے مرد بھی تھے مگر کوئی اجالا سے ہم کلام نہیں ہوتا تھا ایک نو عمر سی لڑکی اجالا کے پاس کھانا رکھ جاتی اور خود باہر چلی جاتی تھی۔

”میں نے سعد بھیا سے دھوکا کیا تو کیا ملا مجھے، عمر بھر ذلت رسوائی، میں خواہشوں کے گرداب میں الجھی کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ خواب دیکھنے کی یہ سزا ہے کہ میری آنکھیں بنجر ہو گئیں میں نے کیوں بھروسہ کیا فاروق پر، کیوں گھر سے نکلی کہ واپسی کے راستے نہیں مل رہے ہیں بہت بری ہوں۔ میرے اللہ میں اندھیروں میں بھٹک رہی ہوں میں کیا کروں میری رہنمائی فرما میرے حال پر رحم فرما میری حفاظت فرما۔“ اجالا نے وضو کر کے نماز پڑھی دعا مانگی تھی۔

اجالا اپنے کمرے سے باہر نکلی دے پاؤں چلتی وہ آگے بڑھنے لگی یہ بہت بڑا گھر تھا وہ گھر کے اندر چکراتی رہی گھر کے اندر اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔

”یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔“ ایک خیال کوندے کی مانند اس کے ذہن میں لپکا اور وہ چونکا نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی لوہے کا بڑا سا پھانک ادھ کھلا تھا اجالا کا تنفس تیز ہو گیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور پہاڑوں سے نیچے اترنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راستہ کیسے ڈھونڈے تبھی اس کے پیچھے آوازوں کا شور ابھرا تھا۔ دو صحت مند پٹھان عورتیں اپنے قہر آلود نظروں سے گھورتی نجانے اپنی زبان میں کیا کہہ رہی تھیں دونوں نے اسے دبوچا اور لا کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ وہ رورور کر کہتی رہی مجھے جانے دو مگر ان کو کون سا سمجھ آتی تھی یا سمجھ آتی

اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی۔“ سعد چیخا تھا پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر بے چارگی سے رو دیا اس کی انگلیاں خون سے تر ہو چکی تھیں۔ اس کا سردیواروں سے ٹکرانے کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کی شرٹ خون سے داغ دار ہو چکی تھی مگر وہ روئے جا رہا تھا رائے دیوار پار رو رہی تھی اپنے محبوب شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ اس گھر کی عزت خطرے میں تھی سکون کیسے آسکتا تھا۔

رحمان کو سعد نے پتا کرنے کا کہا تھا رحمان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے اپنے کسی بے حد قریبی دوست کو فون کر کے اجالا کو تھانے سے لے جانے کا کہا تھا وہ اس کا دوست اجالا کو تھانے سے لے گیا تھا اب وہ اپنے آبائی گھر اجالا کو لے گیا یہ پشاور کا کوئی علاقہ تھا جہاں تا حد نظر پتھر ہی پتھر نظر آتے تھے۔

سعد اور رحمان جب لاہور پہنچے کوئی اجالا کی ضمانت کروا کر لے گیا تھا۔ ضمانت کروانے والا کون تھا کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ سعد کی بے بسی رحمان کے جلتے دل پر سکون اتار رہی تھی۔ وہ سعد کو یوں ہی تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اذیتیں دے دے کر مارنا چاہتا تھا۔

رحمان بزدل مرد سعد کی پشت پر وار کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ منافق دھوکے باز احسان فراموش۔ سعد لاہور کی سڑکوں پر دیوانوں کی طرح روتا پھر رہا تھا۔ اجالا کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ اجنبی شہر غیر لوگ، کون تھا یہاں اپنا۔ جو اپنے تھے انہوں نے ڈس لیا تھا ساری خوشیوں کو چاٹ لیا تھا برباد کر دیا تھا۔ سعد کے آشیانے کا ڈکا تنکا بکھیر دیا تھا۔

☆.....☆.....☆



”مجھ سے شادی کر لو۔“ رحمان نے کہا۔  
 ”بلکہ اس بند کرو، تم گھٹیا انسان دشمن۔“ اجالا  
 بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی وہ اسے  
 مار مار کر بے حال ہو رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی واویلا  
 کر رہی تھی۔ رحمان ساکن تھا اسے ابھی اجالا سے  
 بہت کام تھے جو نکاح کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ بات  
 اگر جسم حاصل کرنے کی ہوتی تو وہ بغیر اجازت  
 کے بھی حاصل کر سکتا تھا۔ مگر وہ تو بہت ساری  
 خواہشوں کا جہنم دھکا کر بیٹھا تھا۔ اسے دولت  
 چاہیے تھی دنیا چاہیے تھی۔ عیش و عشرت چاہیے  
 تھی۔ اسے اس کی حاسد فطرت سب کچھ چھین  
 لینے پر اُکساتی تھی۔

”اجالا مجھ سے شادی کر لو یہی تمہارے لیے  
 بہتر ہے شکر ادا کرو میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنی  
 زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔“ رحمان نے اجالا  
 کے ہاتھوں کو چھوا۔ اجالا نے نفرت سے ہاتھ  
 جھٹکے۔

”نفرت ہے مجھے تم سے۔“

”مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت یا  
 نفرت سے۔“ وہ مسکرایا۔  
 ”میں تھوکتی ہوں تمہاری شکل پر۔“ وہ زہر  
 خند لہجے میں چلائی۔

”مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔“ وہ  
 اسے تپا رہا تھا۔

”میں خود کو مار ڈالوں گی۔ میری برداشت  
 میرے دکھ سے ہار گئی تھی۔ میرا روم روم اذیت  
 میں جکڑا ہوا ہے۔ اس آبل پائی کے سفر میں زخموں  
 سے چور چور ہوں بہت بے سکونی ہے۔“

”تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اپنی جان  
 لو۔“ رحمان خباثت سے ہنسا۔

”میری جان ہے۔“ وہ دھاڑی۔

بھی تو کون سا انہوں نے اسے چھوڑ دینا تھا اجالا  
 نے رو رو کر آنکھیں سجائیں تھیں کھانا اٹھا کر پھینک  
 دیا۔ ایک مجرمانہ سا احساس اجالا کی رگیں کاٹ  
 رہا تھا۔ محبت کرنے والے بھائی کو دھوکا دینے کا  
 احساس۔ اس عشق کے ہاتھوں وہ برباد ہو گئی گمراہ  
 ہو گئی۔ جس نے اسے ذلت کی پستیوں میں  
 گرا دیا۔ فاروق کی اصلیت اتنی کریمہ ہو گئی اس  
 کی آنکھ میں بے خواب کی ایسی تعبیر، اسے خود  
 سے گھن آ رہی تھی۔

”مجھے نفرت ہے تم سے فاروق، تم نے  
 میرے دل سے میرے جذبات سے کھیلا ہے۔  
 محبت تمہیں معاف نہیں کرے گی، تم مجرم ہو تم  
 محبت کے گناہ گار ہو، میں تمہاری تلاش میں بھٹک  
 گئی۔ اجالوں سے اندھیروں میں کھو گئی تمہارا گناہ  
 چھوٹا نہیں ہے۔ میری عزت کی دھچکیاں بکھر گئیں  
 میں در بدر ہو گئی۔“ اجالا کی روح کو جیسے اس  
 انکشاف نے زخمی کر ڈالا تھا۔ اس کی روح جسم  
 میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس کا ہر ہر عضو زخموں کی  
 تاب نہ لاتے ہوئے جیسے بلبلا رہا تھا۔

”محبت کو تماشا بنانے والوں کو محبت معاف  
 نہیں کرتی، یاد رکھنا فاروق تمہیں بھی محبت معاف  
 نہیں کرے گی۔“ وہ اکیلی پھنکار رہی تھی۔ سلگ  
 رہی تھی۔ اس کے حواس ساتھ نہیں دے رہے  
 تھے۔ اس دن محبت نے اجالا کے دل میں آخری  
 ہچکی لے کر دم توڑ دیا اس کے شہر دل پر بھیانک  
 رات اتری تھی محبت کو کسی بھوت نے نگل لیا تھا۔  
 اس کی آتی جاتی سانسیں پشمانی وندامت سے  
 بوجھل تھیں، وہ ان سانسوں سے نجات چاہتی تھی۔  
 اس کی بنجر آنکھوں میں رنجوں کے عذاب اتر  
 آئے تھے۔

☆.....☆.....☆



دوسروں کی زندگی موت کے فیصلے کرنے لگے۔  
 ”تم ایسا نہیں کر سکتے۔“ اجالا کی آواز کسی  
 گہرے کنویں سے نکلی تھی۔

”میں ایسا ہی کروں گا۔“ وہ بولا پھر ذرا  
 توقف سے دوبارہ بولا۔

”مجھ سے شادی کر لو تو سعد اور رائمہ کی زندگی  
 بخش دوں گا۔“ وہ سب فیصلے کیے بیٹھا تھا۔  
 ”مجھے منظور ہے۔“ اس کی سانس کی ڈوری  
 جیسے ٹوٹ رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

ان کا نکاح ہو گیا وہ ایک زندہ لاش تھی۔ جو  
 اب رحمان کے دسترس میں تھی رحمان نے اس کو  
 حاصل تو کر لیا لیکن وہ اندر سے بالکل مر چکی  
 تھی۔ اس کا دل اس کی روح مردہ ہو چکے تھے۔  
 وہ شدید بیمار پڑ گئی۔ رحمان آتا جاتا رہتا تھا۔  
 اجالا کا علاج گھر پر ہی ہو رہا تھا۔

دوسری طرف رحمان نے موقع پا کر سعد کی  
 گاڑی کی برک فیل کر دیے اسی دن سعد رائمہ کے  
 ساتھ باہر نکلا اور ایک بہت بڑے حادثے کا  
 شکار ہو کر رائمہ سمیت جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔  
 رحمان سو گوار و غم زدہ تھا۔ چالیس دن تک  
 وہی آئے گئے کو دیکھتا رہا۔ تعزیت کرنے والے  
 اجالا کا ذکر نکال کر بیٹھ جاتے اور رحمان خوب  
 نمک مرچ لگا کر بات بتاتا۔ سب لوگ کانوں کو  
 ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتے۔

رحمان نے دھونس سے دھمکی سے اجالا سے  
 جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے تھے۔ اب  
 وہ سعد مرتضیٰ کی ساری جائیداد کا مالک بن چکا  
 تھا۔ اور وہ بہت شادان و فرحان تھا۔

ابھی اس کو ہنسی آرہی تھی کیونکہ جو اس نے  
 چاہا تھا وہ پالیا تھا۔ وہ اپنی چال کے چلنے پر خود کو

”تمہیں میری جان ہے۔“ رحمان ذومعنی لہجے  
 میں بولا اجالا نے تلملا کر دانت کچکچائے۔  
 ”تمہیں کیا ملا ہمیں برباد کر کے۔“

”سب کچھ، دولت سکون۔“  
 ”تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ رحمان تم

حاسد ہو۔ تم نے ہماری خوشیوں کو آگ لگائی  
 ہے۔ ہماری ہنسی بستی زندگی اجاڑی ہے۔“ وہ  
 ایک بار پھر چھپٹ پڑی تھی اس پر۔  
 ”بہت لمبی پلاننگ کی ہے میں نے اور بہت

انتظار کیا ہے بات اگر صرف تمہاری ہوتی تو جس  
 دن میری مہندی کی رات تھی اسی دن میں تمہیں  
 لوٹ لیتا اس دن لگ بھی تو بہت آفت رہی تھی۔  
 بہت عرصے سے میری نظریں تم پر لگی ہوئی تھیں۔  
 مگر میں سعد کا اعتماد نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اور اس کی  
 نازوں پٹی لا ڈلی بہن یہاں رو رہی ہے مجھے بہت  
 سکون ہے۔“

”اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے جیسے بے ضمیر بد  
 کردار انسان کی کرتوتیں۔“

”کہاں ہے اللہ کہاں سے دیکھ رہا ہے۔“ وہ  
 کفر بک رہا تھا خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔

”اللہ سب دیکھ رہا ہے تمہارا ظلم تمہاری  
 درندگی تمہاری سرکشی و بے رحمی سب دیکھ رہا ہے  
 اللہ میرا درد میری تکلیف میری آنکھ سے نکلا ایک  
 ایک آنسو دیکھ رہا ہے، مت بھولو کہ خدا دیکھ رہا  
 ہے میری نیت کو بھی، تمہارے دھوکے کو بھی۔“

”مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میری پلاننگ  
 کا اگلا حصہ سعد اور رائمہ کی موت ہے۔“ اس نے  
 بہت آرام سے کہہ کر اجالا کی ہستی ہلا دی تھی۔ وہ  
 فق ہوتے چہرے کے ساتھ یک ٹک اسے دیکھ  
 رہی تھی۔ کوئی شخص اتنا ظالم و جابر بھی ہو سکتا ہے۔

جو خدائی فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے



سے دو چار کر رہی تھی۔ اس کے ساحرانہ نقوش اپنے اندر دل موہ لینے والی کشش رکھتے تھے۔

”میرے خدا مجھے قرار دے دے۔“

ناپسندیدہ مرد کی قربت سے بڑا آزار اور کیا ہوگا۔

”میرے خدا مجھے نجات کا راستہ دے دے۔ مجھے سکون کے انمول لمحے دے دے۔“

وہ لاچار تھی بے بس تھی کیا کر سکتی تھی۔

اجالا خاموش کیوں ہو ملکہ عالیہ تم بہت حسین ہو گلابوں کا سا گداز، یہ گلابی چمکتا سراپا، آہ بس مجھے تو مدہوش ہی کر ڈالتا ہے۔“

”اجالا اتنی سرد کیوں ہو، میری طرف دیکھو۔“ وہ اس کے احساسات سے بے خبر اپنی ہی ذات میں گمن تھی۔

اجالا نے نگاہیں اٹھائی تھیں اور گویا اس کی نظر رحمان کے چہرے سے چپک کر رہ گئی۔ اجالا کا سارا اعصابی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اجالا کے احساسات ایسے تھے کہ زبان لفظوں کی ادائیگی سے لاچار ہو گئی تھی۔

پھر اس کے سر دو جوہ نے نفرت بھری پھری پھری لی اگلے ہی لمحے وہ پاگلوں کی طرح رحمان پر جھپٹ پڑی۔

”بتاؤ مجھے کیا بولوں درندے شیطان، میری بربادی کے ذمے دار تم ہو۔ سفاک بے رحم بھیڑیے میرا سب کچھ ختم کر دیا میری وفا میری آبرو کو داغدار کرنے والے ذلیل انسان، تو نے کھیل کھلا اور مجھے سیرتا پالوٹ لیا۔ تو حیوان ہو۔“

وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ اسے نوح رہی تھی۔ اس کا سانس دھونکی کی مانند چل رہا تھا۔ اجالا کی رگوں میں جیسے آگ بسنے لگی تھی اس کی آنکھیں نجانے کیسی وحشت سمیٹ لائی تھیں۔

”کیا کر رہی ہو۔“ رحمان نے اس کے

عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے ہی شانوں پر تھکی دے رہا تھا۔ اپنے ہم نفس فریبی کو داد دے رہا تھا۔

مگر بھول بیٹھا تھا کہ زندگی بہت ناپائیدار چیز ہے سانسوں کا تسلسل زندگی ہے اور سانسوں کا کھم

جانا موت ہے دینا اتنی بے وفا ہے کہ خوبصورت گھروں کے مالکوں کو، اتنی آسائشوں اور آرام

کے عادی ہینڈسم مردوں کو، اعلیٰ تعلیم یافتہ حسیناؤں کو ایک گڑے میں اتار آتی ہے، اس مرنے

والے کے اپنے پیارے اپنے ہاتھوں اسے قبر میں اتار آتے ہیں حسن و ذہانت، چال و مکاری، سب

منوں مٹی تلے دب جاتی ہے۔ سب اس گڑھے میں چھپ جاتے ہیں۔

قبر کے بارے میں فرمان ہے کہ ”وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم

کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔“ عارضی سی زندگی کے لیے اپنے اصل کو بھول جانا کہاں کی دانشمندی ہے۔

”کاش دوسروں کو تباہ کرنے کی کوششیں کرنے والے یہ سمجھ لیں۔“

☆.....☆.....☆

سعد اور رائمہ کو مرے ہوئے دو ماہ ہو گئے تھے۔

رحمان آج بھی بہت دنوں کے بعد اجالا کے پاس آیا تھا۔ اور وہ اجالا کے پاس بیٹھا تھا۔ اجالا کو خبر نہیں تھی کہ سعد اور رائمہ اب اس دنیا میں نہیں

رہے۔

اجالا اداسی و سوگواری کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ رحمان نے اس کا خوبصورت مومی ہاتھ اپنے ہاتھ

میں لیا تھا۔ اجالا کا تابندہ حسن، اس کا سفید گلابی مخملیں سراپا دیکھ کر رحمان کا دل جیسے اس کے بس

میں نہ رہا اس کی قربت اجالا کو بے پناہ اذیت



رکھتی

ہتھیلیوں پر گلاب زخموں کی سرخ کلیوں کے  
ہار لے کر

تمام تر حسن تمکنت سے  
قطار شہزادگان شہر وفا کی جانب بڑھے تو لیکن  
تمہارے آگے سے ایسے گزرے  
تمہاری آنکھیں سوال کرنا بھی بھول جائیں  
تم اس گھڑی سے درو کہ جس دم

وہ شہر الفت کی شاہزادی  
تمہیں دکھا کر، تمہارے ہوتے

فقیر راجہ کو اپنی جاہت کا ہار پہنائے اور  
تمہاری یہ خشک آنکھیں

سوال کرنا بھی بھول جائیں  
”اللہ.....“ اجالا کے دل سے درد بھری پکار

ابھری تھی۔  
”فاروق تمہیں ’محبت‘ معاف نہیں کرے گی۔

”رحمان اللہ دیکھ رہا ہے۔“  
اجالا کو سے میں جانے سے پہلے آسمان کی

طرف نگاہ کر کے صدا دی تھی۔  
☆.....☆.....☆

تین ماہ بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو وہ  
رحمان کے گھر میں تھی۔ خالہ کے گھر تھی وہ کم صم سی

خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھا کرتی نجانے  
کب کا اس کا بے اے کا رزلٹ آچکا تھا۔ رحمان

نے پی ٹی سی کی بنیاد پر خود ہی اس کی نوکری لگوا  
دی تھی۔ ساتھ ہی خالہ کو تائید کی تھی کہ سائے کی

طرح اجالے کے ساتھ رہے۔  
خالہ اسے اسکول چھوڑنے جاتی تھی۔ شروع

شروع میں فاخرہ کا دل پڑھانے میں نہیں لگتا  
تھا۔ مگر آہستہ آہستہ اسے بچوں کے ساتھ وقت

گزارنا اچھا لگنے لگا۔

دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔

”تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا مجھے اپنی بے  
روائی بے سائبانی اور بے وقعتی کا دکھ کہتا ہے میں

تمہاری جان لے لوں، میں تمہیں چھوڑوں گی  
نہیں۔“ وہ پھر ایک بار اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔

”کیا کر لوں گی تم۔“ رحمان نے اب ایک ہاتھ  
سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے

زناتے دار تھپڑ اجالا کے گال پر مارا وہ درد سے  
کراہ اٹھی اور زیادہ طاقت صرف کر کے اپنے

ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پاگل  
ہو رہی تھیں۔

تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد  
رکھو گے۔“

”کس سے میرا حال برا کرواؤ گی مجھے  
عبرت ناک سزا دلواؤ گی، اپنے سعد بھی جسے قبر میں

سوئے ہوئے دو ماہ ہو گئے۔ الفاظ تھے کہ  
انگارے، جیسے کسی نے منوں تیزاب اجالا کو اوپر

پھینک دیا تھا۔ جیسے کہیں بجلی گری تھی۔ اور سب  
کچھ جل کر کا کستر ہو یا تھا۔ ذہنی ہیجان و خلیجان کی

انتہا یہ تھی وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے اپنے بال نوچ  
رہی تھی اس پر عجیب کر بناک سی دیوانگی طاری

تھی۔ رحمان جاچکا تھا اور اگلے دن ہی اس لڑکی  
نے طلاق کے کاغذات اجالا کو تھمائے جو اس کے

کمرے میں آتی جاتی تھی۔  
پرانی باتیں، پرانی رسمیں سب پلٹ رہی ہیں

تم اس گھڑی سے ڈرو کہ جب تم بھی سر  
جھکائے

قطار شہزادگان شہر وفا میں بے بس کھڑے ہو  
لیکن

وہ شہر الفت کی شاہزادی  
وہ خواب یادوں کے نرم پھولوں پر پاؤں



”اجالا.....“

”پلیز لبنی مجھے اجالامت کہو میں سعد کی اجالا تھی مجھے نفرت ہے اس نام سے جس نے میرے بھیا کی زندگی نکل گئی، مجھے خود سے نفرت ہے۔“  
فاخرہ پہلے دن سے لے کر آخر تک کی ساری کہانی لبنی کو سناتی چلی گئی لبوں پر ہاتھ رکھے لبنی روتی رہی۔

”رحمان بھائی اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسی بے رحمی و سفاکی کا مظاہرہ، میں فرقان کو بتاؤنگی۔“

”اس سے کیا ہوگا لبنی، جو ہماری بربادی ہوئی تھی وہ تو ہو چکی، میرا ماں جایا سعد کبھی واپس آئے گا نہیں کبھی نہیں۔“

میں ہوں قاتل اپنے بھائی اور بھابی کی۔“  
”رحمان بھائی نے گھر آ کر بتایا تھا کہ سعد بھیا نے گلے میں پھندا ڈال کر خود کو سٹکھے سے لٹکا لیا تھا مگر رحمان نے بروقت دیکھ لیا تھا اور ان کے گلے سے پھندا نکالا تھا سعد بھیا کی گردن پر زخم آگئے تھے رات بھابی ڈرائیور کے ساتھ سعد بھیا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی تھیں کہ بریک نہ لگ سکی اور یہ خوفناک جان لیوا حادثہ ہو گیا اور وہ تینوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔“ لبنی روتے روتے بتا رہی تھی۔ اور فاخرہ کے ذہن میں ایک ہی بات آرہی تھی اور بار بار آ رہی تھی۔

”لبنی میرے بھائی اور بھابی کو بھی رحمان نے مارا ہے وہ قاتل ہے خون پی ہے۔“ ایک بار پھر اس کی آنکھیں خون رو رہی تھیں۔ اس کے بدن کے ریشے ریشے سے جان نکل رہی تھی۔

”اس نے ضرور گاڑی کے اندر کچھ ایسا کیا ہے کہ گاڑی رُک نہیں سکی اگر ایسا نہ ہوتا تو رحمان کی سعد بھیا کے ساتھ ہمدردی کا ڈھونگ جہاں

”خالہ وہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔“ ایک دن اسکول سے واپسی پر فاخرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

”کیوں وہاں کیا رہ گیا، تمہاری آوارگی نے سب کچھ تو اجاڑ دیا۔“

”میرا بھتیجا بھتیجی ہے وہاں۔“  
”کوئی نہیں ہے وہاں، ذرینہ چلتر گھر سے بھاگ گئی جاتے ہوئے بچے بھی لے گئی۔“

”کہاں گئی ذرینہ۔“  
”مجھے کیا پتا بی بی، تم بھاگنے سے پہلے مجھے بتا کر گئی تھی جو وہ بتا کر جاتی۔“

”خالہ میں گھر سے بھاگی نہیں تھی۔“  
”مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے سارا زمانہ تم جیسی آبرو باختہ پر تھو تھو کر رہی ہے جو اپنے بھائی بھابی کو کھا گئی ہنتا بستا گھر ویران کھنڈر بن گیا۔“ خالہ نے اس کی پسلی میں ٹھوکا دیا۔

فاخرہ نے کسی کو بھی دوبارہ صفائی پیش نہیں کی تھی وقت اور حالات ایسے تھے کہ کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔

اس کا کہا ہر لفظ جھوٹا ڈرامہ لگتا تھا ان لوگوں کو بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سچا ہوتا ہے مگر وہ اپنی سچائی ثابت نہیں کر پاتا رحمان نے وقت کی بساط پر ایسی چال بچھائی تھی کہ فاخرہ کے تو سارے مہرے پٹ گئے تھے۔ وہ بری طرح مات کھا گئی۔

عائشہ بھابی طنز کے تیروں سے فاخرہ کا جگر چھلنی کرتی رہی۔ لبنی اسے دیکھ دیکھ کر آنسو بہاتی رہتی۔

ایک دن جب خالہ وہ عائشہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھیں تب لبنی اور وہ گلے لگ کر بہت روئیں۔



بھی چلتا وہ ساتھ جاتا مگر نہیں.....“  
”مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا فاخرہ۔“ لبتی ہچکیاں  
بھر رہی تھی۔

”مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔“ وہ بڑبڑائی۔

☆.....☆.....☆

چھٹی کی کوئی سندیس

جانے وہ کون سا دیس

جہاں تم چلے گئے

فاخرہ روز اس شیشوں والے ڈبل اسٹوری

گھر کے سامنے رک جاتی تھی۔ جہاں اس نے

کبھی پرنس کی طرح وقت گزارا تھا بے پناہ خیال

رکھنے والا، ٹوٹ کر چاٹنے والا، دیوانگی کی حد تک

محبت کرنے والا سعد مرتضیٰ کی محبت نے اجالا کو

اعتماد کے ساتھ ایک تمکنت اور ششان بھی بخشی

تھی لہجے کی کھنک سننے والے کو متوجہ کرتی تھی کیسی

مکمل پرسکون زندگی تھی۔

”چل دفع ہو آگے لگ، اتنی اچھی ہوتی تو

اپنے یار کے ساتھ بھاگتی کیوں۔“ خالہ روزا سے

لعن طعن کرتی تھی وہ پھر بھی روزا اس گھر کے آگے

رکتی ضرور تھی۔

رحمان نے آخری چال کے طور پر فاخرہ کا

نکاح زمان کے ساتھ کر دیا فاخرہ کو واویلا مچانا

چاہیے تھا۔ مگر وہ چپ رہی اب طنز کرنے والوں

میں زمان بھی شامل ہو گیا تھا۔ فاخرہ خود اذیتی کا

شکار تھی۔ اسے لگتا کہ وہ اسی قابل ہے کہ اس کے

ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے فاخرہ نے اس

عرصے میں جیسے تیسے ایم اے اردو بھی کر لیا

تھا۔ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا رحمان اور فرقان

اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔

امن، صبا، فضا نے فاخرہ کی درد کی داستان

سننے ہوئے رورو کر آنکھیں سجالی تھیں۔

”آپ بہت عظیم ہیں آنٹی۔“

”مما مجھے فکر ہے کہ آپ جیسی صابر عورت

میری ماں ہے۔“ صبا اور فضا اٹھ کر فاخرہ کے گلے

لگ گئیں وہ اپنی اولاد کی نظروں میں معتبر تھی سرخرو

تھی، وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کی نظروں میں

گرنے کے خوف میں مبتلا رہی تھی اور اس نے

بہت دعائیں مانگی تھیں اور آج یقین کا دن تھا کہ

فاخرہ کی دعائیں اللہ کے ہاں مستجاب ٹھہری

تھیں۔

”مما آپ نے اتنے دکھ جھیلے ہیں اتنا صبر

کیا۔“ صبا نے فاخرہ کے ہاتھ چوم لیے یہ

عقیدت کا اظہار تھا۔

”مجھے صبر نہیں آتا تھا مجھے سکون بھی نہیں ملتا

تھا پھر مجھے صبر کرنا کیسے آ گیا میں زار و قطار روٹی

تھی مجھے کوئی چپ نہیں کرواتا تھا روتے روتے

میری ہچکی بندھ جاتی تھی۔ مجھے اللہ نے بچپن سے

جوانی تک اتنا نوازا کہ کچھ مانگنے کی کبھی ضرورت

ہی نہیں پڑی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ مانگا کیسے جاتا

ہے، پھر مانگتے مانگتے مجھے مانگنا آ گیا، میں نے

سکون مانگا صبر مانگا اولاد مانگی، اولاد کے لیے

ہدایت مانگی، مجھے سب مل گیا مجھے قرب الہی مل گیا

بیٹا میں شانت ہو گئی بیچ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو

کر اپنے رب کی یاد میں گم رہنے لگی اللہ نے مجھے

سوخرو کر دیا وہ شان کری می وہ بزرگی والا اللہ میرا

راز داں اللہ اس نے مجھے مالا مال کر دیا۔“

”مما آپ نے اتنے دکھ اٹھائے۔“ فضا

رودی۔

”لمحوں نے خطا کی تھی۔

صدیوں نے سزا پائی۔

”میری ماں نہیں تھی میرے لیے دعائیں

کرنے والی ماں نہیں تھی جوان ہوتی بچیوں کی



جھٹلایا تھا فاخرہ کو جھوٹا کہا تھا۔

رحمان پر ایک جنونانہ سی وحشت چھائی ہوئی تھی اس نے اپنا سر پھوڑ لیا تھا۔ سارے گھر میں اس کا خون بکھر رہا تھا مگر وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ عزت بھی نیلام ہوئی کار بار بھی ٹھپ ہو گیا۔ کسی دوسرے کی آنکھ سے آنسو ٹپکے تو درد کی لذت سے بھی وہی دل آشنا ہوتا ہے۔ جس کی آنکھ روئی ہو تو ہم تو محض تماشا سائی ہوتے ہیں اور جب آنسو ہماری آنکھ روئے تب ادراک ہوتا ہے کہ پہلے غم دل میں اٹھتا ہے سارے بدن میں پھیلتا ہے تب بے بس ہو کر آنکھ سے پانی بن کر بہتا ہے۔

رحمان کے گھر صف ماتم بچھی ہوئی تھی سارے میں بات پھیل چکی تھی۔ عورتیں بہانے بہانے سے کن سوئیاں لینے آتیں تھیں طرح طرح کی دل جلانے والی باتیں کتیں عائشہ بھی تو ایسی ہی تھی مگر اب اسے یہ سب عورتیں زہر لگ رہی تھیں جو ہمدردی کی آڑ میں نشتر چبھوتی تھیں عائشہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ گھر آنے والی ہر عورت کا ہاتھ پکڑ کر دھلیز کے پار چھوڑ آئے اور دھڑام سے دروازہ بند کر لے کسی کو اندر نہ گھسنے دے مگر زمانہ کا تو یہی چلن رہا ہے صدیوں سے۔

فروہ عائشہ کی ایک فون کال پر گھر آ گئی تھی مقام حیرت تھا۔ فروہ اور ایسی سعادت مندی۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی تھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ دونوں اپنے اپنے دکھ پر رو رہی تھیں۔ فروہ صرف اپنے دکھ پر تڑپ رہی تھی وہ رحمان کی بیٹی تھی جو صرف اپنے لیے جیتی تھی اپنے لیے روتی صرف اپنے لیے ہی روتی تھی۔

فرقان نے ڈاکٹر کو گھر ہی بلوایا تھا۔ رحمان

ماؤن کو ان پر کڑی نگاہ رکھنی ہی چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بیٹیوں کی کل امت مسلمان کی بیویوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ کسی فاروق ترمذی کی لچھے دار گفتگو کی اسیر ہو کر در بدر ہونے سے بچ جائے کسی رحمان کے بھوکے نفس کا شکار ہونے سے محفوظ رہے۔“ فاخرہ کی گھٹی گھٹی سسکیاں فضا میں سوز بھرا ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔

☆.....☆.....☆

عروہ رحمان گھر سے بھاگ گئی۔ رحمان جیولر والے کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔“ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی تھی۔ عروہ جاتے ہوئے کروڑوں کی مالیت کا سونا بھی گھر سے لے گئی تھی۔ رحمان ابھی کل ہی تو سہو بازار سے کروڑوں کا سونا لے کر آیا تھا۔ رحمان کی اس خبر نے گویا کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح عروہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ہر آنکھ اسے اپنے اوپر ہستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں سے نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ بدنامی و رسوائی نے اس کا طنطنہ اس کا سارا دم خم کر دیا تھا وہ دیواروں سے سر پھوڑ رہا تھا۔ رحمان لہولہان ہو گیا آج نجانے کیوں رحمان کی نظروں کے سامنے بار بار سعد مرتضیٰ کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ آ رہا تھا۔ رحمان جھنجھلا کر سر جھٹکتا مگر سعد کا چہرہ تو جیسے رحمان کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔

فرقان اور لبنی ان کی دلجوئی کر رہے تھے لیکن ایسے موقعوں پر طفل تسلیاں کہاں زخموں پر مرہم کا کام کرتی ہیں لبنی کو رہ کر یاد آ رہا تھا کہ لبنی نے جب جب فرقان کو بتانا چاہا تھا کہ رحمان نے فاخرہ کے ساتھ کیا کیا تھا تب سب فرقان نے لبنی کو



نشانی تھی کہ اللہ کو امن کی عاجزی و انکساری اس کی  
ندامت پسند آگئی تھی۔

ہم تمام عمر اپنے سے منسوب لوگوں کو راضی  
کرنے میں لگے رہتے ہیں مگر ہماری ہزار ہا  
کوششوں اور جتنوں کے بعد بھی ہمارے اپنے ہم  
سے راضی نہیں ہوتے سب سے جلد اور آسانی  
سے مان جانے والی ذات باری تعالیٰ کی ہے اور  
ہم اسے ہی منانا بھول جاتے ہیں دنیا کمانے میں  
لگے رہتے ہیں اور جب سانس رکتی ہے تو اپنے  
گناہ یاد آتے ہیں آخرت کی تو کوئی تیاری ہی  
نہیں۔

فاخرہ نے امن کو بری طرح روتے دیکھا وہ  
جائے نماز پر دعا کی حالت میں تھی اس کا سارا چہرہ  
آنسوؤں سے تر تھا۔ فاخرہ کو امن پر ٹوٹ کر پیار  
آیا۔

”آئی عروہ کا کچھ پتا چلا۔“ امن نے اپنے  
چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔

”نہیں بیٹا! ابھی کچھ علم نہیں کہاں ہے لہنی نے  
فون کیا تھا مجھے؟“

”مما ٹھیک ہیں۔“  
”ہاں ٹھیک ہے بس عروہ کی وجہ سے پریشان  
تھی۔“

”آئی آپ کیوں پریشان ہیں آپ کو تو  
خوش ہونا چاہیے۔“

”نہیں بیٹا! ایسا نہیں سوچتے، مجھے بہت دکھ  
ہوا ہے بیٹیاں سب کی ساجھی ہوتی ہیں۔“

”آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا  
حیوانوں جیسا سلوک، آپ کی ساری زندگی داؤ پر  
لگادی۔“

وہ سب رحمان نے کیا، عروہ کا تو کوئی قصور  
نہیں ہاں یہ الگ بات ہے کبھی کبھی ماں باپ کی

کی مرہم پڑی کے بعد اسے نیند کا انجکشن لگا دیا  
تھا۔ عائشہ رحمان کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی اسے ایک  
ایک کر کے اپنی کوتاہیاں یاد آ رہی تھیں۔ کیا بچوں  
کو پیدا کرنا ہی بہت بڑا کام ہے کیا ان کو ان کی  
مرضی پہ چھوڑ دیا چاہیے جو جی چاہے کرتے  
پھریں۔

اسے اپنی ساری لا پرواہیاں رلا رہی تھیں۔  
بچوں کے حوالے سے ماؤں کی کتنی بھاری ذمہ  
داریاں ہوتی ہیں۔ بچے کہاں جاتے ہیں، کس  
سے ملتے ہیں ان کے دوست کو نہیں، عائشہ نے  
کبھی نہیں پوچھا تھا لٹا بچوں کے بے جا فرمائشیں  
پوری کر کے ان کے ناز نخرے اٹھا کر بگاڑ دیا۔

لڑکیاں کہاں جاتی ہیں کس سے فون پر بات  
کرتی ہیں کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، کیا ماں  
ایسی ہوتی ہے ماؤں کو تو اپنی بچیوں کے اسکول و  
کالج بیگ چیک کرنے چاہیں ان کے موبائل  
دیکھنے چاہیے ان کے آنے جانے پر کڑی نظر رکھنی  
چاہیے۔ مگر عائشہ نے ادھر ادھر پھر کے بے کا  
وقت گزار دیا اولاد کب شتر بے مہار ہوگئی اسے خبر  
ہی نہیں ہوئی کیا مائیں اتنی غافل ہوتی ہیں اور  
جب خبر ہوئی تو سب لٹ چکا تھا خاک ہو گیا تھا۔

☆.....☆.....☆

امن نے فاخرہ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا  
تھا۔ امن نے بھی اللہ سے لو لگالی تھی۔ وہ پانچ  
وقت کی نماز پڑھتی اور رو کر اللہ سے اپنے  
گناہوں کی معافی مانگتی تڑپتی گریہ زاری کرتی  
اپنے لیے دعا کرتی اپنی ماما کا دل صاف ہونے کی  
دعا کرتی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس نے لا حاصل کی  
تلاش میں گھانا کھایا تھا وہ جانتی تھی کہ اس صبر سے  
اس کا غم چھپ جائے رحم مانگتی تھی اسے خدا کے  
آگے سجدہ ریز ہونا طمانیت بخشنے لگا یہ اس بات کی



کرنی اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔“ فاخرہ ہولے سے بولی۔

”آئی آپ نے سعد انکل کے بچوں کو ڈھونڈنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔“ یہ سوال بہت دنوں سے امن کے دماغ میں کچل مچا رہا تھا مگر وہ فاخرہ کی دل آزاری کے باعث پوچھ نہ سکی۔

”امن بیٹا! میں زندگی میں کبھی اتنی باختیار اور مضبوط نہیں رہی کہ ان کو ڈھونڈنے نکل سکتی میں خود کمانے والی عورت ہونے کے باوجود بھی اپنی کمائی خرچ نہ کر سکی نہ میرے پاس پیسہ تھا نہ آزادی پھر میں کیا کرتی، ہاں ان کی زندگی کی خیر و عافیت کی دعائیں بہت مانگتی رہی ہوں مانگتی رہوں گی خدا ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔“

”آمین۔“ امن نے صدق دل سے کہا۔

☆.....☆.....☆

رحمان نشر آورا بجیکشن کے باعث ابھی تک سو رہا تھا۔ یہ بجیکشن سکون بھری نیند کے لیے تھا عائشہ ہر اسایں ساری رات اس کی پٹی سے لگ بیٹھی روتی رہی تھی فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ عائشہ نے نجانے کتنے عرصے بعد نماز پڑھی تھی دعا مانگی تھی اس کا دل گھبرا رہا تھا۔

وہ دوبارہ رحمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دن چڑھ گیا۔ عائشہ نے فروہ کا دروازہ بجایا احتشام اور ریان کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ دونوں بھائی اٹھ کر واش رومز میں چلے گئے تو عائشہ نے دوبارہ فروہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ آنکھیں مسلتی جمائیاں لیتی اٹھی۔

”جی.....“ اس نے کڑے تیوروں سے عائشہ کو گھورا تھا۔

اٹھ جاؤ بیٹا! دن چڑھ آیا ہے۔“ عائشہ نے

لجاجت سے کہا۔

”روز ہی دن چڑھتا ہے پہلے تو کبھی نہیں جگایا۔“ وہ کیسی قہر آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی اور لہجہ کیسا تھا۔

”بیٹیوں کو دن چڑھتے تک نہیں سونا چاہیے، اچھا نہیں لگتا۔“ عائشہ آج اچھی ماؤں والی باتیں کر رہی تھی وہ بدل گئی تھی تو ضروری نہیں تھا کہ فروہ بھی بدل جاتی۔

”اچھا.....“ فروہ نے سوالیہ انداز میں اچھا لفظ کو طول دے کر کھینچا تھا۔

”ہاں جی بیٹا.....“ عائشہ کو آج اس کا گستاخانہ انداز بہت چھین دے رہا تھا۔ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی اسے خیال رکھنا چاہیے تھا احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کے والدین پر کیسی قیامت ٹوٹی ہے کیسی جگ ہنسائی ہوئی ہے مگر وہ تو الٹا تسخراڑا رہی تھی عائشہ کا دل ملال کی زد میں آ گیا۔

”ویسے ماما کچھ جلدی خیال نہیں آ گیا کہ بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں مگر آہ افسوس اب کیا فائدہ۔“ فروہ نے تنفر سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ فروہ کی بے حسی اسے پہلے تو کبھی ایسے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جیسے آج اور ابھی ہو رہی تھی ایسے بے مروتی ایسی بے لحاظی، حد تھی خود غرضی کی۔

آہ عائشہ نے خود احتشام اور ریان کو ناشتہ بنا کر دیا اپنی نگرانی میں کھلایا (نخرے کر کے کھاتے تھے) وہ دونوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی تفکرات کی لکیروں سے پر تھی ٹرٹر کرتی زباب اب خاموش تھی۔ بچے اسکول جا چکے تھے۔ عائشہ برتن دھوتے سوچوں میں گم تھی سر تمام رات جاگنے کی وجہ سے گویا سردرد سے پھٹا جا رہا تھا۔ عائشہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے



پیشانی مسلی۔

دبوچ لیا عائشہ کا انداز قبر بھرا تھا اس کی گرفت میں

انتہائی طیش اور جارحیت تھی۔

”تمہارے بابا بیمار ہیں بخار میں بے سدھ

پڑے ہوئے ہیں گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور

تمہیں کوئی پروا ہی نہیں۔“ عائشہ نے دانت پیستے

ہوئے آواز آہستہ رکھی تھی۔

”تو.....“ فروہ نے جواباً ایک جھٹکے سے اپنا

کندھا چھڑا کر عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ

دیں۔

”تو گھر میں رہو، جا کہاں رہی ہو، پہلے ہی

لوگ تمہاری باتیں کر رہے ہیں اتنے عرصے گھر

سے باہر اکیلی رہی ہو۔“ عائشہ کی آواز اب بھی

دبی دبی تھی۔ (کاش عائشہ شروع سے ہی معاملہ

فہم ہوتی)

”کرنے دیں باتیں، مجھے کیا لینا لوگوں دینا

لوگوں سے، اور عروہ تو گھر کے اندر رہتی تھی نا،

باتیں تو آج اس کی بھی بنا رہے ہیں اب کیا کریں

ان لوگوں کا۔“

”نہ جاؤ فروہ گھر رہو۔“ عائشہ کا درشت لہجہ

اب پکھل کر نرمی بلکہ لجاجت میں ڈھل گیا تھا۔

”کام ہے مجھے، جلد آ جاؤں گی، بے فکر

رہیں میں گھر سے نہیں بھاگوں گی۔“ اس نے

در پردہ عروہ کا طعنہ دیا تھا کہ آپ اتنی باخبر ہوتیں

تو عروہ گھر سے کیسے بھاگ سکتی تھی۔

عائشہ کی بیٹیاں ہاتھوں سے نکل گئی تھیں۔

سوائے ہاتھ ملنے اور رونے کے کوئی چارہ نہیں

تھا۔

فروہ سیدھی اریز چوہدری کے گھر گئی

تھی۔ اس نے بیل بجائی تو چوکیدار باہر نکلا۔

”یہ اریز چوہدری کا گھر ہے کیا، مطلب ابرار

چوہدری۔“

دو دن سے اس کے حلق سے کچھ نہیں اترتا

تھا۔ اتنی پریشانی میں کھانے پینے کا کسے ہوش تھا

بھوک تو جیسے مر گئی تھی۔ عائشہ نے ایک کپ

چائے بنائی بچوں کا چھوڑا ہوا سلاس کا ٹکڑا زہر مار

کیا سردرد کی گولی نگلی اور چائے کا کپ اٹھائے

پھر رحمان کے پاس آ گئی۔

رحمان کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے عائشہ رو

دی کیسے دو دن میں رحمان کا چہرہ اتر گیا تھا۔

”سعد.....“ رحمان کے باہم پیوست ہونٹوں

میں جنبش ہوئی۔ عائشہ خاموشی سے اسے تکتی

رہی۔

”عروہ.....“ عروہ کا نام ایک آہ کی طرح

رحمان کے دل سے نکلا عائشہ کٹ کر رہ گئی یہ بہت

بڑا داغ تھا۔ جو رحمان کی پیشانی پر سج گیا تھا۔ وہ

یہ دھچکا سہہ نہیں پارہا تھا۔ سنبھل کیسے سکتا تھا اس کی

لاڈلی بیٹی نے تو اسے کسی سے نظریں ملانے کے

قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔

”رحمان.....“ عائشہ نے ہولے سے پکارا

رحمان نے آنکھیں کھول دیں رحمان کی آنکھیں

سرخ ہو رہی تھیں۔ عائشہ نے بے اختیار رحمان کی

پیشانی کو چھوا وہ بری طرح بخار میں پھنک رہا

تھا۔ عائشہ نے بے ساختہ رحمان کے گال اور

گردن چھوئے اس کا دل دھک سے رہ گیا وہ اٹھی

اور لبٹی کے گھر کی طرف بھاگی تاکہ فرقان کو بلا

سکے۔ اب اور کون تھا جسے وہ بلاتی۔

عائشہ روتی کر لاتی گرتی پڑتی جب گھر واپس

آئی تو فروہ کہیں جا رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کٹیلی

اور سردنگاہ اس پر ڈالی مگر فروہ کی جانے بلا۔

وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ انتہائی غصے کی

حالت میں عائشہ نے اسے جا کر کندھے سے



گلوچ کی دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر پھینک گئی جیسے وہ کوئی گندگی کی پوٹ ہو جسے کوئی لمحہ بھر بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا فروہ روتی دھوتی اپنے زخم چاٹتی گھر لوٹی تھی آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے گھر جانے سے پہلے اس نے ڈھیر ساری سلپنگ پلز خریدی تھیں۔

☆.....☆.....☆

ایک دن فاخرہ لبنی کے گھر آئی تو لبنی نے خود ہی روتے ہوئے امن پر گزری ساری داستان فاخرہ کو سنا دی دونوں روتی رہیں پھر فاخرہ نے اسے بتایا کہ یہ ساری بات وہ پہلے سے جانتی تھی اسی لیے وہ امن کو اپنے گھر لے گئی تھی لبنی فاخرہ کی ممنون تھی جس طرح اس نے امن کو لبنی کو اور سارے گھر کو سنبھالا یہ اسی کا حوصلہ ظرف تھا۔

صغریٰ نے اپنے گھر فاخرہ کی دعوت کی تھی، فاخرہ پہلی بار ان کے گھر جا رہی تھی اس نے فروٹ اور مٹھائی خریدی بشیراں اور امن بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ بہاولپور کے کسی گاؤں میں رہتے تھے صغریٰ کا چھوٹا سا پختہ مکان تھا۔ صغریٰ اور نیہات بہت محبت سے ملے فاخرہ، صبا، فضا، اسوہ اور اسد کے آنے پر ان سے اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی اور ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے فاخرہ نے گھر آ کر بہت عزت دی ہے اور امن کو دکھ کر بھی نیہات کو گونا گوسکون ملا تھا۔ اپنی پسندیدہ اپنی منظور نظر ہستی کو اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا کیسی بے خودی طاری کر دیتا ہے یہ آج نیہات کو پتا چلا تھا۔

بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ صغریٰ سب کے لیے چائے بنا لائی۔  
”اب ہم چلیں گے۔“ فاخرہ نے چائے کے

”جی ابرار چوہدری کا ہے۔“

”مجھے ملنا ہے ان سے۔“

”ٹھیک ہے میں پوچھ کر آتا ہوں۔“

چوکیدار واپس پلٹ آیا تھوڑی دیر بعد لوٹا اور فروہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا فروہ کو یادوں نے گھیر لیا اس کی آنکھوں سے بے طرح آنسو بہنے لگے چوکیدار اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ فروہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی۔

”جی کون ہو تم۔“ ایک پاٹ دار آواز قریب سے ابھری فروہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔

”جج جی میں فروہ ہوں۔“ آپ کی طبیعت

کیسی ہیں آنٹی۔“

”مجھے کیا ہوا تھا..... اور یہ آنٹی کس کو کہا تم

نے جان نہ پہچان اور.....“ وہ خاتون تو جیسے

انگارے چبائے جھٹھی تھیں اللہ ایسے کڑے تیوروں

سے بے چاری فروہ کا سر سے پاؤں تک نظروں کی

نظروں میں پوسٹ مارٹم کیا کہ بس فروہ جیسی دیدہ

دلیر لڑکی بھی پانی پانی ہو گئی۔

”وہ میں آپ کے بیٹے اریز کی

دوست.....“

”میرے بیٹے کا نام اریز نہیں نایاب لودھی

ہے لڑکی، ویسے تم کس کی بیٹی ہو۔“

”رحمان احمد، رحمان جیولر والے۔“ وہ بھول

گئی تھی اب رحمان جیولر والے کا نام اپنی آب و

تاب کھو چکا تھا۔ اس خاتون نے کانوں کا ہاتھ لگا

کر زمین کو ہاتھ لگائے پھر توبہ توبہ بے حیائی کی

انتہاء کہتے ہوئے پھر کان پکڑ لیے۔

”ایک بیٹی سارا سونا پیسے گھر سے لے کر

بھاگ گئی نجانے کدھر خوار ہو رہی ہے کہ موں جلی

اور دوسری اپنے یار کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔“

ناایاب کی ممانے پھر فروہ کی وہ بے عزتی کی گالی



محسوس ہوتی ہے کہ میرا ہر ہر عضو میرے بدن کا رواں رواں ان کی طرف لپکتا ہے یہ تو خون کی کشش تھی جو مجھے مائل کرتی تھی۔“ فاخرہ فرط جذبات سے نیہات اور ضویا کو چومے جا رہی تھی۔

”ایک منٹ میرے بچوں میں دو نفل شکرانے کے ادا کر لوں اس اونچی شان والے اللہ کے حضور سجدہ کر لوں جس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ میرے سعد کے بچوں سے ملو ادا وہ رحمان نے رحیم ہے کریم ہے وہ میرا اللہ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا تو وہ اللہ یہ معجزہ کیوں نہیں رکھ سکتا تھا۔“ فاخرہ روتی ہوئی وضو کرنے چلی گئی تو پیچھے سارے بچے روتے ہونے ایک دوسرے سے ملنے لگے صبا جو رشتوں کے لیے اندر ہی اندر ترستی رہتی تھی کمی محسوس کرتی تھی۔ اب مسکراتے لبوں روتی آنکھوں سے ضویا اور نیہات سے مل رہی تھی وہ جو پہلے ہی اپنے تھے اب تو بہت اپنے تھے تمام عمر کے لیے مل گئے تھے۔

فاخرہ کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے وہ بار بار نیہات اور ضویا کو گلے لگا رہی تھی چوم رہی تھی۔

”پھوپھو مجھے اور نیہات بھیا کو پتا تھا کہ آپ ہماری پھوپو ہیں اسی لیے ہم آپ سے اتنی عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ نیہات بھیا صبا فضا سے اسی لیے محبت کرتے ہیں۔“ ضویا کی آواز رندھ گئی۔

”میرے سعد کے بچے میری جان میرا میکہ۔“ فاخرہ ہچکیاں پھرتے نیہات کے سر کو چوم رہی تھی وہ اونچا لمبا لڑکا چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا برسوں کے پھڑے مل گئے تھے مگر برسوں کی تڑپ دنوں میں تو نہیں مٹ سکی تھی نا۔ اتنے سال دوری رہی تھی۔ اب انہوں کا قرب ایک عرصے

بعد کہا۔

”فاخرہ بہن مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔“

تب ہی اچانک صفری نے کہا۔

”کس سے.....“ فاخرہ نے اچھنبے سے اسے دیکھا۔

”ابھی آئی.....“ صفری کمرے سے باہر نکل گئی پانچ منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ کوئی خاتون تھی جو لگ بھگ فاخرہ کی ہم عمر لگ رہی تھی۔

”پہچانا.....“ وہ عورت قریب آئی اور فاخرہ سے پوچھا۔

”ہاں شکل جانی پہچانی لگ رہی ہے کون ہو تم.....“ فاخرہ بولی۔

”زرینہ.....“

”زرینہ.....“ فاخرہ کا دل جیسے حلق میں دھڑکنے لگا۔ اور آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔

”ہاں میں.....“ زرینہ فاخرہ کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ سب ان کو دیکھ کر رو رہے تھے۔

”کہاں چلی گئی تھی تم.....؟ اور بچے.....“

”نیہات اور ضویا سعد صاحب کے بچے ہیں۔“ زرینہ کے الفاظ پر فاخرہ کو سکتہ سا ہو گیا وہ شاک کی کیفیت میں نیہات اور ضویا کو دیکھے جا رہی تھی کمرے میں موجود ہر ذی نفس کی کم و بیش یہی حالت تھی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بے یقینی بھی تیر رہی تھی۔

”پھوپھو.....“ سب سے پہلے نیہات نے ہی اس سکتے کو توڑا تھا اور فاخرہ کے گلے لگ گیا دونوں ایسے روئے کہ سب کو رلا دیا ان کے ملن میں محسوس کی جانے والی تڑپ تھی۔

”میں بھی کہوں کہ میرا دل ان بچوں کی طرف کیوں کھنچتا ہے مجھے ان میں اتنی کشش کیوں



بعد نصیب ہوا تھا۔

فاخرہ زرینہ کے گلے لگ کر رو دی۔

☆.....☆.....☆

رحمان کا بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عائشہ ہر وقت روتی رہتی لہذا اور فرقان آجاتے تھے۔ رہی فردہ تو وہ نیند کی گولی لے کر سارے غموں سے آزاد ہو کر سوئی پڑی رہتی۔ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی خیالات کے آوارہ گولے اسے اڑائے پھرتے وہ ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ ہوش میں آتے ہی اس کے خیالات کے سارے کنارے اریز سے جاملتے تھے۔

رحمان کو انتہائی رنج و عالم اور افسردگی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے شوگر ہو گئی تھی۔ وہ سوکھا کانٹا بن چکا تھا۔ فرقان اس کو غم سے نکالنے کے لیے تنگ و دو کرتا رہتا اسے سمجھاتا کہ ”جو ہوا بہت برا ہوا مگر یوں ہمت مت ہارو، باقی اولاد کی طرف بھی دیکھو۔“

دو ماہ بعد رحمان گھر سے باہر نکلا تھا۔ بڑھی ہوئی شیو بڑھی ہوئی، کندھے جھکے ہوئے، چال میں کسی شرابی جیسی لڑکھڑاہٹ تھی وہ سر جھکائے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے ہر نظر خود پر ہنستی ہوئی لگ رہی تھی وہ دوکانوں کا کرایہ لینے گیا تو وہاں روح فرسا انکشاف نے اس کی روح تک کھینچ لی کوئی اریز نامی لڑکا ساری دکانیں بیچ گیا تھا۔ جو عروہ اور فردہ کے نام تھیں۔ رحمان اشتعال سے یوں لرزنے لگا جیسے سوکھا ہوا پتا ادھر سے ادھر لڑھکتا پھرتا ہے۔ رحمان بینک گیا وہاں اس کے اکاؤنٹ میں ایک بھی دھیلا نہیں تھا اریز خالی چیک پر کر کے یہاں بھی اپنا کام دکھا چکا تھا۔ رحمان کے دماغ میں غم و اندوہ کے جھکڑ چل رہے تھے۔

رحمان گھر آیا اور سیدھا فردہ کے کمرے میں

”زرینہ تم ان کو گھر سے لے کر کیوں بھاگی اور کہاں چلی گئی تھی میں اتنی مجبور و لاچار عورت کہاں ڈھونڈتی پھرتی زندگی کی تلخیوں اور صدمات نے مجھے بہت کمزور کر ڈالا تھا۔ میں نے کب زندہ لوگوں جیسی زندگی گزاری ہے زندگی نے مجھے گزارا ہے۔“ پھر فاخرہ اپنی روداد غم ان کو سنانے لگی ان کو سنانا ضروری تھا۔

اجالا میں نے رحمان کو کسی سے یہ ساری باتیں کرتے سن لیا تھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سعد بھیا اور رائمہ کے قتل کا منصوبہ بھی اسی کا ہے وہ کسی سے کہہ رہا تھا وہ اب بچوں کو بھی مار دے گا میں نے سن لیا۔ ہم نے برسوں سے آپ کا نمک کھایا ہے جی اسی لیے میں ان معصوموں کو لے کر بھاگ کر شیخوپورہ اپنی پھوپھی کے پاس چلی گئی وہاں میں نے محنت مزدوری کر کے ان کو پالا بہت سال میں وہاں رہی جب نیہات نے میٹرک کر لیا تو میں اسے آپ کی سعد بھیا کی تصویریں دکھائیں اور اسے سب کچھ بتا دیا میں نے ان بچوں کی خاطر شادی نہیں کی، میں چاہتی تھی کہ یہ آپ سے ملیں۔ مجھے کسی نے بتا دیا کہ آپ یہیں پر ہو۔ کسی طرح میں نے ان کو یہاں بھیج دیا۔ صغری میری خالہ زاد ہے شکر ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔

”تم بہت عظیم ہوزرینہ تم نے بہت بڑا عمل کیا ہے بہت بڑا ظرف ہے تمہارا، میں یہ تمہارا احسان ساری زندگی نہیں اتار پاؤں گی۔ تم نے غیر ہو کر ہماری نسل کو بچا لیا جبکہ یہاں تو اپنوں نے ہی ہماری جڑیں کاٹ ڈالیں مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا میری زندگی کو تماشاً بنا دیا۔“

زرینہ میری بہن تمہاری محبت قرض ہے۔“



گھس گیا۔ اس نے فروہ کو روئی کی مانند دھک کر رکھ دیا۔

”اریز چوہدری کون ہے؟“ رحمان نے فروہ کو بہت مارا زخمی کر دیا اور فروہ الف سے ی تک بتاتی چلی گئی۔ رحمان اپنی بار پھر اپنے بال نوچ رہا تھا دیواروں سے ٹکریں مار رہا تھا اب کی بار وہ بستر سے لگا تو اٹھ نہیں سکا جب بھی وہ فروہ کو دیکھتا چیخنے لگتا رونے لگتا عائشہ فروہ کو اس کے کمرے میں دھکیل دیتی۔ اس نفرت بھری زندگی سے تنگ آ کر ایک رات فروہ نے ڈھیروں نشہ آور گولیاں کھا لیں اگلی صبح وہ زندہ اٹھ نہیں سکی تھی۔

رحمان کی کر بناک چیخیں سننے والوں کا دل دھلا رہی تھیں اس گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی رحمان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے نا جائز ذرائع سے جیسے دولت اکھٹی کی تھی ویسے ہی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ ملتان والا گھر بھی اریز بیچ چکا تھا۔

رحمان کے پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہو گیا تھا چوٹ تو ذرا سی تھی، مگر شوگر کی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ رحمان کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت تھی عائشہ نے اپنا گھر بیچ دیا۔ (یہ گھر عائشہ کے نام تھا) حیرت کی بات تو یہ تھی کہ رحمان نے اپنے بیٹوں کے بجائے اپنی بیٹیوں کے نام جائیداد کر رکھی تھی۔ بہت لاڈلی تھیں۔ رحمان کی بیٹیاں، ہیرے موتیوں میں تولتا تھا وہ ان کو۔ عائشہ ایک چھوٹے سے کرایے کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی رحمان کا علاج معالجہ ہو رہا تھا۔

”وہ سعد جو تھا نا۔“ ایک دن رحمان کی ذہنی روح بھٹکی تو وہ سب کچھ عائشہ کو بتاتا چلا گیا عائشہ لبوں پر ہاتھ سختی سے دبائے فق ہوتی رنگت کے ساتھ سستی رہی۔

”میں کہتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔“ رحمان نے کتنا غلط کیا تھا کتنی چھوٹی اور غلط افواہیں اجالا کے بارے میں پھیلائی تھیں آج عائشہ کو پتا لگ گیا تھا۔

وہ ایک جامد چپ لبوں پر سجائے سب کے عتاب سہتی رہی اوہ میرے خدا۔“ عائشہ اجالا کے دل سے نکلی آہ نے مجھے کھا لیا۔

میں نے اجالا کو اس کے گرین ہاؤس سے در بدر کیا اور وہی گرین ہاؤس اپنی بیٹی عروہ کے نام کر دیا، کچھ باقی نہیں بچا نہ عزت نہ مال۔“ امن کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ اب کہ بار اس نے لبنی سے معافی مانگی تو لبنی نے اسے معاف کر دیا اب امن بھی نیہات کے کوچنگ سینٹر میں پڑھانے لگی تھی نیہات کو بی کام کے بعد بینک میں نوکری مل گئی تھی۔

ساری لڑکیاں اگلی کلاسز میں چلی گئی تھیں۔ زندگی رواں دواں تھی امن پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد ہو چکی تھی اس کے زندگی کی طرف لوٹنے میں فاخرہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا امن کو راہنما ملا، مسیحا ملا خدا نے اسے مزید بھٹکنے سے بچا کر صراطِ مستقیم پر چلا دیا۔

آہ..... فروہ بہت سارے دل توڑ کر ان ٹوٹے دلوں پر قدم دھرتی، مستی و خماری میں ڈوبی اپنا دل بسانے نکلی تھی۔ ایسے دل کہاں بسا کرتے ہیں جو خود غرض ہوں خود غرضی اور محبت کا کیا میل تال، محبت تو کائنات ہے پوری، محبت تو روح کو داغوں سے بچاتی ہے اللہ سے ملاتی ہے اپنے اصل سے ملاتی ہے، مگر فروہ آہ قصہ پارینہ بن گئی۔

”اللہ.....“ رحمان درد کی شدت سے کراہ رہا



نیہات نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے  
اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔

”پھوپھو آپ کے لیے سر پرانز ہے اٹھیے  
ابھی چلیے۔“ ایک دن وہ آیا تو اس نے جلدی مچا  
دی۔

اب وہ اسی گھر کے سامنے کھڑی تھی جہاں  
اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔

”یہ.....“ فاخرہ نے الجھ کر پوچھا۔  
”میں نے خرید لیا اب یہ گھر پھر ہمارا گھر ہے  
سعد مرتضیٰ اور اجالا کا گھر۔“

”مگر سعد نہیں ہے۔“ فاخرہ نے دیکھا نیہات  
رورہا تھا۔

”پھوپھو آئیے۔“ وہ اس کے کندھے پر بازو  
رکھے اسے اندر لایا تھا اور سیدھا گاڑن میں ہی  
چلا آیا زینہ اسے بتا چکی تھی کہ وہ گاڑن پر کتنی  
توجہ دیتی تھی۔

”پھوپھو میں سعد مرتضیٰ تو نہیں مگر آئی پر اس  
یوکہ میں اپنی پھوپھو کا مان اور میکہ ضرور بن کر  
دکھاؤں گا میں آپ کا بیٹا ہوں آپ میری ماں  
ہیں، آپ نے بہت عم اٹھائے ہیں اور ہم نے بھی  
درد کی ٹھوکریں کھائی ہیں بہت کسمپرسی کی حالت  
میں وقت گزرا ہے ہم سب مل کر ایک دوسرے  
کے غموں کا مداوا کریں گے۔ جو ہو اسے بھول  
جائیں۔“ نیہات نے سعد کے انداز میں فاخرہ کا  
چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر سر پر بوسہ دیا تو  
فاخرہ جی انھی۔

”کبھی رونا نہیں پلیز۔“ نیہات کتنی محبت سے  
اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔

”زینہ کو بھی اس گھر میں لانا وہ بھی تمہاری  
ماں ہے۔“

”جی ضرور انشاء اللہ..... اور پھوپھو کسی اور کو

تھا اس کی صدا واپس لوٹ آئی۔

ڈاکٹر نے رحمان کا انگوٹھا کاٹ دیا تھا وہ روتا  
چلاتا مگر اللہ اس کی نہیں سنتا تھا کیونکہ رحمان کفر بکتا  
رہا تھا اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھاتا رہا تھا۔

رحمان کا زخم ٹانگ میں سرایت ہونے لگا تھا  
اس کی ٹانگ گلتی سڑتی جا رہی تھی اس کی پیپ سے  
پیلی ٹانگ پر کھیاں بیٹھی تھیں بدبو کے بھبھکے اٹھتے  
تھے۔ عائشہ اس کے ساتھ لگی رہتی۔ احتشام اور  
ریان قریب بھی نہیں آتے تھے۔

ڈاکٹر نے رحمان کی پوری ٹانگ کاٹ دی  
تھی۔ پھر اس کی کمرینچے سے گلنا شروع ہو گئی۔  
اب تو رحمان میں بولنے کی سکت بھی نہیں رہی  
تھی۔

وہ چپت لیٹا رہتا بے جان مردوں کی طرح  
بہت ہفتے وہ اسی حالت میں پڑا کراہتا رہا ایک  
دن عائشہ نے بہت زور لگا کر فرقان کی مدد سے  
رحمان کو کروٹ دلوائی تھی۔ عائشہ کی چیخ بے  
ساختہ تھی رحمان کی کمر میں کیڑے اندر تک دھنسنے  
ہوئے تھے اور اتنی سڑاند آ رہی تھی کہ عائشہ تیورا  
کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی اس کا دل اس کی  
ناک بدبو سے بند ہو رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

نیہات نے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے وہ اپنا  
ذاتی مکان شہر میں لینا چاہتا تھا اس نے فاخرہ سے  
مشورہ کیا تو فاخرہ نے بھی اپنے اکاؤنٹ سے  
سارے پیسے نکلوا کر اسے دے دیے۔ وہ سب  
ایک فیملی بن کر اکٹھے رہنا چاہتے تھے۔ نیہات  
آج گھر دیکھ رہا تھا۔

نایاب لودھی نے نیہات سے معافی مانگی تھی  
نیہات کو اسی نے پٹوایا تھا کیونکہ اسے غلط نہیں ہو گئی  
تھی کہ اسے کالج سے نکلوانے والا نیہات ہے۔



لیک لیک کر اس کے گلے مل رہی تھیں۔  
 ”کیا کبھی سعد بھیا اور رائمہ بھابی کو میں بھلا  
 سکوں گی۔“ اس نے خود سے سوال کیا۔  
 ”نہیں کبھی نہیں، مگر اب مجھے اپنے بچوں کے  
 سامنے نہیں رونا، اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر  
 لیا۔

☆.....☆.....☆

فاخرہ اور زمان بچوں سمیت اس گھر میں  
 شفٹ ہو گئے۔ نہات فاخرہ کے کہنے پر زرینہ کو بھی  
 لے آیا تھا اس نے بھی ماں بن کر دکھایا تھا اصل  
 بات تو احساس کی ہے نازرینہ کا دل احساس سے  
 بھرا ہوا تھا۔ اس نے نہات اور ضویا کے نام کے  
 ساتھ اپنے باپ کا نام ضمیر لگایا تھا۔ اسکول کالج  
 میں بھی وہ اسی نام سے پکارے جاتے تھے ان کی  
 ڈگریوں میں بھی ولدیت کے خانے میں یہی نام  
 تھا۔

باپ جو ہوتا ہے وہی رہتا ہے۔ زندگی سے  
 کچھ بھی قیمتی نہیں اور زرینہ نے ان بچوں کی جان  
 بچانے کے لیے بلاشبہ بہت قربانیاں دی تھیں وہ  
 اس گھر کے مکینوں کے لیے بہت قابل احترام ہستی  
 تھی۔

ساری خوشیاں لوٹ آئی تھیں سب کچھ پہلے  
 جیسا ہو گیا تھا۔

”کیا واقعی سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا ہاں  
 مگر فاخرہ کے اندر کا ادھورا پن خالی دل۔“

روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے  
 زندگی کے رستے میں، بچھنے والے کانٹوں کو  
 راہ سے ہٹانے میں  
 ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں  
 خوشبو میں پکڑنے میں  
 گلستان سجانے میں

بھی آپ کی خدمت کے لیے یہاں بہو بنا کر لانا  
 ہے۔“

”کے.....“ اب وہ پتھر کی بیچ پر لیٹ کر  
 فاخرہ کی گود میں سر رکھ چکا تھا فاخرہ اس کے بالوں  
 میں ہاتھ پھیرتی اسے سعد کی باتیں بتاتی رہی  
 گزرے لمحوں بیتی گھڑیوں کو دھراتی رہی وہ  
 پورے دھیان سے ستارہا وہ بتاتی رہی ہر بات،  
 آنکھیں بھیکتی رہیں چھلکتی رہیں۔

”اچھا میں بھول جاؤں گی کون ہے وہ۔“  
 ”امن.....“ نہات کا چہرہ جگمگا اٹھا اور فاخرہ  
 کا ہاتھ جھٹکا کھا کر بالوں میں ساکت ہو گیا۔  
 ”پھپھو کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہو گئیں کیا  
 آپ کو امن پسند نہیں۔“

”امن مجھے بہت پسند ہے وہ میری بیٹی ہے  
 مگر مسئلہ تمہارا ہے۔“  
 ”ارے تو کیا میں آپ کو اپنی بیٹی کے لیے  
 پسند نہیں۔“ وہ ہنسا

ار سعد مرتضیٰ کے بیٹے کا طرف اپنے باپ  
 جیسا ہو تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے نہات پسند ہے۔“  
 پھپھو کیا مطلب۔“ وہ اٹھ بیٹھا۔

”پھر بتاؤں گی، ابھی تو میں اس خوشی کو پوری  
 طرح محسوس کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں  
 ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا سب ایک دوسرے سے  
 مل چکے ہیں اور میں اپنے گارڈن میں بیٹھی  
 ہوں۔“

”آپ یقین کریں پھپھو سب پہلے جیسا ہو گیا  
 ہے۔“

”اللہ کا شکر ہے اس ذات نے کرم کر دیا۔  
 اللہ سعد بھیا اور رائمہ بھابی کو جنت میں جگہ دے  
 ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے۔“ فاخرہ بھری آنکھوں  
 سے اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی یادیں



”میرا نام فاروق ترمذی ہے میں شاعر ہوں۔“ آج کل وہ بہت بول رہا تھا۔  
”وہ اجالا تھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والی۔“

”میرا کوئی گھر نہیں ہے میں نے اس کا گھر چھینا تھا وہ جو سراپا محبت تھی،  
”اس کی آنکھوں میں اتنی بے یقینی تھی اتنی بے یقینی کہ وہ بے یقین آنکھیں میرا قرار لوٹ کر لے گئیں میرا چین میری نیند سب ختم ہو گیا۔“  
”محبت بہت کرتا ہوں اس لڑکی سے بہت زیادہ۔“

”محبت مجھے ماردے گی، محبت مجھے ماردے گی۔“

وہ تڑپ رہا تھا اور اسے تڑپتے ہی رہنا تھا جب تک محبت اسے معاف نہیں کر دیتی کیا پتا محبت اسے معاف کرے نہ کرے، تب تک اسے یونہی آدھی ادھوری زندگی سکتے ہوئے گزارنی تھی اس نے کسی معصوم کے دل سے کھیلنے کا سنگین جرم کیا تھا وہ محبت کا مجرم تھا محبت کو اس کے گھناؤنے وجود سے گھن آتی تھی۔ وہ رلتا پھرتا تھا۔

فاخرہ اس دن نیہات کی پسند کا قیمہ مٹر پکا رہی تھی زرینہ اور بشیراں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھیں چھٹی کا دن تھا نیہات سارے لڑکے لڑکیوں کو گھمانے لے کر گیا ہوا تھا وہ تینوں خواتین کچن میں کاموں میں مشغول خوش گپیوں میں مگن تھیں۔  
”فاخرہ..... تبھی زمان نے آواز دی۔“

”جی آئی.....“ اس نے بشیراں کو سالن کا خیال رکھنے کو کہا۔

جب وہ زمان کے پاس پہنچی تو دیکھا عائشہ زمان کے پاس بیٹھی رو رہی ہے۔  
”سلام.....“ فاخرہ نے جھجک کر سلام کیا۔

عمر کاٹ دیتے ہیں  
عمر کاٹ دیتے ہیں  
اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں  
کیسی کیسی خواہش کو قتل کرتے جائے ہیں  
درگزر کے گلشن میں ابرین کے رہتے ہیں  
صبر کے سمندر میں..... کشتیاں چلاتے ہیں  
یہ نہیں کہ ان کو اس روز شب کی کاوش کا کچھ صلا نہیں ملتا

مرنے والی آسوں کا..... خون بہا نہیں ملتا  
زندگی کے دامن میں..... جس قدر بھی خوشیاں ہیں

سب ہی ہاتھ آتی ہیں  
سب ہی مل جاتی ہیں  
وقت پر نہیں ملتیں، وقت پر نہیں آتیں  
یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے  
لیکن اس طرح جیسے  
غرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے  
اصل جو عبادت ہو..... پس نوشت ہو جائے  
فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں  
ان کے صحن میں سورج..... دیر سے نکلتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

وہ اونچا لمبا خوبصورت مرد عجیب مجنونانہ سی حرکتیں کرتا تھا بولنے پر آتا تو گھنٹوں اولقول بولتا رہتا۔ خاموشی اوڑھتا تو دنوں خاموشی کی بکل میں چھپا رہتا۔

اسے بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی نفسیاتی دورے پڑتے تھے وہ روتا تھا اس کی رال بہنے لگتی تھی اس کا کوئی رشتے دار تھا یا نہیں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی وہ نجانے کتنے سالوں سے ایسے ہی ہسپتالوں میں دھکے کھاتا پھر رہا تھا۔



بن کر ماں بن کر سوچے گا کہ جب فاخرہ کے ہرنچے نے اپنے بچپن میں ماں کے کندھے پر سر رکھ کر چاندی راتوں میں پوچھا۔

”مما چاند میں ماموں ہونا ہے نا، مما چاند میں ماموں ہوتا ہے نا۔“

”مما ہمارا ماموں کہاں ہے۔“ فاخرہ بلکنے لگی۔

تب میرے دل پر کیسی قیامتیں ٹوٹتیں تھیں کیسا میرا دل کٹ کٹ کر گرتا تھا، ایک لمحے کے لیے اس کرب کو محسوس کرنا عائنہ محسوس کرنا۔“

محبت ہی تو کی تھی میں نے میری نیت صاف تھی، اور سزا اتنی طویل اتنی کھٹن کہ میں مر رہی جیتی رہی اور جیتے جی مرنے لگی۔“

”رحمان کو مایا کی اتنی طمع تھی کہ اس نے میرے بھائی کی جان ہی لے لی، میرا میکہ گھر اجاڑ دیا۔ ارے سعد مرتضیٰ کا ایک بوسہ جو وہ میری پیشانی پر مثبت کرتا تھا اس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا۔“

پوری کائنات کا سحر ایک طرف سعد مرتضیٰ کا بوسہ پھر بھی زیادہ قیمتی تھا، خدا بن گیا مجھ سے سب کچھ چھین لیا خود ہی نکاح کیا مجھ سے خود ہی طلاق دے دی پھر بھی سکون نہیں ملا تو اپنے اندھے بھائی سے نکاح کر دیا جو انتہائی کمزور مرد ثابت ہوا جس کی آنکھیں ہی اندھی نہیں دماغ کی ساری کھڑکس بھی بند تھیں جس نے جو کہا مان لیا۔“

”میری زندگی میں تین مرد آئے کسی کو مایا چاہیے تھی کسی کو میری تنخواہ چاہیے تھی سب نے میرے اندر کھٹن اور تشنگی پیدا کی کوئی میرا چہرہ دیکھتا کوئی میرا بدن ٹٹولتا تھا۔“

کسی نے بھی میرے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ دل میں کتنا درد کتنی تکلیف ہے کسی

”فاخرہ میں تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں رحمان کو معاف کر دو اس نے تم پر اور اس گھر پر جو بوجھ بھی مظالم کیے ہیں وہ سب مجھے بتا چکا ہے۔ وہ سعد اور رائمہ کا قاتل ہے۔“

”عائنہ بھابی یہ کیا کہا تم نے۔“ زمان ہکا بکا کہہ رہا تھا۔

”ہاں زمان بھائی حقیقت وہ نہیں ہے جو

رحمان نے ہم سب کو بتائی بلکہ.....“ عائنہ اب رحمان سے سنی ساری بات سنا رہی تھی اور زمان بچپنی سے پہلو بدل رہا تھا۔

”مگر رحمان تو کہتا تھا.....“ عائنہ نے زمان کی بات کاٹ دی۔“

”یکو اس کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا رحمان.....“

وہی فاخرہ کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ ہم سب نے زیادتیوں کی حد کر دی۔ زمان بھائی ہم سب ظالم ہیں۔“ آج فاخرہ کے سارے آنسو عائنہ رو رہی تھی۔

”میں رحمان کو چھوڑوں گا نہیں۔“ زمان کے اندر بھی جھرجھری لے کر غیرت بیدار ہوئی تھی۔

”وہ عبرت کا نشان بن چکا ہے اس کا بدن گلتا جا رہا ہے اس کے بدن میں کیڑے رینگتے ہیں۔“

خدا رسول ﷺ کا واسطہ فاخرہ رحمان کو معاف کر دو تاکہ اس کی جان نکل سکے۔“ عائنہ نے زمین پر

بیٹھ کر اس کے پاؤں جکڑ لیے فاخرہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر موت کا سا سکوت چھایا ہوا

تھا۔ فاخرہ نے عائنہ کو زمین پر سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔

”نہیں فاخرہ رحمان کو معاف نہیں کرے گی میں بھی رحمان کو معاف نہیں کروں گا۔“

”میں نے اسے معاف کیا میرا اللہ بھی اسے معاف کرے گا مگر عائنہ ایک لمحے کے لیے عورت



آزاد ہو گئی تھیں۔

☆.....☆.....☆

ایک دن جب نیہات اور فاخرہ جب گارڈن میں تھے شام کا وقت تھا صبا ان کو وہیں چائے دے گئی تھی۔ تب فاخرہ نے نیہات کو امن پر گزرے سانچے کا حرف حرف بتا دیا وہ سر جھکائے سنتا رہا اس کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔

”اب بتاؤ بیٹا.....“ فاخرہ نے اس کا چہرہ نگاہوں کی گرفت میں لے کر پوچھا۔  
”پھپھو مجھے ہر حال میں امن سے ہی شادی کرنی ہے۔“ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔

”سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بیٹے ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کر لو بعد میں مخصوص مردانہ تنگ دلی تمہاری محبت کو کھا گئی تو امن کی تو زندگی برباد ہو جائے گی نا۔“

”نہیں پھپھو ایسا کبھی نہیں ہوگا میرا یقین رکھیں۔“

”بیٹا ایک بات یاد رکھنا عورت کی فطرت محبت کے معاملے میں بچے کی سی ہوتی ہے جو صرف محبت سے بہلتا ہے بس محبت محبت بہت زیادہ محبت، کبھی اسے ماضی کا طعنہ مت دینا میری بیٹی کو بہت پیارا اور اعتماد دینا عورت کو صرف تحفظ اور محبت چاہیے ہوتی ہے صرف محبت، امن کو بہت جتنوں سے میں نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔“

”پتا ہے امن کہتی ہے آئی آپ میرے لیے سانشا کلاز ہیں۔“

”سانشا کلاز..... نیہات نے استفہامیہ ابرو اچکائے۔

”سانشا کلاز ایک Image ایک تصور، جو کہ کرس کے موقعوں پر بچوں کے لیے تحائف لاتا ہے ان کے لیے خوشیاں ڈھونڈتا تھا ان کی

نے بھی میرے غم میرے درد کو اپنی محبت و اپنائیت سے بہاؤ کا راستہ نہیں دیا۔ میری تکلیف کو سب نے بڑھایا کسی نے بھی باہر نہیں نکالا.....“ آج وہ دونوں مل کر رو رہی تھیں۔

”فاخرہ میں بہت شرمندہ ہوں۔“ زمان بولا۔

”اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب۔“ فاخرہ نے بے دلی سے کہا۔

”میں نے رحمان کو معاف کیا اللہ بھی اُسے معاف کرے گا۔“

☆.....☆.....☆

اللہ کا فرمان ہے کہ میں انے حقوق معاف کر دوں گا مگر حقوق العباد میں جو ظلم کسی نے کسی پر ڈھایا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا ظلم کرنے والے کو میں بھی معاف نہیں کر سکتا۔“

رحمان مر گیا۔ اس کے بدن سے اتنے بدبو کے بھکے اٹھ رہے تھے کہ کوئی اسے غسل دینے کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا نیہات نے چند دوسرے لوگوں اور فرقان کی مدد سے غسل دیا تھا۔

اریز چوہدری بیاہدانی کو ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ کسی نے اس کے کزن کو مخبری کر دی ان کا پیچھا کیا گیا اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ چھاپہ مارا گیا تو وہاں سے بہت ساری عورتیں اور بچے ملے تھے وہ بچوں اور عورتوں کی سپلائی کا کام کرتے تھے۔ جرائم پیشہ گروہ سے عروہ بھی برآمد ہوئی تھی ہاں جویریہ اور اس کے بچوں کا کچھ پتا نہیں چل سکا تھا۔

اریز اور نایاب کی لڑائی ہو گئی تھی نایاب ان کا راز دار تھا شہر کی امیر اسامیوں کے بارے میں معلومات دیتا تھا آج مخبری بھی اسی نے کی تھی۔ اس کا سرغنے تو ہاتھ نہیں آیا تھا مگر لڑکیاں



امت مسلمان کی بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے آسمانوں کو بغیر سہارا کھڑا کرنے والے رب، تجھے تیری واحدانیت کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو فاطمہ الزہرہ جیسا کج ویسی شرم و حیاء عطا فرماتا کہ ان کے بطنوں سے بیٹے پیدا ہوں۔“

فاخرہ کی آواز میں سوز تھا۔ گریہ زاری تھی پیچھے آئین آئین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔

”اے اللہ! تجھے تیری کبریائی کا واسطہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ شیطانوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا کر دے۔ آئین کی صدا میں بلند ہوئی سسکیاں گونج رہی تھیں۔

”دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے ہم پر ہماری اولاد پر کل امت مسلمان پر اپنا رحم اپنا کرم نازل فرما۔ تیرا عتاب سہنے کی تاب نہیں میرے اللہ محمد ﷺ کے رب ہمیں معاف فرما دے۔“

ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ، تجھے تیری بڑائی کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم تجھے بھول گئے اپنے اصل کو بھول گئے اللہ تو اپنی نظر ہم پر رکھنا ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں گناہوں سے بچالے۔“ آئین کہتی کہتی عروہ کی ہچکیوں نے کھلھی باندھ رکھی تھی۔

”تم حقیقتاً اجالا ہو دوسروں کی زندگیوں میں اجالا کر دینے والی۔“

زمان دور کھڑا رو رہا تھا۔ یہ اجالا کا طرف تھا کہ اس نے سارا خاندان ایک جگہ اکٹھا کر دیا تھا۔ آج گارڈن میں ایک ایک پھول مسکرا رہا تھا اور دورانق پر چاند میں سعد مرتضیٰ کا پر نور چہرہ مسکرا رہا تھا۔

(اس خوب صورت ناولٹ

For Next Episodes Visit

Paksociety.com

دوسرے سیزن 126

زندگی کے اندھیروں میں کرن بن کر جگمگاتا جینا سکھاتا تھا۔ جینے کی راہ کھاتا تھا..... ہاہ پگلی، میں تو زندہ حقیقت ہوں کوئی تصور تھوڑی ہوں۔“

”واؤ، فنفاٹک.....“ نیہات نے تو صنفی انداز میں ہونٹ سکیڑے۔

”خلیل جبران نے شاید مردوں کے لیے ہی کہا ہے کہ اگر تیرا دل کوہ آتش فشاں ہے تو تیرے ہاتھوں میں پھولوں کو کیسے تروتازہ رہنے دے گا۔“

”لڑکیاں تو پھول ہوتی ہیں ان کو بہت محبت سے رکھنا چاہیے۔ سخت گیر مرد اپنی بیویوں کو تروتازہ نہیں رہنے دیتے مر جھا جاتی ہیں تم امن کو پھول سمجھنا۔“

”او کے جناب آپ کی بیٹی کو مابدولت پھولوں کی طرح رکھیں گے۔“ نیہات نے سر تسلیم خم کر دیا۔ ”مجھے یقین ہے۔“

☆.....☆.....☆

عائشہ دو ماہ سے مکان کا کرایہ نہ دے سکی تھی، مالک مکان نے اسے گھر سے نکال دیا۔ یہاں بھی ایک بار پھر فاخرہ آگے بڑھی اور اس فیملی کو اپنے گھر لے آئی وہ جانتی تھی کہ دل بڑا کرنے سے رزق بھی کشادہ ہو جاتا ہے عائشہ اور عروہ کا سر ہی نہیں دل بھی فاخرہ کے سامنے جھک گیا تھا۔

گارڈن میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ سب خواتین اور لڑکیاں عشاء کی نماز پڑھ چکی تھیں۔ فاخرہ اور وہ سب رات کے اس روز اجتماعی دعا مانگا کرتی تھیں۔

فاخرہ دعا مانگتی باقی سب آئین آئین کہا کرتی تھیں۔ فاخرہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، درود شریف پڑھا۔

”اے اللہ اے دو جہانوں کے مالک کل

READING  
Section



## افسانہ فوزیہ غزل

# جانم سمجھا کرو

”شٹ اپ بد زبان عورت۔“ احمر کا پورا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر پانچ انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے وہ یک ٹک چہرے پہ ہاتھ دھرے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ”سچ تو یہ ہے تم نے اس گھر کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھا تم نے میری ماں کو اپنی ماں کے بجائے.....“

ٹھنڈی طبیعت کی وجہ سے گھر سنبھلا ہوا ہے ورنہ تم جیسی عورتیں تو منٹ نہ لگائیں گھر اجاڑنے میں۔“

احمر کے دل کی تمام تر تلخی لفظوں میں سمٹ کر صبا کی سماعتوں میں سیسہ انڈیل گئی۔

”میں گھر اجاڑنے والی ہوں تو بسانے والی لے آؤ۔ ایک یہ ہی تو حسرت ہے تمہارے دل میں اول روز سے تمہیں میرا وجود ناگوار گزرا ہے۔ تم نے مجھے بیوی سمجھا ہی نہیں اور تمہاری ماں اس نے تو مجھ سے سوتنوں والا رویہ رکھا ہے۔“

”شٹ اپ بد زبان عورت۔“ احمر کا پورا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر پانچ انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے وہ یک ٹک چہرے پہ ہاتھ دھرے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔

”سچ تو یہ ہے تم نے اس گھر کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھا تم نے میری ماں کو اپنی ماں کے بجائے ساس سمجھا بڑھاپے کے باوجود وہ اپنی استطاعت بھر کام کرتی ہیں پھر بھی تمہیں بری لگتی ہیں مگر ایک

”بس بہت ہو چکا اب اس سے زیادہ برداشت کی مجھ میں تاب نہیں میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے سارے زمانے کو خوش کرنے اور خود اذیت اٹھانے کا۔“

”پلیز صبا تم سمجھنے کی کوشش کرو، بے شک امی زبان کی تیز ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں۔ تم تھوڑا لچک کا مظاہرہ تو کرو۔“

کیوں آخر کیوں میں ہی کیوں جھکوں ہر وقت کی روک ٹوک، اٹھتے بیٹھتے طنز، آنے جانے پر پابندی ہر کام کرنے پہ سوسو باتیں بناتی ہیں بڑی بی کیا کرایا مل جاتا ہے ناں سب کچھ، اس لیے باتیں بھی آ جاتی ہیں آج اگر میں چلی جاؤں تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے ان کو۔“

صبا کے کٹیلے لہجے نے احمر کے جسم میں انکارے بھر دیے۔

”ہاں تو جانے کا شوق ہے تمہیں یہ بھی پورا کر لو۔ آخر تمہارے اس گھر میں آنے سے پہلے بھی سب کچھ چل رہا تھا یہ امی جان ہی ہیں جن کی



گا اگر تم خود آنا چاہو تو یہ سوچ لینا کہ رہنا اسی گھر میں ہے۔ ادب اور تہذیب و اخلاق کے دائرے میں ورنہ ہمارے راستے الگ ہوں گے، احرار نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے خبردار کیا۔

”ہونہہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کون کس کی مانتا ہے اور کتنے پانی میں ہے۔“ اسے چیلنج کرتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔

روڈ پہ آتے ہی اُسے ٹیکسی مل گئی اپنے میکے کا راستہ بتا کر پریشان خیالی سے توجہ ہٹانے کو وہ باہر کے مناظر میں خود کو گم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔

یہی راستے تھے جن پر سے گزرتے ہوئے اس نے میکے سے سسرال تک کا فاصلہ طے کیا تھا۔

اور ایک نیا نیا اصل زندگی کا آغاز کیا تھا اور آج

بات کان کھول کر سن لو میں اپنی ماں کی نافرمانی اور تضحیک برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اپنا رویہ درست کر لو میں الگ گھر فوراً نہیں کر سکتا۔

”مگر مجھے اس گھر میں ایک منٹ نہیں رہنا، اگر تمہیں اپنا گھر اور ازدواجی زندگی عزیز ہے تو مجھے الگ گھر چاہیے ورنہ میں واپس نہیں آؤنگی۔“

اس نے خود سر لہجے میں تیر چلاتے ہوئے اپنی چادر اوڑھی اور باہر کے دروازے کا رخ کیا۔

”ایک بات غور سے سن لو اگر تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی تو پھر واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ میں نہ تو تمہیں بلاؤں گا نہ بیٹے آؤں





یہی راستے واپسی کا سفر کرتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔

لگی تھیں جو ضبانے خود ہی ہاتھ مار کر گرایا تھا اور عتاب کا نشانہ بھی وہ بنی تھیں۔

اسی طرح کے عذاب میں زیبا بھابی پستی رہیں وہ تو بھلا ہوا زیتون خالہ کا کہ انہوں نے اپنے جاننے والوں میں صبا کی بات کر کے ان کے عذاب میں کمی کر دی۔ احمران دنوں بینک میں اسٹنٹ مینیجر تھا تنخواہ بیس ہزار انتہائی پرکشش پرسنلٹی مناسب خدو خال، دراز قد اور پر وقار شائستہ انداز گفتگو یہ وہ صفات تھیں احمر کی جنہوں نے اکرام اللہ اور شگفتہ بیگم کو بھی پہلی ملاقات میں متاثر کر دیا۔

ان کے لیے سب سے زیادہ باعث اطمینان بات احمر کا اکلوتا ہونا تھا۔ باپ ٹریفک حادثے میں وفات پا چکا تھا اور ماں جو کسی زمانے میں سکول ٹیچر تھیں انہوں نے اپنی محنت و مشقت سے احمر کو پروان چڑھایا اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر تمام تربیت حسن کے پہلوؤں سے آراستہ کیا اور احمر کو ایک پراعتماد شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کیا شادی سے پہلے تو احمر اور اس کی والدہ کو صبا بہت اچھی لگی معصوم، خوبصورت، نازک اندام اور خوش اخلاق مگر شادی کے پہلے مہینے میں ہی اس کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے۔ دن کے گیارہ بجے تک لیٹے رہنا اس کی روٹین تھی جس میں شادی کے بعد بھی فرق نہ آیا گیارہ بجے اٹھنے کے بعد وہ ہاتھ کے لیے تیار ہوتی پھر احمر کی والدہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور ناشتے کے بعد وہ اپنی امی کو فون کرتی یا پھر کسی فرینڈ کو اور پھر احمر کو اس عمل میں دو گھنٹے صرف کر کے وہ ٹی وی لاؤنج کا رخ کرتی، ڈی وی ڈی لگا لیتی یا کیبل کے پروگرام دیکھتی یونہی دن ڈھل جاتا اور ساس شام کے کھانے کی تیاری میں اکیلی لگی ہوتی۔

جب احمر سے اس کی شادی ہوئی تو وہ بی بی اے کی سٹوڈنٹ تھی اور ابھی گھریلو ذمہ داریوں سے نبر آزما ہونا اس نے سیکھا بھی نہ تھا گھر میں تو ہمیشہ بھابی تمام کام کیا کرتی تھیں اسے نہ تو گھریلو کام کاج سے دلچسپی تھی نہ وہ اس کی ضرورت سمجھتی تھی بڑی بہنیں قریب میں بیاہی گئی تھیں اور ہفتے میں دو چکر لازمی ان کے گھر لگا کرتے ہمراہ شوہر بھی ہوتے اور بھابی کچن میں اکیلی لگی رہتی رشتے دار بھی کافی تھے کچھ امی کو دوستیاں بڑھانے اور ملنے ملانے کا خیال رہا کرتا تو ہر روز مہمان نوازی کا سلسلہ چلتا پھر مشروبات، چائے قیام و طعام کا طویل دور۔

بھابی بیچاری ہلکان ہو جاتیں امی کبھی جھوٹے منہ بھی نہ کہتیں کہ صبا بھابی کے ساتھ کچھ کروادو ویسے بھی ان کے خیال میں یہ ہی تو اس کے آرام کے دن تھے بلکہ گلہ ٹیلیفونک فرینڈ شپ، پارٹیز یہ سب اور پڑھائی اتنا کچھ کرنے کے بعد صبا کے پاس ٹائم ہی کہاں بچتا تھا کہ کچھ کرتی، اتنا کچھ کر کے وہ تھکن کا شکار ہو جاتی تھی اور پھر اس کے ہفتے کا بیڈریسٹ پکا ہو جاتا اور ایسے میں جو بھابی سے اس کی ناز برداری میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو پھر امی کی جوتی اور بھابی کا سروالی مثال صادق آتی۔

”تم کیوں چاہو گی کہ بچی صحت مند ہو۔ ارے بھابھیاں کہاں دیکھ سکتی ہیں کہ نندوں ذرا آرام سکون ملے۔ ارے کیسی نازوں پللی بچی میری پل میں مرجھا گئی۔ جانے کس ڈائن کی نظر کھا گئی۔ (اشارہ صاف بھابی کی طرف تھا) مگر وہ ان سنی کر کے فرش سے وہ دودھ صاف کرنے میں



کے کپڑے دھو کر لگنی یہ پھیلائے جبکہ صابرہ بیگم کے کپڑے وہیں چھوڑ سٹیہیلی کا فون سننے لگی آدھ گھنٹہ باتوں میں لگا کر کیبل پر مووی دیکھنے لگی اور کھانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔

احمر لنچ ٹائم میں آفس سے آیا تو صحن میں قدم رکھتے ہی اس کی پہلی نظر اپنی اماں پہ پڑی جو اپنے کپڑے اور بستر کی چادر دھور ہی تھیں اور دوسری طرف نظر لاؤنج میں میک اپ زدہ چہرے اور زبردست فننگ کے جدید تراش خراش کے سوٹ میں چسپ کھاتی نئی انڈین مووی دیکھتی صبا پر۔

”امی آپ خود کام کر رہی ہیں صبا کہاں ہے وہ دھو دیتی آپ کے کپڑے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر انہیں اٹھایا۔

”بیٹے اس نے اپنے اور تمہارے کپڑے دھو لیے تھے۔“ صابرہ بیگم یہ کہہ کر چپ ہو گئیں، تو پھر کیا ہوا آپ کے بھی دھو لیتی جب آپ کی بہو موجود ہے تو آپ کام کیوں کر رہی ہیں۔“

مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اب اس عمر میں بھی آپ اپنے کام خود کریں اس نے محبت سے ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔

نہیں بیٹا یہ کون سا بڑا کام ہے ویسے بھی تو اب عادت سی ہو گئی ہے آج نہ دھوؤں تو کل دھونے پڑیں گے انہوں نے یاسیت بھرے لہجے میں کہا۔

”کیا مطلب میں سمجھا نہیں۔“ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔

”بیٹا! اپنے کپڑے خود ہی دھوتی ہوں کیونکہ صبا تمہارے اور اپنے کپڑے دھو کے ٹی وی لاؤنج میں چلی جاتی ہے میرے کپڑے یونہی پڑے رہ جاتے ہیں اس لیے میں دھو لیتی ہوں، اور یہ وہ بات تھی کہ جس نے احمر کو چراغ پا کر دیا اس نے

گھر کے کسی کام سے کوئی غرض نہ تھی صفائی ستھرائی کس کی ذمہ داری ہے کچن کون سنبھالتا ہے آئے گئے کی خاطر مدارت کون کرتا ہے اس کا کام بس عیش و آرام اور تفریح تھا۔

احمر لنچ ہمیشہ ہی کرتا تھا اور شادی کے بعد بھی یہ روٹین قائم تھی وہ دیکھتا تو سب تھا مگر کہتا نہ تھا آہستہ آہستہ جب شادی کے دو تین ماہ گزر گئے اور صبا نے گھر میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو احمر نے اسے گھر کے کاموں کی جانب راغب کرنا شروع کر دیا۔ مارے باندھے بہانے گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا مگر جلد ہی وہ اس ناگوار ذمہ داری سے اکتا گئی اور اس نے گھر کے کاموں سے ایک بار پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ جبکہ دھان پان سی صابرہ بیگم خرابی طبیعت کے باوجود جتنی رہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ سب احمر کو ناگوار گزرتا کہ جوان بیٹے اور بہو کے ہوتے وہ اپنی ہمت استطاعت سے بڑھ کے کام کرتیں تھک جاتیں تو وہ صبا کو بھی ٹوک دیا کرتیں اور یہ سب صبا کی برداشت سے باہر تھا۔ اسے روک ٹوک سننے اور کام کرنے کی عادت نہ تھی جبکہ احمر اور اس کی والدہ کو اس کا فارغ بیٹھ کے فون سے چٹے رہنا اور موویز دیکھنا پسند نہ تھا اور اکثر اسی بات پر ان کا جھگڑا رہنے لگا حالانکہ دیکھنے کو یہ بہت چھوٹی بات تھی اور صبا کے لیے یہ سب کرنا مشکل بھی نہ تھا مگر پھر بھی اسے تین انسانوں کا ناشتا، کھانا، کپڑے دھونا، عذاب لگتا تھا اب تو احمر نے برتن مانجھنے اور جھاڑو صفائی کے لیے ماسی بھی رکھ لی تھی پھر بھی صبا کو صرف اپنے اور احمر کے دھوتی صابرہ بیگم کے کپڑے یونہی پرے رہ جاتے وہ خود دھوتیں۔

آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا اپنے اور احمر



جھٹکے سے لاؤنج میں بیٹھی صبا کو اٹھایا اور گھیٹتا ہوا صحن میں لایا اور شدید غصے میں بولا۔

”جب میں نے سو بار بکو اس کی ہے کہ امی کے کام تم خود کیا کرو تو پھر تم پر اثر کیوں نہیں ہوتا“ تو خود ہی تو کرتی ہوں آج اگر انہوں نے ایک سوٹ دھولیا تو کون سی قیامت آگئی۔

”بات قیامت کی نہیں صرف احساس کی ہے اگر میری ماں کی جگہ تم خود اپنی ماں کو رکھو تو کیا پسند کرو گی تمہاری ماں اس عمر میں اپنے کام خود کریں۔“

”میری ماں کو ضرورت نہیں ہے ان کی بہو موجود ہے سب کچھ کرنے کے لیے۔“ اس نے کروفر سے کہا۔

”اور تم، تم خود بھی کسی کی بہو ہو اپنے متعلق کیا رائے ہے تمہاری۔“

احمر کا طنز یہ لہجہ اسے جلا گیا۔

”میرا کسی سے موازنہ مت کریں میں زر خرید لوٹدی نہیں ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا کام کو مجھے عادت نہیں ہے ایسے کاموں کی اور رویے کی۔ ایسے نخرے اٹھانے کی۔ گھر شوہر اور ساس کو اپنا سمجھو برداشت اور نرم طبیعت پیدا کرو خود کو خوش رکھنے اور گھر کو سکون دینے کی کوشش کرو۔ اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ اور یہ ہی وہ بات تھی جو صبا کو ناگوار گزری۔ احمد نے تنبیہ کی۔

”بس بہت ہو چکا میں نے شیکہ نہیں لے رکھا ہے سارے زمانے کو خوش کرنے اور اذیت اٹھانے کا۔

ور پھر دونوں کی دو بدولٹائی میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس نے گھر چھوڑ دیا۔

”باجی آپ کا گھر آچکا ہے۔“ پٹھان ٹیکسی

ڈرائیور کی آواز اسے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ لائی اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر پیچھے رہ جانے والے راستے کو دیکھا اور نیچے اتر کر پرس میں ہاتھ ڈالا جتنے پیسے آئے بغیر گئے ڈرائیور کے ہاتھ پہ رکھے اور آگے بڑھی۔

”ارے باجی باقی پیسے تو لے لو ڈرائیور کی آواز ان سنی کرتے وہ تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی۔

گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بھابی پر پڑی جو فون پر بڑے خوشگوار لہجے میں کسی سے بات کر رہی تھیں۔ وہ بھاگ کر تخت پر لیٹی امی سے لپٹ گئیں۔ بھابی نے خاصے ناگوار انداز سے اس ملاپ کو دیکھا۔ اور اس کے سلام کا جواب بھی شاید منہ میں ہی دیا کہ وہ سن نہ پائی اور پھرٹی وی لاؤنج میں گھس گئی۔

انہیں اس بات سے غرض نہ تھی کہ صبا کتنے عرصے بعد آئی ہے امی کھانا کھلانے اسے کچن میں لائیں تو وہ دہیں بیٹھ کے اپنی کتھانے لگی۔ تمام رام کہانی سننے کے بعد اسے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے امی نے زبردستی اسے کھانا کھلایا اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لے آئیں۔

شام کو اویس بھائی آفس سے لوٹے تو بھابی اپنے میکے جانے کے لیے تیار تھیں۔ کھڑے کھڑے صبا کی خیریت پوچھی اور انہیں لے کر چلے گئے۔

”امی یہ بھابی کیسی ہو گئی ہیں خود سر اور بد تمیز اور بھیا بھی کتنے بیگانے لگتے ہیں صبا کا دل دکھا تو امی سے شکوہ کیا۔

”ہاں جب سے تمہارے ابو کی وفات ہوئی ہے یہ تبدیلیاں از خود آئی گئیں زنیہ اپنے میاں



### خوبصورت دعا

اللہ کرے اگلے سال آپ اور آپ کے  
گھر والوں کے ہاتھوں کو غلافِ کعبہ پکڑنا  
نصیب ہو۔

آپ کے ہونٹوں کو ہجرِ اسود کا بوسہ  
نصیب ہو۔

آپ کے قیام، آپ کے رکوع، سجدوں  
اور عبادتوں کو مسجد حرام کا فرش نصیب ہو۔

جب لبِ بر درودِ پاک ہو تو سامنے  
روضہ رسول ﷺ ہو۔ وہاں مانگی آپ کی ہر  
دعا قبول ہو۔

حسن انتخاب: رازِ عدن۔ بحرین

جائیں گے۔

”مگر کیوں امی! آپ احتجاج کریں۔“

”جب بہو میں خود سر ہو جائیں تو کچھ کہنا  
صرف اپنی بے عزتی کو دعوت دیتا ہے۔“ شگفتہ  
بیگم کی بات اسے یکدم ساکت کر گئی۔ کچھ اسی سے  
ملتے جلتے الفاظِ صابرہ بیگم نے بھی تو کہے تھے احمد  
کی کہی بات کے جواب میں۔

”مگر نہیں انہیں تو عادت ہے یونہی بیکار بے  
تکا بولنے کی بھلا میرا اور زیبا کا کیا مقابلہ۔“ (واہ  
رے زمانے تیرے انداز اپنے لیے کچھ اور کسی  
کے لیے اور)

”امی آپ مجھے بات تو کرنے دیں وہ ہوتی  
کون ہے ایسا کرنے والی۔“

”جب فائدہ ہی نہیں تو رہنے دو بس۔“

امی کے مجبور کرنے پہ وہ خاموش ہو گئی جبکہ  
بھابی خلاف توقع دوسرے دن ہی آ گئیں۔ موڈ  
وہی روکھا پھیکا سرسری سی بات چیت کی بچوں کو  
ٹیوشن کے لیے بٹھایا خود کچن میں مصروف۔ وہاں

کے ساتھ کراچی چلی گئی۔ سال کے سال بھی  
بمشکل چند دنوں کے لیے آتی ہے اور ثنا اس کو  
اپنے گھر کے بکھیڑوں اور بچوں سے فرصت نہیں  
ملتی پھر تم بھی نہ آتیں آہستہ آہستہ زیبا نے سب  
کام چھوڑ دیے، دیکھو پہلے بھرے پرے گھر کا کام  
خود کرتی تھی اور اب کل تین نفوس ہیں مگر بیگم  
نازک مزاج ہو گئی ہیں۔

اولیس تو اب خود بیوی کا دم بھرنے لگا ہے  
اسے سب کو تاہیاں ہماری نظر آتی ہیں جانے اس  
ناگن نے کیا جادو کیا ہے کہ بالکل بدل کر رہ گیا  
ہے آفس جاتے ہوئے نہ پہلے کی طرح سلام  
کرنے آتا ہے نہ آ کے پاس بیٹھتا ہے صبح گیٹ  
تک وہ چھوڑنے جاتی ہے اور شام کو بیوی کو لے  
کر سیر سپاٹے پہ نکل جاتے ہیں یا کھانا کھا کر  
کمرے میں بند ہو جاتے ہیں کپڑے دھونے کے  
لیے نوکرانی آتی ہے مگر وہ صرف بہو بیگم کے  
کپڑے دھوتی ہے میرے نہیں یہ تو دونوں بازار  
جاتے ہیں کھانا کھانے بچوں کو گھمانے کے بہانے  
اور میں اکیلی اپنے لیے پکاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے  
رونے لگیں۔

”یہ تو غلط ہے سراسر زیادتی ہے اور نا  
انصافی۔ اتنے عرصے سے یہ سب ہو رہا ہے اور  
آپ نے مجھے بتایا نہیں حالانکہ میں روز فون کرتی  
رہتی تھی خیر اب بھیا آ جائیں پوچھتی ہوں اور بہو  
بیگم کی ایسی لگا میں پچھتی ہوں کہ سر اٹھانا بھول  
جائے گی۔“

”نہیں تم کچھ مت کہنا حالات اب بس میں  
نہیں رہے اولیس صرف بیوی کا دم بھرتا ہے، کسی  
کی نہیں سنتا اور زیبا بھی پہلے جیسی دبا اور ڈر پوک  
نہیں رہی تو کچھ کہہ سن کے بات گوانے کا کیا  
فائدہ۔ زندگی کے چار دن ہیں روتے دھوتے گزر



مجال ہے جو ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی اٹھالے  
اس نے مجھے لوہے کے چنے چبوا دیے۔

بیاہ کر بھی جان نہ چھوڑی پہلی دونوں دور  
گئیں تو ذرا سانس ہلکا ہوا پھر یہ سر پر سوار اور  
چونچلے سنو جو کچھن میسکے میں وہی سسرال میں کتنا  
برداشت کرتے آخر تک بڑنے لگے مگر لاڈلی بیگم  
نے اپنے اطوار نہ چھوڑے گھر چھوڑ آئیں۔

بھابی بہن کے ساتھ مصروف گفتگو تھیں وہ جو  
ان کی بہن سے سلام دعا کرنے کی غرض سے  
آ رہی تھی ٹھٹھک کر دروازے کے باہر ہی رک  
گئی۔

”مگر یہ سب آپ کو کیسے پتا چلا، اس نے تو  
کچھ بتایا نہیں ہوگا، بہن بولی۔

”ارے کھنی میسنی ہے خود سے کچھ نہیں پھوٹی  
وہ تو میری ایک دوست کی بہن اسی محلے میں بیاہی  
ہوئی ہے اس سے سب پتا چلا ہے بلکہ وہ تو بتا رہی  
تھی احمد کا ضبط آخروں حدوں پہ ہے ذرا اور چھلکا  
تو طلاق ہو جائے گی۔“

”واقعی معاملہ اتنا بگڑ گیا گیا۔“

”اس سے بھی زیادہ مجھے تو نندیں اور ساس  
باتیں سناتی تھیں کہ گھر بسانے اور بنانے کا سلیقہ  
طریقہ نہیں بیٹی تو اپنی تھی اسے کیوں نہ سب  
طریقے سلیقے سکھا دیے وہ کیوں نہ بسنے والے گن  
خود میں لاسکی ارے میری طرح سب برا بھلا سہتی  
اور رہتی تو مانتی اچھے گنوں والی گھر بساتی ہیں نہ کہ  
اجاڑتی ہیں میرے سامنے تو تین نندیں ساتھ  
ساس بھی مقابلہ پر۔“

وہاں تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ زیبا بولی۔

”بس پاجی ہر کوئی آپ کی طرح گھر بنانے  
والی نہیں ہوتی۔“

صبا کے دل و دماغ میں جیسے آندھیاں سی چل

سے فارغ ہو کے نہا دھو کر تیار ہوئیں اور ٹیرس پر  
شہلنے لگیں۔

صبا کو بہت تیز بھوک لگی ہوئی تھی بھوک ویسے  
بھی اس سے برداشت نہ ہوتی تھی وہ کچن میں  
آئی۔ بریانی، شامی کباب، وہی کاراستہ، کڑاہی  
گوشت، تیار دیکھ کر اس کی بھوک اور بھی تیز ہو گئی  
اس نے پلیٹ میں بریانی ڈالی اوپر ایک کباب  
رکھا اور ذرا سا راستہ ڈالا اور ابھی پہلاناوالہ منہ میں  
گیا تھا کہ بھابی پلیٹ پر چیل کین طرح جھپٹیں۔

”میری بہن اور بہنوئی آرہے ہیں یہ سب تو  
میں نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اتنی گرمی اور  
تپش میں لگی رہی خود چکھ کر بھی نہیں دیکھا اور تم  
بھوکوں کی طرح شروع ہو گئی تمہاری ماں کی  
پرہیزی والی مونگ اور چاول پکے ہیں وہی تم کھا  
لو۔“ وہ سخت لہجے میں کہتی نکل گئیں۔

صبا کتنی دیر بے یقینی کے عالم میں بیٹھی رہ گئی  
اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ وہی بھابی ہیں جو بے  
زبان گائے لگا کرتی تھیں اور سارا گھر انہیں بے  
طرح کوستا، جلاتا تھا مگر وہ منہ سے لفظ تک نہ نکالتی  
تھیں اور اب بولنے پر آئیں تو کسی کو کچھ کہنے کے  
قابل نہ چھوڑتیں۔ کیا یہ اس کا اپنا عکس نہیں تھا جو  
نظر آ رہا تھا مگر دماغ سمجھنے سے قادر نہ تھا۔

”بس کیا بتاؤں تم چپ ہی رہنے دو تو اچھا  
ہے پہلے تینوں چڑیلیں سر پر سوار رہیں چھوٹی  
ڈائن ساس مل جانی۔ بیاہ دیا ایک ایک کر کے کچھ  
سکون ملے مگر سکون نصیب میں تھا ہی نہیں تو ملتا  
کیسے ہر تیسرے دن پھر جیلر کی طرح موجود اور  
میں پہلے سے بھی تنگ شوہر تھے تو وہ ماں بہنوں  
کے دباؤ میں مجبور بس قیدی اور میں صبر پہ صبر کیسے  
جاتی مگر کتنا تیسری محترمہ سے چھٹکارا سب سے  
مشکل ضدی، نازک مزاج اور خود سر فیشن زدہ



”احمر میں تیار ہوں گھر آنے کو آپ مجھے ابھی لے جائیں۔“

”مگر اس گھر میں کچھ نہیں بدلا تمہیں گھر بسانے کو اس گھر کا فرد سمجھ کے سب کو اپنانا ہوگا اور سب کو خوش رکھنا ہوگا احمر سنجیدگی سے بولا۔“

”میں سب کروں گی کیونکہ مجھے میرا گھر اور گھر کی خوشی بہت عزیز ہے اور میں اپنے گھر اپنے پیاروں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔“ وہ بھر آئی آواز میں بولی۔

”ایک بار پھر سوچ لو سمجھ لو کیونکہ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ احمر بولا۔“

”احمر میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور میرے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں۔“

”ٹھیک ہے میں آفس سے واپسی پر تمہیں لے لوں گا۔ آواز میں ہنسی شامل تھی۔“

وہ فون بند کر کے مڑی تو زیبا بھابی اور امی کھڑی تھیں۔

”بہت اچھا، بروقت اور درست فیصلہ کیا ہے تم نے اور واقعی اس فیصلے سے بہتر تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ گھر بنانے بہت مشکل اور توڑنے بہت آسان ہوتے ہیں ٹوٹنے میں پل بننے میں صدیاں لگتی ہیں، زیبا بھابی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا صبا نے نگاہیں اٹھا کر شکوہ کناں انداز میں لمحہ بھرا نہیں دیکھا اور پھر نگاہیں پھیر لیں۔“

اور میری بہن جانے سے پہلے ایک غلط فہمی دور کر لو میری زبان سے جو نکلا جو تم نے سنا وہ سب معاف کرنا، مگر اتنا ضرور سن لو کہ وہ سب تمہاری بہتری کے لیے تھا تمہیں ایک برے فیصلے برے وقت کے اثرات اور نتائج سے بچانے کو میں نے اور امی نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ

رہی تھیں سماعتوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھیں۔

وہ کیا کر آئی ہے اور کیا سن رہی ہے دل پہ جیسے ایک دم آگہی کے دروا ہوئے تھے۔

”گھر ایثار پسندی اور وفاداری کے اصولوں سے بنتے ہیں ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کر کے محبتوں اور خلوص کے ہنر سے دل فتح ہوتے ہیں جو یہ وصف نہ ہوں تو گھر اجڑنے لگتے ہیں اور گھر اجڑ جائیں تو باقی کیا بچتا ہے نہ دل نہ دنیا۔“

”صبا تم سے محبت مجھے سخت رویہ اختیار کرنے نہیں دیتی ورنہ جتنا تم ستاتی ہو بخدا برداشت نہیں ہو پاتا اور تمہیں بہت سخت سزا دینے کو دل کرتا ہے۔ تو دیں دے سزا وہ اٹھلائی۔“

”نہیں دے سکتا تو یہی انداز تو بار دیتے ہیں۔“ وہ بے بسی سے کہتا اور وہ کھلکھلا کر ہنستی۔

یہی محبتیں تھیں جو وہ چھوڑ کر چلی آئی تھی یہی محبتیں جو سب خامیوں اور کمیوں کے ساتھ اسے برداشت کیے ہوئے تھیں اور وہ مسلسل ہٹ دھرمی کرتی رہی بھلا کیوں، میاں بیوی کے درمیان ناراضگی خفگی ہوتی رہتی ہے اور محبت اسے آرام سے دور کر دیتی ہے مگر انا اور صبا اسے بڑھاتے بڑھاتے نوبت لاق تک پہنچا دیتے ہیں جدائی اپنے پر پھیلا دیتی ہے۔

”اور جو جدائی کی رات طویل ہو جائے تو میں کیا اس کے بغیر رہ سکوں گی وہ جو مجھے بری عادتوں کے باوجود مجھے برداشت کرتا رہا، اسے میں اکیلا چھوڑوں نہیں مجھے اس کے ہمراہ چلنا چاہیے خود کو بدل کے زندگی کو سنوارنا چاہیے گھر بسانا ہے بنانا ہے بگاڑنا نہیں۔“ وہ فیصلہ کر کے احمر کا سیل نمبر ڈائل کرنے لگی۔



نہا کر کپڑے بدلنے کا کہہ گئیں۔ اس کے شاور لینے تک کھانا تیار تھا، سب نے ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ احمر عین اس کے سامنے تھا گا ہے بگا ہے اس پہ گہری نظر ڈالتا اور وہ چورسی بن جاتی۔

پھر ڈھیروں محبتوں اور نصیحتوں کے ساتھ وہ احمر کے ہمراہ واپسی کے سفر پہ گامزن ہو گئی۔ اور گھر پہنچتے ہی وہ کچھ دیر صابرہ بیگم کے پاس بیٹھی پھر اپنے کمرے میں آ گئی وہی کمرہ جو اپنے شریک حیات سے اس کی محبتوں اور قربتوں کا گواہ تھا اس نے آنکھیں اٹھائیں تو گویا ساکت رہ گئی پورا بیڈ اصلی گلاب کے تروتازہ پتیوں سے بھرا مہک رہا تھا اور عین میں درمیان ان کی شادی کی تصویر کے ساتھ بہت خوبصورت کارڈ اور گفٹ پک تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اس کی آنکھیں بھینکتی چلی گئیں لرزتے ہاتھوں سے کارڈ اٹھا کر کھولا۔

I miss you I love you کے الفاظ

کے ساتھ خوبصورت شعر تھے۔

رتجگوں کی داستاں کو تم کہو تو سنا میں تم کو ہم تو جاتے ہی رہتے ہیں چلو تھوڑا سا جگائیں تم کو اس کی آنکھیں خوشی سے برسنے لگیں۔ اتنی

محبت اتنی چاہت احمر نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے کو تھام کر رُخ اپنی طرف کیا۔ اور اس نے اپنے بہتے آنسو اپنی ہتھلیوں کی پشت سے صاف کیے۔ بس کرو یا یہ رونا دھونا بہت ہو گیا اب صرف مسکرائیں اور پیار وہ شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے۔

اور وہ بھی اپنے محبوب شوہر کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور دور کہیں چاند کو بادلوں نے اپنی اوٹ میں چھپالیا۔

☆☆.....☆☆

سب کیا تا کہ تم اپنے گھر کو بچانے کا سوچو، اپنے لیے کچھ درست فیصلہ کرو، سمجھو۔“

وہ تھیر سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔

تمہارے جھگڑے کے بعد احمر بھائی نے فون کیا تھا اور ساری صورتحال بتا کر امی سے درخواست کی تھی کہ تمہیں سمجھائیں وہ ان سخت الفاظ پر شرمندہ تھے جو انہوں نے تم سے کہے مگر غصہ میں میری بہن ایسے الفاظ نکل ہی آتے ہیں۔ بس پھر ہم نے تمہارے آنے سے پہلے پلاننگ کر لی ورنہ تو نہ تو یہ گھر تم پہ تنگ ہوا ہے نہ یہاں کے مکینوں کی محبت اور خلوص میں کمی آئی ہے سب ویسا ہے جیسا تھا اور چھوٹی بہن سمجھ کر کہہ رہی ہوں از دو اجی و خانگی زندگی کے تقاضے سمجھو۔

ایک چھت کے نیچے رہنا ہی شادی نہیں ایک دوسرے کا احساس کرنا ساتھ دینا اہم ہے۔ برے وقت کو مل جل کر شیمز کرنا بھی ضروری ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طاقت بننا چاہیے نہ کہ کمزوری۔

بھابی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ ان کے گلے لگ گئی۔

”اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوشیاں اور سکھ دے گا بشرطیکہ خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی رکھو۔“ وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولیں۔

شام میں احمر اسے لینے آ گئے وہ ان کے ساتھ جانے پر مسرور بھی تھی اور اپنے کیے پر نادم بھی۔

”کتنا اچھا ہے وہ شخص مسکرا کر سب غم بھلا دیے اور میں اس کو دکھ دیتے ہوئے کس حد تک جا رہی تھی۔“ اس کی آنکھیں نم ہو کے تھلکنے کو بیتاب ہوئیں تو وہ اندر کو بھاگی۔ بھابی کچھ دیر بعد اسے



# دوشیزہ ڈائجسٹ میں اشتہار کیوں دیا جائے؟

▶..... پاکستان کا یہ واحد رسالہ ہے جس کا گزشتہ بیالیس برس سے چار نسلیں مسلسل مطالعہ کر رہی ہیں۔

▶..... اس لیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قارئین بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔

▶..... اس میں غیر معیاری اشتہار شائع نہیں کیے جاتے۔

▶..... پوری دنیا میں پھیلے اس کے لاکھوں قارئین متوسط اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو مستند اور معیاری مصنوعات کی خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔

▶..... اس لیے کہ دوشیزہ ڈائجسٹ کو گھر کا ہر فرد یکساں دلچسپی سے پڑھتا ہے۔

▶..... جریدے کے ہر شمارے کو قارئین سنبھال کر رکھتے ہیں۔

▶..... اس جریدے کے بڑی تعداد میں مستقل خریدار ہیں جو اندرون اور

بیرون ملک پھیلے ہوئے ہیں۔

▶..... آپ کی مصنوعات کے اشتہار با کفایت اُن تک پہنچ سکتے ہیں۔

▶..... جریدے کی اعلیٰ معیار کی چھپائی آپ کے اشتہار کی خوب صورتی میں

اضافہ کرتی ہے۔ شعبہ اشتہارات: دوشیزہ

88-C II - خیابان جامی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی - فیز-7، کراچی

فون نمبر: 35893122 - 021-35893121



ناولٹ

شمع حفیظ

# ہتھیلی پر دعا محفوظ رکھنا

یہ کوئی بات نہ ہوئی اماں کے نجومی کا کہا شیطان کا جھوٹ کہہ کر رد کر دیا جائے لکیروں کی زبان کو پڑھ کر مستقبل کا حال بتانا ایک فن ہے اس فن کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ گناہ نہیں ہے اماں، آنے والے وقت کا علم اگر پہلے ہی ہو جائے تو بہت سی بلائیں ٹالی جاسکتی ہیں۔ ٹی وی والے بھی.....

کو نمٹا کر فیروزہ کچھ دیر قبل ہی اپنے پلنگ پر آ کر بیٹھی تھی۔ جو اس کے کمرے کی واحد کھڑکی کے


اس کی گہری نظر اپنی گلابی ہتھیلی پر چمکتی قسمت کی لیکہ پر جمی تھی۔ آج بھی روزمرہ کی مصروفیات

Downloaded From  
Paksociety.com

دوشیزہ 138

READING  
Section





LEADING  
Section





طرف سے الٹا سیدھا گڑتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں اور جو انسان ان کی بتائی گئی من گھڑٹ باتوں پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ کا گناہ گار ہے اور جانتی ہو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی اس بندے کی۔“

”چالیس دن کی عبادت.....؟“ فیروزہ نے تھیر سے آنکھیں پھاڑ کر ماں کو دیکھا۔ ”لیکن کیوں اماں بھلا ہماری عبادت سے نجومیوں کی بات کا کیا تعلق ہے۔ عبادت تو اللہ کے لیے ہے۔“

”ارے تعلق ہے نا.....“ اماں نے بڑے خشوع و خضوع سے ڈھلکتے دوپٹے کو دوبارہ اپنے سر پر جمایا تھا۔ ”غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے فیروزہ۔ وہی جانتا ہے اس نے اپنے بندے کی لوح تقدیر میں کیا لکھا ہے کل کیا ہوگا، کیوں اور کیسے ہوگا؟ بس وہی جانتا ہے۔ یہ بھید اس نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ جو نجومی اور جوشی ہوتے ہیں نا، وہ محض اندازہ لگا کر معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے کاموں میں اندازے کی مداخلت بہت بڑا گناہ ہوتی ہے، ہمارا رب کہتا ہے جو ان لوگوں کی باتھوں پر بھروسہ کرے وہ مجھ پر اپنا یقین کھوئے۔ اس لیے اللہ ایسے بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا۔“

”اوفو! اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں نجومی جھوٹ بولتے ہیں نا.....؟“ فیروزہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔

”ہاں میری بچی اللہ نے آنے والے کل کا بھید کسی کو نہیں دیا ہے تو پھر نجومی کیا کیا اوقات اندازے لگائے۔ وہ جو کہتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی دلوں کا حال اور ہماری قسمتوں کا حال جانتا ہے۔“

عین مقابل پڑا تھا۔ اماں فرشی دری پر پاس ہی کل کے دھلے کپڑوں کے ڈھیر کو تہہ لگانے کا کام کر رہی تھیں۔ فیروزہ کو ہاتھ پھیلائے لکیروں کو گھورتا پایا کر ان کی تیو بری چڑھ گئی، کلس کر بولی۔

”اے بنو۔“ کب تک گھورے گی ان موئے ہاتھ کو، آرہی ٹیڑھی چند لکیروں کے سوا کیا دھرا ہے ان میں؟.....“ فیروزہ نے چونک کر نظریں گھمائیں اور اماں کے بیچ چہرے کو دیکھا مگر وہاں ملاحظت کی جگہ غصے کی چمک تھی، ان کے آف موڈ کا اندازہ ہوتے ہی اس نے بے ساختہ اٹھ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا اور قدرے سنجیدگی سے بولی۔ ”اماں یہ ہی چند لکیریں تو اہم ہیں میرے لیے..... ورنہ سچ سچ ان ہاتھوں میں رکھا ہی کیا ہے۔“

”اے لو، بھلا ایسی کون سی اہم لکیریں ہیں جو ہر وقت بڑی فرصت سے بیٹھ کر گھورتی رہتی ہو۔ سچ جانو فیروزہ تمہاری یہ منحوس عادت مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیوں وقت ضائع کرتی ہو اپنا.....“

”یہ وقت کا زیاں ہے نہ عادت ہے اماں، بلکہ ایک بہت دلچسپ اور پراسرار سا کام ہے، پتا ہے ہاتھوں پر ابھری یہ لکیریں ہر روز کہیں نہ کہیں سے بدل جاتی ہیں، لیکن قسمت کی لکیر ہے نا یہ ٹھیک سے بنتی ہی نہیں۔ آج بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، نہ جانے یہ لکیر کب بدلے گی۔ اماں مجھے اپنی قسمت کا حال جانتا ہے کیا آپ کسی اچھے نجومی کو جانتی ہیں؟“

”ارے تو بہ کر لڑکی، باؤلی کیوں ہو گئی.....؟“ کیا یہ بھی نہیں جانتی کہ ہاتھ کی لکیر جھوٹ ہوتی ہیں یہ فقط نجومی جوتھیوں کا کھیل تماشا ہے بیٹا، وہی لوگوں کو بے وقوف بنانے کی خاطر اپنی



”وہ سب ٹھیک ہے ماں لیکن نجومی کا کہا کبھی کبھار سچ بھی تو ہو جاتا ہے اب دیکھیے نا، میری سہیلی شاہدہ شادی سے پہلے کسی اللہ والے کو ہاتھ دکھایا تھا۔ اس نے کہا تھا شاہدہ شاد کے بعد دیار غیر جائے گی اور ایک پردہ کی سی زندگی گزارے گی اور وہ ہی ہوا اماں، آپ نے دیکھا آفتاب کے افریقہ جانے کے دور دور تک پتا نہیں تھا لیکن شادی کے بعد فوراً بھلا کیسے آنا فانا وہ باہر چلا گیا، اس کی کمپنی کے بہت سے لوگوں میں سے صرف اُسے ہی چنا گیا تھا۔ عجلت کے باوجود آفتاب نے شاہدہ کا ویزا بھی لگوا لیا اور اُسے بھی ساتھ لے گیا تھا۔ اب بولے، اگر نجومی جھوٹے ہوتے تو یہ کیا ہے اماں، کیا آپ اس پر یقین نہ کریں گی.....؟“

اماں چل کر مسکرائیں اور فیروزہ کو دیکھتے ہوئے رمان بولیں۔ ”یہ سب تکے ہیں فیروزہ، اندھیرے میں چھوڑے اندازے کے تیر، جو کبھی کبھار درست نشانے پر بھی لگ جاتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی آزمائش کے لیے اکثر غلط کو صبح بھی کر ڈالتا ہے۔ وہ آزمائش ہوتی ہے فیروزہ، یاد رکھ شیطان کا دوسرا نام جھوٹ ہے۔ اسی راہیں دکھاتا ہے جو بظاہر سیدھی اور صاف معلوم ہوتی ہیں، پر اس کی منزل دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔“

فیروزہ نے ابھی نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور منہ بنا کر بولی۔ ”یہ کوئی بات نہ ہوئی اماں کے نجومی کا کہا شیطان کا جھوٹ کہہ کر رد کر دیا جائے لکیروں کی زبان کو پڑھ کر مستقبل کا حال بتانا ایک فن ہے اس فن کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ گناہ نہیں ہے اماں، آنے والے وقت کا علم اگر پہلے ہی ہو جائے تو بہت سی بلائیں ٹالی جاسکتی ہیں۔ ٹی وی

والے بھی تو ہر روز موسم کا حال بتانے ہیں کہ کل فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں شہر میں سورج چمکے گا۔ یہ بھی تو آنے والے وقت کی پیش گوئی ہوئی نا، تو کیا ٹی وی والے بھی جھوٹے ہیں، حالانکہ ان کی خبر پر سب ہی کو یقین آ جاتا ہے کہ اگر ان کے کہے پر کل بارش ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ پہلے ہی پتا تھا کہ کل بارش ہوگی، موسم کا حال یہی بتایا گیا تھا، پھر بھی آپ کہیں گی اندازے کے تیر نشانے پر لگ گئے۔؟“ فیروزہ نے بحث کے سے انداز میں ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ قدرے چڑ گئی تھیں، تندی سے بولیں ”دیکھ فیروزہ بحث میں کچھ نہیں رکھا۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ..... یہ بس اللہ ہی جانتا ہے لیکن پھر بھی تیری سوچ کو الجھنے سے بچانے کے لیے فقط اتنا ہی کہوں گی، اللہ نے تین باتوں کا علم کسی بشر کو نہیں دیا، ایک پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی، دوسرا موت کب آئے گی اور تیسرا آنے والے کل میں کس کو کیا ملے گا۔ اور کیا نہیں۔ رزق، شفا، بیماری، غم اور خوشی سب ہی کچھ بندے کے نصیب سے ہیں اور ہر ایک کو اس کا کتنا حصہ ملے گا..... کوئی نہیں جانتا اس لیے تو بھی ایسی فضول باتوں پر اپنا دماغ نہ لگایا کر، اس قسم کی باتیں ذہن کو پراگندہ کرتی ہیں اور بندہ الجھنوں میں زندگی گزارتا ایک دن دیوانہ ہو جاتا ہے۔“

”ارے واہ..... آپ تو بندے کو دیوانگی تک لے آئیں اماں، کمال کر دیا آپ نے۔“ فیروزہ تمسخر سے ہنسی تھی، لیکن اماں نے ان سنی کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ”فیروزہ جس بات کو چھپانا اللہ کی مصلحت ہے اس کو کریدنا خلاف فطرت ہوگا بیٹی۔“

ہمیں صرف اللہ کے بھروسے زندگی گزارنی



چاہیے کہ وہی سارے معاملات سلجھانے والا ہے  
بس اس پر ایمان شرط ہے۔“

”ہاں اماں آپ ٹھیک کہتی ہیں لیکن میرے  
نزدیک قسمت کا لکھا ٹالا جاسکتا ہے، دعا اور تدبیر  
انسان کے پاس دو ایسے ہتھیار ہیں، جن کی مدد  
سے مقدر کی کٹھنائیوں کو شکست دی جاسکتی ہے۔  
میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا اماں.....؟“

”آئے ہائے تو پگلا گئی ہے لڑکی، خالی دماغ  
یوں پلنگ پر چڑھ کے نہ بیٹھا کر..... یہ جو خالی  
دماغ ہوتا ہے نا یہی شیطان کا گھر ہوتا ہے، بندہ  
فراغت میں بیٹھ کر الٹی سیدھی سوچتا ہے جس کا نہ تو  
سر ہوتا ہے نہ پیر۔ تجھے بھی فراغت میں صرف  
شیطان سوچتا ہے فیروزہ، تب ہی تو ایسی بے کار  
باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔“ اماں زچ ہو  
گئیں اور اس کی طرف سے رُخ موڑ کر جلدی  
سے کپڑوں کو سمیٹنے لگی تھی لیکن فیروزہ کو اپنی کول  
ہتھلی پر ٹوٹی بنٹی قسمت کی لکیر کو پھر سے دیکھنے  
لگی۔ نہ جانے تقدیر میں ابھی اور کتنے انہونے  
موڑ آنے تھے اور کب اسے ان حالات سے  
چھٹکارا ملنے والا تھا۔ جن کا اسے ہر روز سامنے کرنا  
پڑتا تھا۔

کتنی مشکل زندگی تھی یاں بیٹی کی، اماں بوڑھی  
ہو کر بھی گھر سنبھال رہی تھیں اور وہ اسکول میں  
پڑھانے کے بدشام کو ڈھیر سارے بچوں کو ٹیوشن  
پڑھا کر گھر کا خرچہ نکالنے کی کوشش کرتی تھی، ابا  
کے گزرنے کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہا  
تھا۔ ان کی پینشن اتنی معمول تھی کہ اس کا ہونا نہ  
ہونا برابر تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں دو بندوں کا  
گزارہ بھی کس قدر مشکل تھا، اس پر بجلی گیس اور  
پانی کا بل ہر ماہ عذاب کی طرح نازل ہو جاتا تھا۔  
فیروزہ کو لگتا ہے جیسے وہ ان بلوں کو بھرتے بھرتے

زندگی ہار دے گی۔ وہ تو شکر تھا کہ چھت اپنی تھی  
ورنہ کرائے کے گھر میں رہنا ان کے لیے ممکن ہی  
نہ تھا، ابا نے زندگی ہی میں تھوڑی بچت کر کے دو  
کمروں کا فلیٹ بک کر لیا تھا، گو کہ وہ بہت چھوٹا  
تھا لیکن بڑی بہن کی شادی کے بعد اماں اور  
فیروزہ آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ آپا کی  
شادی کے فوراً بعد ابادل کے دورے میں چل بے  
تو فیروزہ کو مجبوراً اسکول میں نوکری کرنی پڑی  
تھی۔ اماں کے ساتھ فیروزہ نے باپ کی وفات  
کے بعد زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا  
تھا۔ اماں نے شوہر کا دکھ اپنے اندر اتار لیا تھا۔ اور  
بیٹی کے سہارے بڑے حوصلے سے کسمپری کے دن  
گزار رہی تھیں۔

ابا کے بعد فیروزہ پہلے سے زیادہ ماں کا خیال  
رکھنے لگی تھی۔ وہ ابا کی طرح انہیں ہر طرح کا سکھ  
دینے کی خواہاں تھی لیکن قسمت کی بنٹی بگڑتی لکیر  
نے جیسے سب ہی جگہ روک لگا رکھی تھی۔ گزارہ تو  
ہو جاتا تھا لیکن کھینچ تان کر، اور وہ کھینچا تانی فیروزہ  
کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی مہینے کے آخری دنوں  
میں اُسے اپنے خالی ہاتھوں سے وحشت ہونے لگتی  
تھی۔ رقم ختم ہو جاتی تھی تو گھر میں جیسے ہر چیز کی  
تنگی شروع ہو جاتی اماں صبر و سکون سے آخری  
تاریخوں کے وہ چند دن گزارتیں اور اُسے بھی شکر  
گزاری کی تلقین کرتیں لیکن فیروزہ دل برداشتہ وہ  
کر ہاتھوں کی لکیروں کو گھورنے لگتی اور سوچتی آخر  
مقدر میں اور کتنے سختی و تنگی لکھی ہے۔ زندگی میں  
کب وہ دن آنے والا ہے جب وہ بھی بڑی شان  
و کروفر سے ایک بڑے گھر کے کشادہ پیڈروم میں  
دن چڑھے اپنی مرضی سے سو کر اٹھے پانی۔ آرام و  
آسائش بھری زندگی کی ہر نعمت سے لطف اندوز  
ہوتی اور آسودہ حال لوگوں کی طرح بے فکری سے



جیتی اور خوش باش رہتی۔

کرے گی۔

اچھی زندگی گزارنا ایک ایسا من چاہا، کھلی آنکھوں دیکھے جانے والا خواب تھا، جو فیروزہ کی کمزوری بن چکا تھا۔ اسے اپنی زندگی سے بے حد شکایت تھی۔ اسے بھی وہ سب کچھ درکار تھا جو ایک مستمول گھرانے کے کسی بھی فرد کی ضرورت تھا۔ فیروزہ کو کسی شارٹ کٹ کی تلاش تھی۔ جو اسے قسمت کی سنگینی سے نکال کر سکھ بھری آسائش زندگی میں داخل کر دیتا۔

لیکن وہ شارٹ کٹ اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا کیونکہ اسے اپنی سفید کومل ہتھیلی پر موجود قسمت کی لکیر ابھی پوری طرح بنتی دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی سیدھی اور متوازی لکیر اچھی قسمت کی پہچان ہوتی ہے۔ اسے اپنی واحد سہیلی شاہدہ کی بات یاد آتی تو وہ بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ شاہدہ ٹھیک کہتی تھی اس کے ہاتھوں کی ریکھا کتنی چمکدار اور خط مستقیم کی طرح سیدھی اور صاف تھی۔ وہ بھی ایک غریب گھر کی لڑکی تھی لیکن آفتاب سے شادی کے بعد کیسے کھٹ سے افریقہ جا پہنچی تھی۔ کیپ ٹاؤن خوابوں کی جنت تھا۔ جہاں وہ سکون بھری پریشانی گزار رہی تھی وہاں سے آنے والا ہر خط اور مسج فیروزہ کو اپنی کم مائیگی کا احساس دلانے میں پیش پیش رہتا۔ شاہدہ بڑی تفصیل سے اپنے محل جیسے گھر کا نقشہ کھینچا کرتی تھی۔ اس پر آفتاب کی محبت سونے پر سہاگہ کے مصداق تھیں، فیروزہ کو اپنی سہیلی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی نظر آتی اور خیالوں میں الجھ کر اکثر دل میں تہیہ کیا کرتی کہ وہ بھی کسی امیر آدمی سے شادی کرے گی۔ جو اس کی زندگی کا حلیہ بدل دے گا۔ قسمت کی لکیر بدلے یا نہ بدلے لیکن وہ اپنی کوشش اور تدبیر کو بدلنے کی حتی الامکان کوشش

ایسی سوچیں فیروزہ کے من میں طمانیت بھر دیا کرتی تھیں۔ اور وہ اپنی شادی کو لے کر بڑے ملٹی کلر کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ یہ خواب فرصت کی گھڑیوں میں جاگتی آنکھوں میں آیا کرتے تھے کیونکہ جو خواب فیروزہ کی چاہت تھے وہ بند آنکھوں اور سوئے دماغ سے دیکھنا نہ ممکن تھا۔ غربت بھری زندگی کا سب سے بڑا فائدہ شاید یہی ہے کہ انسان جاگتی آنکھوں سے وہ سارے خواب سنے دیکھ کر آسودہ ہو جاتا ہے۔ جو اس کی تمنا اور خواہشات کی انتہا ہوتے ہیں۔ وہ سنے زندگی میں پورے نہ بھی ہوں تو ان کا نشہ غربت و افلاس کے دنوں میں سو طرح کے غم بھلائے رکھتا ہے۔ فیروزہ بھی ویسے نشے میں مدہوش رہنا چاہتی تھی۔ لیکن اماں جو جوان جہان بیٹی کے یہ اطوار ایک آنکھ نہ بھاتے اور وہ اسے اکثر ٹوکا کرتی تھیں۔

لیکن فراغت میں فیروزہ کے بس دو ہی مشغلے تھے، ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ کر خواب بنتے رہنا۔ اور دوسرا کھڑکی کے مقابل پڑے پلنگ پر نیم دراز ہو کر باہر تکتے رہنا۔ جہاں سے دور تک پھیلے ہوئے بنگلوں کی قطار کا نظارہ فیروزہ کے لیے ایک نئی دنیا کا درکھولتا تھا۔ فیروزہ جس بلڈنگ کی رہائشی تھی، وہ سڑک کے رُخ پر واقع تھی۔ جس کے پار کافی دور تک پرائیویٹ بنگلوں کی ایک وسیع دنیا آباد تھی۔ فیروزہ جس کھڑکی میں منہ دیے ان بنگلوں میں بڑی آسانی سے تاک جھانک کر لیا کرتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک چھوٹی دور بین بھی خرید لی تھی۔ جسے آنکھوں پر لگا کر وہ دور کے منظر کو بہت پاس سے بہت صاف دیکھا کرتی تھی۔ گو کہ تاک جھانک کرنا ایک قبیح



نہیں ہوتا۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے چور راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ فیروزہ بھی ایسے ہی کسی چور راستے کی تلاش میں بھی جو اُسے زندگی کی تمام تر سہولیات کے ساتھ عزت و مرتبہ بھی فراہم کرتا۔ لیکن خواب دیکھنا اور ان کی تعبیر پانا دو الگ باتیں تھیں۔ ہر خواب سچا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا سو فیروزہ کی اب بھی سوچیں خواب بنتے بنتے اب مایوسی کے سمندر میں اترنے لگیں۔

نفل تھا، لیکن فیروزہ کے لیے سب کچھ جائز تھا۔ ان بڑے گھروں میں بسنے والے بڑے لوگوں کی زندگی کے انوکھے رنگ ڈھنگ اور روز مزہ کے معمولات اس کے لیے بے پناہ دلچسپی کے حامل تھے، اپنی فراغت اور بوریٹ بھرے لمحات کو رنگین کرنے کی خاطر اس سے زیادہ دلفریب مشغلہ فیروزہ کے پاس کوئی دوسرا نہ تھا۔ وہاں ہر گھر کی زندگی دوسرے گھر سے مختلف تھی۔ کیونکہ رہائش اور طرز زندگی کا انداز رہنے والوں کی اپنی پسند، معیار اور سہولت کے مطابق تھا۔ وہ ایک طرح سے فیروزہ کا بڑوس بھی کہا جاسکتا تھا کیونکہ ادھر کچھ بنگلوں کے مکینوں سے فیروزہ کی ذاتی جان پہچان تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان گھروں کے بچے فیروزہ کے پاس ٹیوشن کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان بچوں کے توسط سے بھی فیروزہ کو ان گھروں کے دیگر افراد کے بارے میں بھی گھنسن مل جایا کرتی تھی۔

کشادہ اور خوبصورتی کی مثال بننے والے ان بنگلوں میں بسنے والے کی سی زندگی فیروزہ کی خواہش بن گئی تھی۔ وہ ان کی خوشی سے بھری بے فکری کی زندگی دیکھ کر خود بھی ان گھروں کا حصہ بن جانا چاہتی تھی لیکن ایسا ممکن نہ تھا، درمیان میں قسمت تھی اور وہ بھی بد قسمت۔ جو بگڑے کام کبھی بننے نہ دیتی تھی۔ سو مخمل میں ٹاٹ کا پوند لگا نہیں کرتا کے مصداق وہ سچائی فیروزہ کا دل توڑ جاتی۔ انسانی تفرق اور اس کی درجہ بندی۔ بھی کس قدر اذیت بھرا احساس ہے، غربت و امارت کی تقسیم انسانیت کی جس درجہ بندی کرتی ہے وہی درجہ بندی فیروزہ کو بے حد گراں گزرتی تھی کیونکہ ایسی شاہانہ زندگی جینے اور ان خوبصورت پر آسائش گھروں میں رہنے کا کوئی راستہ صاف اور سیدھا

اماں کو فیروزہ کا اس طرح کھلی کھڑکی میں بیٹھ کر پہروں گم صم رہنا سخت ناپسند تھا۔ وہاں بے پردگی کے ساتھ غیروں کی نظروں میں آنے کا احتمال بھی تھا۔ غربت میں ایک عزت ہی ہوتی ہے۔ جو بڑی دولت کہی جاسکتی ہے۔ اور اماں کو اپنی وہ دولت بے پناہ عزیز تھی۔ وہ بارہا فیروزہ کو ٹوک چکی تھیں کہ یوں ننگے سر کھڑکی میں بیٹھ کر نہ جھانکا کرو۔ جانے کون گلی سے گزرتے اس پر گندی پر ہوس نگاہ ڈالتا ہو۔ لیکن فیروزہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اب یہ کہ اس کی ماں کہاں جانتی تھیں کہ اس لڑکی کے بے تاب دل میں کیسے خیالات طوفان بن کر اُٹا کرتے ہیں۔ جس بات پر اماں معترض تھیں۔ وہی بات درحقیقت فیروزہ کے دل کا ارمان تھا کہ کوئی ہوتا جو اس پر نگاہ غلط ڈال کر ترچھی نظر کا کوئی پیام دیتا اور زندگی گزارنے کے لیے اُسے اپنا ہم سفر چنتا ہاں وہ جیسا بھی ہوتا لیکن رہتا ان بنگلوں میں جہاں رہنا خود فیروزہ کی اولین خواہش تھی۔ کسی صاحب حیثیت بندے کی وائف کہلانا اور بیگمات کی طرح یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں قیمتی پوشاک پہن کر گھومنا اُسے بے حد پرکشش اور اہم لگتا تھا۔

یوں تو فیروزہ کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتے ہوئے شاندار بنگلے کی زندگی طلسمی ہی دکھائی



دیتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر ارباز کا بنگلہ اُسے بطور خاص پسند تھا۔ ڈاکٹر ارباز ایک شادی شدہ مرد بلکہ دو خوبصورت اور صحت مند بچوں کا باپ تھا۔ اُسے اپنی بیوی سے از حد محبت تھی۔ وہ اکثر اوقات گھر کے بڑے سے گراسی لان میں بیوی کی رفاقت میں مسرور اور شام کام نظر آتا۔ اس کا والہانہ انداز سے بیوی کو تکنا اور کانوں میں سرگوشی سے کچھ ایسا کہنا جو فیروزہ کو فاصلے سے ہی محسوس ہو جاتا کیونکہ اس کی بیوی شوہر کی توجہ اور محبت کا کریم بیوی بن جایا کرتی تھی۔ اس کا لال چہرہ اور شریکیں انداز خود فیروزہ کے من میں آگ سی دہکا دیتا تھا۔

ڈاکٹر ارباز عموماً شام کے اوقات میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ لان کی ٹیبل پر چائے سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس کے بچے پھولوں سے بھرے لان کی غالیچے جیسی سرسبز گھاس پر کھیلتے کودتے، شور مچاتے رہتے اور دونوں قریب بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے راز و نیاز جاری رہتے اور مسز رعنا کا حیا سے دمکتا چہرہ فیروزہ کو اتنا خوبصورت لگتا کہ وہ خود بھی کسی مرد کی محبت بھری سرگوشی سننے کی تمنائی رہنے لگی تھی۔ اور وہ رمناء عمر کے اس حصے میں فیروزہ کے دل میں خود سراٹھایا کرتی تھی کیونکہ وہ ابھی محض بائیس سال کی ہی تھی۔ ڈاکٹر ارباز کا خوبصورت بنگلہ گلی کے کارنر کا پہلا بنگلا تھا، قریب تر ہوئے کی وجہ سے فیروزہ کو تاک جھانک میں سہولت رہتی اور ان میاں بیوی کے محبت بھرے انداز کی وجہ سے وہ گھر فیروزہ کی دلچسپی کا خاص مرکز تھا، اس گھر کی زندگی پر سکون اور دل آویز تھی۔ ڈاکٹر ارباز کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ بیٹا چار سال کا اور بیٹی ڈھائی سال کی تھی۔

دونوں بچے والدین کی آنکھوں کا تارا تھے۔ فیروزہ کو اس گھر کی ہر روٹین کی تفصیل از بر ہو چکی تھی۔ کچن کہاں تھا، بیڈ روم کون سا تھا، بچوں کا کمرہ، ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کس سمت میں واقع ہے، اسے سب خبر تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے فیروزہ ڈاکٹر ارباز کے گھر سے مکمل آشنائی حاصل رکھتی تھی، اگر کبھی اسے ڈاکٹر ارباز کے گھر جانے کا اتفاق ہوتا تو وہ بہت سہولت سے ہر کمرہ اور ہر گوشے کو نا صرف شناخت کر لیتی بلکہ وہاں بھی ہوئی ہر شے کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتی تھی۔ اس گھر کا معمول صبح سے شام تک اس کے لیے شناسائی کا واضح احساس رکھتا تھا، ڈاکٹر ارباز صبح کتنے بجے اسپتال کے لیے نکلتا تھا۔ اس کی بیوی کب سو کر اٹھتی تھی اور کس طرح بچوں کے ساتھ دن گزارتی فیروزہ کو ہر تفصیل سے از بر تھی۔ اسے اس گھر کے لوگوں کے ساتھ ان معمولات سے بھی دلچسپی تھی۔ شاید اسی لیے فیروزہ کی توجہ ہمیشہ ڈاکٹر ارباز کے گھر کی اور رہا کرتی تھی۔ باقی گھروں میں تانکا جھانکی کا معمول اس کے بعد ہوتا تھا۔

فیروزہ کے اسکول کی گرمیوں کی چٹھیاں ہوئیں تو اسے بھی گھر پر قدرے سکون سے بیٹھنا نصیب ہوا تھا۔ آج کل اپنے ہاتھ کی لکیروں سے اس کی دلچسپی عروج پر تھی۔ چند دن پہلے اخبار میں ایک مسہور پاسٹ کا انٹرویو شائع ہوا تھا۔ اسے پڑھ کر فیروزہ کو ہاتھ کی لکیروں کا کافی علم حاصل ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں کے چند زائچے بھی شائع کیے گئے تھے۔ جن کے بارے میں پاسٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان زائچوں کو دیکھ کر اس نے جو باتیں کہی تھیں وہ من و عن درست ثابت ہوئیں تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ



ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں اور ان کی زبان کو سمجھنا ایک فن ہے اور حکومت کو اس فن کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ کیونکہ مستقبل کا احوال بتانے سے آنے والے وقت کی بہت سی مشکلات سے چھٹکارا پایا جا سکتا تھا۔ لیکن لوگ خود میں مگن رہ کر آلام کے درمیان جانے کیوں اتنے مطمئن انداز میں جی رہے تھے۔

ایسی گفتگو فیروزہ کی کمزوری کہی جاسکتی تھی۔ وہ آپ مصیبت کے عذاب سے نجات کی خواہاں تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی دن وقت نکال کر اس نجومی سے ایک بار تو ضرور ملے گی۔ کیا پتا وہ اُسے کسی بڑے آدمی کی بیوی بننے کا مژدہ سنا کر آسودہ حال زندگی گزارنے اور کسی بڑے گھر میں منتقل ہونے کی خوشخبری دے سکتا ہو لیکن اماں نے نجومیوں کو جھوٹا کہہ کر اس کا منہ کڑوا کر ڈالا تھا۔ لیکن فیروزہ کو یقین تھا کہ اتنے سارے نجومیوں میں سے کوئی ایک تو ایسا ہوگا۔ جو اللہ کے ودیعت کردہ غیب دانی کے علم سے ہر خاص و عام کے دکھ درد دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ کوئی ایک تو ضرور ہوگا..... کوئی ایک، جو اس کی نیا بھی پار لگا دے گا۔

فیروزہ کی سوچیں الجھنوں کے جال میں لپٹ کر اسے بے چین کر جاتیں تو وہ کھڑکی کھول کر بنگلوں میں تانکا جھانکی شروع کر دیتی۔ اس کی کھڑکی سے ڈاکٹر ار باز کے گھر سے لے کر کالونی کے آخری بنگلے تک..... جہاں تک اس کی نگاہ کی رسائی تھی۔ اپنی دلچسپی کا مواد ڈھونڈ نکالتی اور وقت گزارتی تھی۔

گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی آپا کی ڈیلیوری کا وقت آن پہنچا تھا، فیروزہ کے بہنوئی صادق نے اماں سے درخواست کی تھی کہ وہ آ کر کچھ دن تک

آپا کو سنبھال لیں، صادق بھائی کے والدین حیات نہ تھے اور بہن بھائی سب شادی شدہ اور دوسرے شہروں میں آباد تھے۔ سو دوری کی وجہ سے انہوں نے اماں سے مدد مانگی تھی۔ بیٹی کے سرال کا معاملہ تھا، اماں انکار نہ کر سکیں یوں دوسرے ہی دن فیروزہ کو ساتھ لیے وہ اس کی آپا کے یہاں چلی گئیں۔ چند دن کے بعد آپا کے ہاں گول مٹول سا بیٹا پیدا ہوا تھا، صادق بھائی اور اماں کی خوشی دیدنی تھی، فیروزہ کو بھی اپنا پہلا بھانجا بہت پسند آیا تھا، لیکن آپا کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ انہیں سنبھلنے میں کچھ دن اور لگ گئے۔ اماں اور فیروزہ نے مل کر ان کی خوب خدمت کی تھی۔ تا صرف ان کا بلکہ شوہر اور بچے کا بھی خوب خیال رکھا تھا۔ تقریباً بیس دن بعد وہ دونوں اپنے گھر لوٹ کر آسکی تھیں۔

فیروزہ کے گھر لوٹتے ہی ٹیوشن پڑھنے والے بچے روٹین کے مطابق اگلے ہی دن آدھمکے تھے۔ بچوں کے آنے سے وہ اداسی دور ہونے لگی تھی۔ جو فیروزہ کو آپا کے گھر سے آنے کے بعد لاحق تھی۔ پھر وہی روزمرہ کی روٹین زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ فیروزہ کام کاج سے فراغت پا کر کھڑکی میں آ کر بیٹھ جاتی اور نظارہ کرتی رہتی تھی۔ وہ جب سے آپا کے گھر سے لوٹ کر آئی تھی۔ ڈاکٹر ار باز کا بنگلہ ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کوئی آواز اور کوئی ہلچل گھر پر چھائی خاموشی کو دور نہ کرتی تھی، جانے وہ سب کہاں چلے گئے تھے۔ پورا گھر ہمہ وقت خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا۔

فیروزہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ سب چھٹیاں گزارنے کسی ہل ایشیشن پر چلے گئے ہوں گے۔ وہ اس گھر کے یکینوں کی کمی کو بہت محسوس کر رہی تھی۔ اور اکثر فراغت میں بے دھیانی کے ساتھ



گود میں بٹھاتے ہوئے بولی۔ دیکھو وقاص اب گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کو ہیں ذوہیب بھی اپنی فیملی کے ساتھ بہت جلد گھر لوٹ آئے گا۔ اسے بھی اسکول جانا ہوگا، پھر خط لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا.....؟“

”نہیں آپ! وہ اب کبھی نہیں لوٹ کر آئے گا۔ اس کے پاپا کہہ رہے تھے کہ ذوہیب اب اپنی دادو کے ساتھ ہی رہے گا۔“

”لیکن کیوں وقاص..... والدین کے ہوتے ہوئے بھلا وہ اپنی دادو کے پاس کیوں رہے گا.....؟“ فیروزہ نے الجھ کر پوچھ لیا تو وہ روہانسا ہو گیا تھا۔

”اس لیے آپی کہ ذوہیب کی امی مرگئی ہیں اور اب اُسے کوئی سنبھالنے والا نہیں رہا۔“

”کیا مطلب..... فیروزہ پر جیسے بجلی سی گر گئی، سانس جیسے سینے میں ٹہر ہی گیا تھا۔ اسے لگا گھر کے درود یوار ہل گئے ہوں۔“

”یہ..... یہ کیسے ہو سکتا ہے وہی نہیں، نہیں کیا ڈاکٹر ارباز کی بیوی مر گئی ہے.....؟“ وہ دیوانوں کی طرح وقاص سے پوچھ رہی تھی۔

”میں سچ کہہ رہا ہوں آپی، شام کو میرے ابوان کے جنازے پر بھی گئے تھے۔ اس بار وقاص کے بجائے تفصیل ایک دوسرے بچے نے بتائی تھی، فیروزہ کی آنکھیں جل تھل تھیں، دل کے اندر جیسے کوئی کانچ سا ٹوٹا تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔“

”ہائے اللہ، کیا گزر رہی ہوگی ڈاکٹر ارباز پر..... وہ کس قدر چاہتے تھے اپنی بیوی کو.....“

فیروزہ ان کی محبت کی گواہ تھی۔ وہ ان کی آپس کی انڈر اسٹینڈنگ کی عینی شاہد تھی۔ وہ خوب جانتی تھی ڈاکٹر ارباز بیوی کے لیے کس قدر جذباتی رہا

اس بنگلے کے کالی درود یوار کوکتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں مگن تھی جب اچانک اس کے سرچڑھے شاگرد وقاص نے اپنی کاپی فیروزہ کے آگے رکھتے ہوئے کہا تھا۔

”آپی مجھے ایک خط لکھ دیجیے.....“

”خط.....؟“ فیروزہ نے حیرانی سے چار سالہ وقاص کو دیکھا۔ ”کیوں وقاص بھلا تمہیں کسے خط لکھوانا ہے۔“

”ذوہیب کو.....“ اس نے معصومیت سے کہا۔

”کون ذوہیب.....؟“ فیروزہ کو کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔

”وہ، جو میرا دوست ہے اور گلی کے کارنر والے گھر میں رہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپی وہ اب ہمیشہ کے لیے اپنی دادو کے پاس چلا گیا ہے۔“

”اوہ اچھا..... لیکن میں ذوہیب کو نہیں جانتی وقاص۔“ فیروزہ نے عدم دلچسپی سے کہا۔ تو وقاص برا مان گیا اور اٹھ کر کمرے کی کھلی کھڑکی میں کھڑا ہو کر ڈاکٹر ارباز کے گھر کی طرف انگلی اٹھا کر بولا۔ ”آپی وہ ذوہیب کا گھر ہے، کیا آپ اُسے نہیں جانتیں.....؟“

فیروزہ کی نظر وقاص کی انگلی کا تعاقب میں ڈاکٹر ارباز کے بنگلے کی طرف اٹھی تو وہ از خود مسکرائی تھی، وقاص کے نزدیک جا کر نرمی سے بولی۔

”کیا تم ڈاکٹر ارباز کے بیٹے کی بات کر رہے ہو.....؟“

”جی آپی، اس کا نام ذوہیب ہے اب وہ اپنی دادی کے گھر میں رہتا ہے، مجھے اس کے لیے ایک خط لکھوانا ہے کیا آپ لکھیں گی.....؟“

فیروزہ اس کی محبت اور اسرار پر ہنس دی، اسے



کرتے تھے۔ اور انہیں ہونا بھی چاہیے تھا کہ وہ عورت تھی ہی خوبصورت، اس کا نازک سراپا، شادابی اور حسن کا شاہکار تھا۔ اس پر اس کی نرم گفتاری اور شوہر کے التفات پر سمٹ سمٹ جانا اتنی دور ہو کر بھی فیروزہ کو صاف طور پر محسوس ہو جایا کرتا تھا۔ یقیناً ڈاکٹر ارباز کی بیوی ایک سادھی ہوئی، پڑھی لکھی اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ جسے شہر کے دل میں گھر کرنے کا ہنر خوب آتا تھا۔

پھر اگلے کئی دن تک فیروزہ اس صدمے سے نہ نکل سکی تھی۔ ڈاکٹر ارباز اور ان کی بیوی ہر چیز، ہر خیال پر حاوی ہو گئے تھے، فیروزہ جب سوچتی بس ان ہی کے بارے میں سوچتی۔ تب دل ٹکڑے ہوتا محسوس ہوتا۔ اور آنکھیں نمکین پانی سے بھر جاتی تھیں۔

گرمی کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھل جانے پر بھی فیروزہ کی اُداسی دور نہ ہوئی تھی۔ زندگی ایک بار پھر مصروفیت کے دائرے میں چکرانے لگی تھی۔

وقت لمحہ بہ لمحہ آگے بڑھاتا رہا اور پھر اگلے کئی دن گزرتے چلے گئے تھے۔ دل پر چوٹ پڑی تھی۔ سو فیروزہ نے کھڑکی میں بیٹھنا اور باہر کی سن گھن لینا ترک کر دیا تھا۔ اب وہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے لگی تھی۔ کتابوں نے شعور بخشنے کے ساتھ خواب دیکھنے کی عادت کو اور بھی پختہ کر دیا تھا۔ وہ خود کو مصروف رکھنے لگی تھی۔ موڈ میں ہوتی تو اماں کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی نمٹا دیا کرتی تھی، ہاتھوں کی قسمت کی ریکھا تو ترستے رہنا آج بھی جاری تھا۔ من کی خواہشات او لاکھوں تمنائیں پوری کرنے کا خواب وہ اسی ایک لکیر کی بنتی بگڑتی قوسوں اور زاویوں میں ڈھونڈا کرتی تھی، ہاتھوں کی لکیروں سے بننے والے دائرے، مربعے اور ٹکون فیروزہ کو معروف پاسٹ کے بتائے زاپچوں کے مطابق دکھائی دیتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ابھار سے لے کر ہر قوس اور دائرے میں دولت کے انبار تلاش کرتی تھی اور

”اُف..... کیسے مر گئی وہ.....؟“ کیا ہوا تھا اسے جو یوں جھٹ پٹ آگے تیار کر لی تھی۔“ فیروزہ نے احمر کو بے ارادہ ایک وحشت سے تھامتے ہوئے پوچھا تو وہ کچھ گھبرا سا گیا، بو کھلا ہٹ سے بولا۔ ابو کہہ رہے تھے انہیں کینسر تھا۔“

”کینسر.....؟“ فیروزہ کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ ”ایسی موڈی بیماری جو لا علاج ہے اب تک..... آئے ہائے.....؟“

”جی آپا..... ان کے گھر کے لوگ بھی سب کو ایسا ہی کچھ بتا رہے تھے، میں امی کے ساتھ ذوہیب کے گھر گیا تھا۔ وہ بہت رورہا تھا۔“

”ہائے بے چارے معصوم بچے..... کیسے جنیں گے اپنی ماں کے بغیر، اف اللہ کتنا سرچڑھا رکھا تھا اس عورت نے اپنے دونوں بچوں کو۔ وہ ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، نوکروں کے باوجود اس نے پورا گھر، بچے اور شوہر کی ذمہ داری بہ خوبی سنبھال رکھی تھی۔“ فیروزہ رونے لگی تھی۔

اس کی بے قرار نگاہیں ایک بار پھر ڈاکٹر ارباز کے گھر کی جانب اٹھی تھیں۔ لان میں پڑی کرسیوں پر نظر پڑتے ہی اسے بے اختیار مسز رعنا کا گلابی پڑتا چہرہ یاد آیا تھا۔ وہ شوہر کی محبت بھری سرگوشی سن کر شرم و حیا سے سمٹ جایا کرتی تھی۔ وہ



زندگی کی منہ بند خواہشات کو کھولنے کی تدابیر سوچتی رہتی تھی۔

اب اماں بھی اس کے ہاتھوں کو تکتے رہنے کے خبط سے چڑنا بھول گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں ان کے سمجھانے کا فیروزہ پر مطلق اثر ہونے والا نہ تھا اور وہ ایسا سوچنے میں حق بجانب تھی کیونکہ اس دن اس نے اپنے اسکول کی ایک دوست ٹیچر کے ہمراہ فیروزہ ستاروں کا احوال صرف ہاتھ کی لکیروں سے جان کر ان کے راز بتانے والے ماہر نجوم بابا بڑے صاحب کے آستانے پر جا پہنچی تھی۔ وہاں اچھا کا صارش تھا۔ اس دن فیروزہ کو پہلی بار یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ہاتھ کی لکیروں پر اعتقاد رکھنے والے اسی جیسے ہزاروں دیوانے تھے۔ ان کی تعداد فیروزہ کی سوچ سے بھی زیادہ تھی۔

ہر شخص زندگی میں در آنے والی الجھنوں اور آفتوں کو کم کرنے کا آرزو مند تھا۔ لکیروں میں چھپی قسمت کا احوال دل چسپی غالباً اس لیے بھی تھی کہ وہ لوگ ایمان کے کچے اور زندگی کے عذاب فوری کم کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہیں اس مدت سے سروکار تھا۔ جس کے گزرتے ہی ان کی زندگی کے گھمبیر مسائل سے نجات مل پاسکتی ہے۔ زندگی میں سہولت اور سکون نہ ہو تو جیسے لٹک جاتی ہے اور وہاں آنے والوں کی زندگی سولی پر منگنی تھی۔

وہاں سب کی باری لگی تھی۔ بابا صاحب خاصے مصروف انسان تھے، ان کے آستانے کا رش ان کی مقبولیت کے گراف کو ظاہر کرتا تھا۔ فیروزہ کی باری آئی تو وہ اپنی ساتھی ٹیچر کے ہمراہ ہی بڑے صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چھوٹا سا کمرہ دبیز ہرے اور سرخ رنگ کے پردوں کی باعث

جیسے اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ دیواروں پر عمارتوں اور ہندسوں سے مزین کئی کلینڈر جسے حساب کتاب کی صورت لگائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہاتھ کے بنے ڈاچے اور نقش کئی جگہ آویزاں تھے۔ جو سچکھے کی ہوا سے جھول رہے تھے۔

بابا صاحب ایک لکڑی کے تخت پوش پر گاؤتیکے سے ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں یوں بیٹھے تھے۔ جیسے کسی مشاعرے میں شراکت کے لیے بیٹھے ہوں۔ ان کے بال کندھے پر جھول رہے تھے۔ آنکھیں ابلی ہوئی اور ناک کھڑی تھی۔ ان کے آبرو بھی سفید تھے اور ہاتھ میں پکڑی بڑے منکوں والی تسبیح کا رنگ بھی سفید تھا۔ وہ ہر اچوٹے پہنے آنے والیوں کا عقابی نظر سے جائزہ لے رہے تھے۔ ادھر وہ دونوں لڑکیاں گھبراہٹ محسوس کرتیں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کمرہ اپنے منجگے دھندلے ماحول کی وجہ سے خاصا پراسرار نظر آ رہا تھا۔

”بیٹھو بی بی!.....“ بڑے صاحب کی آواز خاصی بھاری بھرم تھی۔ وہ دونوں چونک کر خجالت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر قدم بڑھا کر اس کے سامنے بڑے بیچ پر جا بیٹھیں۔ فیروزہ کی دوست عصمت کچھ خوفزدہ تھی۔ لیکن فیروزہ مستحسن اور مشتاق دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔

”بولو! بیٹا کیا چاہتی ہو تم.....؟“ بابا صاحب نے انہیں گھورتے ہوئے نرمی آمیز تحکم سے پہلا سوال پوچھا۔ تو فیروزہ نے بوکھلا کر انہیں دیکھا اور پھر تذبذب سے بولی۔ ”فقط چاہنے سے کیا ہوتا ہے بابا جی..... چاہنے سے قسمت کہاں بدلتی ہے چاہنا تو عذاب ہوتا ہے۔“



حالات کے مقابل ڈٹ جائے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اوویوں تقدیر پلٹا کھاتی ہے لیکن بی بی تم تقدیر کا حال معلوم کرنا چاہتی ہو یا محض مجھ مشورہ کرنے آئی ہو۔

بابا صاحب مسکرائے ہوں بات تو ٹھیک ہے قسمت چاہنے سے نہیں تدبیر سے بدلتی ہے، خلوص و لگن کی فروانی ہو، اللہ پر بھروسہ اور ایمان پختگی ہو تو پھر تقدیر از خود پلٹ جایا کرتی ہے۔ کیا تجھے اپنی تقدیر سے کوئی شکوہ ہے بی بی.....؟“

”نہیں، شکوہ کیسا بابا جی.....“ فیروزہ نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ ”میں اللہ کی مرضی اور رضا پر شاکر ہوں لیکن اپنے نامساعد حالات سے بددل ہو گئی ہوں اور آج اسی لیے آپ کے آستانے پر حاضر ہوئی ہوں مجھے آپ سے فقط اتنا جانتا ہے کہ میری قسمت میں حالات کی تبدیلی ہے کہ نہیں.....“

بابا کے جلالی چہرے پر یکدم مسکراہٹ کی چمک ابھری تھی۔ وہ فیروزہ ایک سوال سے محظوظ ہوئے پھر اسی بھاری آواز میں بولے۔ ”حالات کو بدلنے کا اختیار بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے بی بی، کیونکہ حالات انسان کے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں لیکن قسمت کا ہیر پھیر انسان کی زندگی کو بدل ڈالتا ہے۔ تو اپنی بات ذرا صاف لہجے میں بول لڑکی۔ کیا پریشانی ہے تجھے۔“

فیروزہ نے سٹ پتا کر انہیں دیکھا پھر خشک لبوں کو تر کر کے بولی۔ ”میں جو کہنا چاہتی ہوں شاید وہ آپ سمجھ نہیں سکے۔ کچھ حالات اللہ کے پیدا کردہ ہوتے ہیں بابا جی، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے مجھے ایسے ہی حالات کی تبدیلی چاہیے، میں غربت کی زندگی گزارتے تھک چلی ہوں، کیا آرام و آسائش کی تمنا کرنا گناہ ہے، کیا میں اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتی۔“

”کر سکتی ہو..... کیوں نہیں کر سکتیں، بندہ چاہے تو طوفان کا رُخ موڑ دے..... عقل اور تدبیر انسان کے ارادے کو مضبوط بناتی ہے۔ وہ

”میں دونوں کاموں کے لیے حاضر ہوئی ہوں بڑے صاحب، پلیز میرا ہاتھ دیکھے اور لکیروں کے اس جال سے یہ اندازہ لگا کر بتائیے کہ میری زندگی میں دکھ بھرے دن کب آزاد بن کر میری آزمائش کرتے رہیں گے.....؟“

بابا صاحب نے اپنے ناتواں بوڑھے ہاتھوں میں فیروزہ کا نرم گداز ہاتھ تھام لیا اور اس کی ہتھیلی لیمپ کی روشنی میں پھیلا کر بولے۔

”قسمت کا حال جاننا چاہتی ہو یا قسمت کی تبدیلی کو جاننے کی خواہش مند ہو۔ دونوں سوال یکسر مختلف ہیں، تم فقط وہ پوچھو جس کی تمہیں چاہ ہے، باقی باتیں ثانوی ہو جاتی ہیں لڑکی۔ اصل سوال واضح ہونا چاہیے۔“

”میں قسمت کی تبدیلی کو جاننا چاہتی ہوں بابا صاحب، کیا میں خوشحال اور مطمئن زندگی جی سکتی ہوں.....؟“ وہ عجلت سے بولی تھی۔ بابا جی نے پلٹ کر ایک دوسرے لیمپ کو بھی روشن کیا تھا۔ مرکزی بلب کی دو دھیا روشنی میں فیروزہ کے ہاتھ کی لکیں جگمگانے لگی تھیں یا شاید وہ اس نمی کا کمال تھا جو گھبراہٹ میں فیروزہ کے ہاتھوں میں اتر آئی تھی۔ اسے اپنی ہتھیلیاں بھگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔

بابا صاحب پندرہ بیس منٹ مراقبے کی سی کیفیت میں مبتلا رہے۔ فیروزہ کی ہتھیلی پر ان کی انگلی آہستہ روی سے حرکت کر رہی تھی۔ وہ چونک کر جاگتے اور پھر قلم اٹھا کر کاغذ پر اعداد کے حساب



بیٹا....." وہ مسکرائے تھے۔

"نن..... نہیں بات جلدی کی نہیں ہے باباجی! دراصل آپ کا یہ جملہ میرے سر سے گزر گیا ہے" وہ جیسے اپنی مشکل بتا رہی تھی۔

"تو گزر جانے دے پرکانوں میں اٹکائے رکھنا۔ متبادل بنے گی تو راستہ نکلے گا۔ ورنہ قسمت کی دیوی نامہربان رہے گی۔ اور تیری زندگی اس کولہو کے بیل والے دائرے میں چکراتی رہے گی..... تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی لانے کے لیے تجھے ساری کوشش خود کرنی ہوگی۔"

"میں پوری کوشش کروں گی باباجی..... اس تبدیلی کو آنا ہی ہوگا ورنہ جینا مشکل ہو جائے گا۔"

"تو پھر جاؤ زندگی سے کھٹنائیاں دور کرنے کے لیے دل میں وہ نرم گوشہ ڈھونڈو جو تمہیں متبادل بنا دے۔" اس نے بات پوری کرتے ہی پاس پڑی بیل کی گھنٹی کا بٹن دبا کر اگلے بندے کو اندر بھیجنے کا اشارہ دے رہا تھا۔ چنانچہ فیروزہ اور عظمت کو اٹھنا پڑا۔ وہ اب بھی پللیں جھپک کر بابا جی کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ ابھی بہت سے سوال من میں مچل رہے تھے لیکن باباجی مزید وقت دینے کے موڈ میں نہ تھے۔ چنانچہ بادل نخواستہ فیروزہ کو اپنی دوست کے ساتھ اس حجرے سے باہر آنا پڑا تھا۔ اس کا دل اب بھی ایک تال دھڑک رہا تھا۔

پھر کئی دن گزرتے گئے، فیروزہ کی سوچیں متبادل بننے کی کتنی سلجھانے میں نا کام کوشش کرتیں مگر کوئی بھی سراہا تھا نہ آتا تھا۔ تھک ہار کے اس نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ البتہ دوسرے لوگوں پر اس کی مہربانیاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھیں، دل میں نرم گوشہ تلاش کرنے کا مطلب اُس کے نزدیک یہی تھا کہ دوسروں پر مہربان ہو جاؤ اور ان کے دکھ درد میں پورے دل

سے کچھ شمار کرنے لگتے تھے۔ وہ جو گراف، ہندسے اور اشکال ذائقے کی صورت میں کاغذ پر اتار رہے تھے۔ وہ فیروزہ کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ اس کی سہیلی عظمت بھی خوفزدہ نگاہوں سے اس عمل کو چپ سادھے تک رہی تھی۔

ایک طویل انتظار کے بعد بابا صاحب نے فیروزہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لیمپ بند کر کے ایک گہرا سانس لے کر بولے تھے۔

"سنو لڑکی، تم بہت نصیب والی ہو ماشاء اللہ دھنی ہو دھنی..... تمہارے ہاتھ کی لکیریں اس بات کی گواہ ہیں کہ بہت جلد تقدیر کا بدلاؤ تم پر اپنا تسلط جمائے گا۔ وہ سارے اچھے خواب جو تم نے ان حالات میں دیکھ رکھے ہیں، ضرور پورے ہوں گے لیکن اس کے لیے تمہیں بس ایک کام کرنا ہوگا، ورنہ بات نہیں بنے گی....."

کون سا کام باباجی؟ فیروزہ کا دل اندر ہی اندر بے قراری سے دھڑکنے لگا تھا۔ بابا نے بہ غور اس کا چہرہ دیکھا پھر بولے اپنے دل میں پہلے نرم گوشہ پیدا کر لڑکی، پھر خود کو متبادل بنانے کی تیاری کر۔ اگر تم اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ ڈھونڈنے میں کامیاب رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت، دولت، خوشی اور مرتبے کے حصول سے نہیں روک سکتی۔"

فیروزہ کی دھم دھماکتی دھڑکن میں جیسے ایک خوشگوار احساس جاگ ابھر تھا۔ وہ ایک عجلت سے بولی۔ "آپ کی کہی بات تھوڑی الجھی ہوئی ہے باباجی، میں تھوڑی وضاحت چاہتی ہوں۔ دل میں مرگوشہ تلاش کرنا سمجھ آتا ہے لیکن خود کو متبادل کیسے بناؤں.....؟ یہ آخری بات بہت عجیب ہے بابا صاحب، بیلے نہیں پڑی۔"

"پڑ جائے گی..... تجھے جلدی کا ہے کی ہے



کو چنگ سینٹر کا بورڈ دکھائی دیا۔ وہ اس کا نام پڑھتے ہی بے سوچے سمجھے کو چنگ سینٹر کے اندر داخل ہو گئی۔ جب ہی اُس کی نظر ڈاکٹر ارباز پر پڑی جو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کو چنگ کے کسی استاد سے بات چیت کر رہے تھے۔ فیروزہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ آج انہیں اچانک سامنے دیکھ کر دل بے قرار اور مضموم ہوا تھا۔ وہ فاصلے پر رہ کر ڈاکٹر ارباز کی بات سننے لگی، جو اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی استاد کی خدمت چاہتے تھے اور وہ استاد ان سے معذرت کر رہا تھا کہ وہ کو چنگ سینٹر کالج کے طلبہ طالبات کی سہولت کے لیے تھا اور وہاں بڑی کلاسز کو لیکچر دیے جاتے ہیں۔

اتنے چھوٹے بچوں کے لیے اس ادارے میں کوئی استاد نہیں تھا۔ اس کے صاف انکار پر ڈاکٹر ارباز کی پریشانی فیروزہ کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تو ڈاکٹر ارباز کا مسئلہ چنگی بجاتے حل کر سکتی تھی اور یہی سوچ کر وہ دل میں نرم گوشہ لیے ان کی جانب بڑھ گئی۔

آج پہلی بار وہ اُس شخص کے روبرو کھڑی تھی۔ جسے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے کچھ فاصلے پر گھر کے لان یا اندر کسی کمرے میں آتا جاتا دیکھا کرتی تھی۔ اس نے پاس جا کر ڈاکٹر ارباز سے اپنا تعارف کروایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کی مدد کر سکتی ہے کیونکہ وہ ایک ٹیچر ہے۔

ڈاکٹر ارباز کے چہرے پر پھیلی ساری کوفت لمحوں میں زائل ہوئی تھی۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر فیروزہ کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنا تعارف کروانے کے بعد پہلے فیروزہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ان کی پریشانی سن کر از خود ان کے بچوں کے لیے پاس چلی آئی تھی یہ بہت بڑی بات تھی۔

سے کام آؤ۔ دوسرے کا دل رکھنا ان کے درد دور کرنا ہی اُسے اپنے کڑے حالات میں تبدیلی لانے کا ذریعہ دکھائی دیتے تھے۔

فیروزہ نے خود کو پہلے سے زیادہ مصروف کر لیا تھا۔ اب وہ چھوٹے بچوں کو اور بھی محنت اور ایمانداری سے پڑھانے لگی تھی۔ نتیجتاً اور کئی بچے اس کی شاگردی میں آ گئے تھے، یوں انکم بڑھی تو کڑے حالات کی تنی ڈور کس قدر دھیلی پڑ گئی تھی۔

اب مہینے کے آخری دنوں میں اماں کے ہاتھ خالی نہ رہتے تھے، کھاپی کر بھی اتنی بچت ہو جایا کرتی تھی کہ آڑے وقت میں کام آ سکتا۔ مگر فیروزہ کو تب بھی سکون نہ تھا۔ ایک آسودہ حال زندگی، کھلے اور بڑے سے گھر میں رہنے بسنے کا خواب

اور کسی اپنے کی محبت میں زندگی کا مزہ لینے کی حسرت اس کی کمزوری بن چکے تھے۔ بابا جیسے ملاقات کے بعد فیروزہ کے اندر بہت مثبت تبدیلی رونما ہوئی اب وہ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کا پلان بنا رہی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد گھر کے

حالات کو سنبھالنے کے لیے تعلیمی سلسلہ موقوف کرنا پڑا تھا۔ اور اب جب فیروزہ بیگم زندگی کی جنگ نئے سرے سے جیتنے پر کمر بستہ تھی، تو اس نے موقع دیکھ کر پرائیویٹ طور پر ربی اے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تعلیمی سلسلہ ٹوٹے چھ سات سال

گزر گئے تھے۔ اس لیے نئی توانائی کے ساتھ پڑھنے اور بہتر نتیجہ پانے کے لیے اُسے خود بھی ایک ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ ایک ایسے ٹیچر کی جو کم از کم اسے انگریزی اور تاریخ جیسے مضامین کی تیاری کروا سکتا ہو۔ ایک طویل عرصے بعد تعلیمی

سلسلہ شروع کرنا فیروزہ کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس دن اسکول سے واپسی پر وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں ایک



فیروزہ نے ڈوہیب اور اس کی تین سالہ بھئی گڑیا سی بہن مسکان کو دکھے دل سے پیار کیا اور ڈاکٹر ار باز کو اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا کر ٹیوشن کے اوقات کار سے باخبر کیا، ڈاکٹر ار باز نے فوراً حامی بھری اور کہا کہ وہ بچوں کو اس کے گھر خود چھوڑنے آئیں گے۔“

فیروزہ کا بہت دل چاہا کہ وہ ان کی مسز رعنا کی موت پر اظہار ہمدردی کرے اور افسوس کے چند کلمات کہہ کر ڈاکٹر ار باز کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرے لیکن ایک تو وہ موقع مناسب نہ تھا، دوسرا سر راہ وہ خود کچھ کہنے کی ہمت پیدا نہ کر سکی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے کوچنگ میں اپنے داخلے کا بندوبست کیا تھا اور پھر گھر چلی آئی۔ آج ڈاکٹر ار باز وہ دوبارہ سامنے پا کر وہ جیسے آپ ہی مطمئن اور خوش ہو گئی تھی۔

اسی شام ڈاکٹر ار باز مقررہ وقت پر ڈوہیب اور مسکان کو لے کر اس کے گھر آئے تھے اور یوں فیروزہ نے انہیں اپنے ٹیوشن پڑھنے والے بچوں میں شامل کر لیا تھا۔ دونوں بچے کم عمر ہونے کے باوجود خاصے ذہین تھے، وہ اپنی ماں سے پڑھتے تھے شاید اسی لیے ان کی تربیت بہتر خطوط پر ہوئی تھی۔

اگلے دن جب ڈاکٹر ار باز جب بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے کے لیے آئے تو وہ خاصے الجھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ کسی انجانے تفکر پریشانی کے احساس سے بچھ رہا تھا۔ فیروزہ کچھ پل انہیں جانچتی رہی پھر ہمت کر کے پوچھ بیٹھی کہ انہیں کیا پریشانی تھی.....؟ ڈاکٹر ار باز فیروزہ کے استفار پر چونک کر اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو ذمہ دار بھی تھی قلع جو بھی۔ صورت کی بھلی تھی اور سیرت میں لا جواب تھی لیکن غریب تھی۔

”پلیز..... آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، تھوڑا وقت نکالنا آپ کے لیے مشکل نہ.....“

”نہیں ڈاکٹر صاحب..... فیروزہ نے عجلت میں ان کی بات کاٹ دی۔“ دوپہر چار بجے سے چھ بجے تک میں گھر میں پڑھاتی ہوں، پھر شام سات سے نو بجے تک مجھے کوچنگ جانا پڑتا ہے۔

اپنی کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے..... میں اپنی ادھوری تعلیم پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ایسی ٹف سچویشن میں آپ کے گھر آ کر آپ کے بچوں کو پڑھانا میرے لیے ممکن نہ ہوگا، کیونکہ نو بجے اپنی کلاس کے بعد تھکاوٹ سے چور ہوتی ہوں اور سونا چاہتی ہوں۔“

”اوہ..... تو پھر پراہلم ہو جائے گی میرے لیے۔“ وہ جیسے خود سے ہم کلامی کر رہے تھے۔

”کیسی پراہلم.....؟“ فیروزہ نے چونک کر انہیں دیکھا اور وجہ جاننا چاہی تو وہ بے کسی سے اس

”پلیز ڈاکٹر صاحب کہیے، میں سن رہی ہوں۔“ وہ ہمہ تن گوش ہو گئی۔

”مس فیروزہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر آ کر میرے بچوں کو ٹیوشن دے دیا کریں؟“ انہوں نے قدرے ٹھہرے انداز میں اپنا مدعا کہا تو فیروزہ نے فوری معذرت کر لی تھی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرے لیے ایسا ممکن نہ ہوگا، مجھے بہت مشکل ہو جائے گا ایڈجسٹ کرنا کیونکہ بچے زیادہ ہیں۔“

”پلیز..... آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، تھوڑا وقت نکالنا آپ کے لیے مشکل نہ.....“

”نہیں ڈاکٹر صاحب..... فیروزہ نے عجلت میں ان کی بات کاٹ دی۔“ دوپہر چار بجے سے چھ بجے تک میں گھر میں پڑھاتی ہوں، پھر شام سات سے نو بجے تک مجھے کوچنگ جانا پڑتا ہے۔



والی خاتون تھیں۔ یقیناً ان کا اچانک چلے جانا آپ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔“  
جی..... ڈاکٹر ارباز نے سنجیدگی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ”رینا واقعی بہت مثالی بیوی تھی، وہ اچھی ماں بھی تھی، اس کی موت نے مجھے ہی نہیں میرے بچوں کو بھی اعتماد سے محروم کر دیا ہے..... ہم سب بہت اکیلے پڑ گئے ہیں مس فیروزہ اور بہت الجھ گئے ہیں۔“

ان کا لہجہ حسرت و قیاس کا غمز تھا، فیروزہ کا دل ہمدردی سے بھر گیا، پُرسوج انداز میں بولی۔ ”اگر آپ چاہیں تو میں بچوں کے لیے دوپہر میں کچھ وقت نکال سکتی ہوں۔ کیا ذوہیب اور مسکان ایک بجے تک ٹیوشن کے لیے Available ہوں گے.....؟“

”دوپہر ایک بجے تک؟“ ڈاکٹر ارباز نے چونک کر فیروزہ کو دیکھا۔ ”نہیں مس فیروزہ ایک بجے تو بچے اسکول سے گھر لوٹتے ہیں وہ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام ضرور کریں گے، اسکول سے آنے کے بعد انہیں فوراً ٹیوشن کے لیے تیار کرنا ظلم ہوگا۔“

”سو تو ہے..... پھر میں کیا کروں؟ میرا اپنا دن بھر کا شیڈول بہت ٹائمیٹ ہے میں شام کے بعد کسی بھی طرح دونوں بچوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتی۔ یہ میرے لیے پاسل نہ ہوگا کیونکہ مجھے بھی اپنی پڑھائی کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔“

”جی میں جانتا ہوں آپ کا لگا بندھا روٹین ہے مس فیروزہ لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے بشرطیکہ آپ کو ناگوار نہ ہو تو.....؟“ وہ کچھ محتاط تھے۔

”آپ کہیے میں سن رہی ہوں.....“ وہ ان کی

کی صورت دیکھنے لگے۔  
”بات یہ ہے مس فیروزہ شام چھ سے رات 10 بجے تک میرا کلینک ٹائم ہے، گھر سے غیر حاضری کی صورت میں، میں چاہتا ہوں کوئی میرے بچوں کو نا صرف پڑھائے بلکہ میرے آنے تک ذوہیب اور مسکان کو سنبھالنے کی ڈیوٹی بھی انجام دے، میں اس کام کے عوض ٹیوشن فیس کے علاوہ بھی اضافی رقم دوں گا، بس مجھے چند گھنٹوں کے لیے کسی Attendant کی ضرورت ہے۔“

”اوہ! تو آپ کو اپنے بچوں کے لیے کوئی گورنرس چاہیے.....؟ یہی چاہتے ہیں نا آپ۔“  
فیروزہ نے انہیں پوچھا تھا۔

ارے نہیں بچوں کے لیے تو گورنرس موجود ہے اور وہ ایک بوڑھی خاتون ہیں دراصل وہ میری وائف رینا کی آنا ہیں، انہوں نے ہی رینا کو محبت سے پالا پوسا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ رینا سے الگ نہ رہ سکیں تھی لیکن اس کے انتقال کے بعد وہ غم سے نڈھال ہیں، رینا کی موت نے انہیں شدید ذہنی دھچکا لگایا ہے۔ ورنہ وہ ذوہیب اور مسکان کو آسانی سے سنبھال سکتی تھیں۔ میری والدہ یہاں نہیں رہتیں، انہوں نے کچھ دن بچوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا لیکن میں انہیں تعلیم کی وجہ سے وہاں پر نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ میری نوکری یہاں کے سرکاری اسپتال میں ہے اور شام کو میں اپنا ذاتی کلینک چلاتا ہوں۔ رینا کی بے وقت موت نے میرے گھر کو تنکوں کی طرح اڑا دیا ہے۔ ہم سب بے حد Suffer کر رہے ہیں۔

”ٹھیک کہتے ہیں آپ،“ فیروزہ بھی ڈاکٹر ارباز کے ساتھ اداس ہو گئی۔ مجھے آپ کی مسزکا دلی صدمہ ہے، وہ ایک خوبصورت اور محبت کرنے



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسجے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](https://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety](https://twitter.com/paksociety)



دیں گے، گھر سے اتنی دیر باہر رہنے کی صورت میں انہیں جانے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی دونوں بچوں کی عمر بہت کم ہے وہ لوگوں کے اچھے برے رویے کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے مصروف دور میں آپ کے دوست آپ کے بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ کیا آپ نے کسی دوست سے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے.....؟ کیا کوئی آپ کی مدد پر راضی ہے.....؟“

”نہیں، میں نے کسی سے ابھی کچھ نہیں پوچھا، یہ محض ایک آئیڈیا تھا اور میں نے سب سے پہلے اسے آپ کے سامنے رکھا ہے۔“

”اوکے! تو پھر میں اس آئیڈیا کو فوری طور پر مسترد کرتی ہوں، بچوں کو آپ کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب اور میں سمجھتی ہوں، ماں کے مرنے کے بعد ذویہیب اور مسکان آپ کے بغیر کہیں بھی نہ رہ سکیں گے کیونکہ اب آپ کی ذات ان کی جملہ توجی اور دلچسپی کا مرکز ہوگی۔“

”شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میں کیا کروں..... اپنی مجبوری میں کسی دوسرے سے کیسے شیئر کروں؟ میں بہت مشکل میں گرفتار ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی آیا کا بندوبست کروا دیں میرے بچوں کے لیے..... کسی ایسی عورت کا جو ذویہیب اور مسکان کے ساتھ پانچ سے چھ گھنٹے روزانہ گزار سکے۔“ ڈاکٹر ارباز نے جیسے درخواست کی تھی فیروزہ سوچ میں پڑگی پھر بولی۔

”میں کسی ایسی عورت سے واقف تو نہیں ہوں لیکن میں کوشش کروں گی آپ کا مسئلہ حل کروا دوں مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔“

”اوہ ٹھیکس مس فیروزہ..... اگر آپ ایسا کر سکیں تو میں آپ کا بے حد مشکور رہوں گا۔“ وہ

”کیوں نہ میں بچوں کو اسکول میں واپسی پر آپ کے یہاں چھوڑ دوں؟ آپ کو تھوڑا آکے ورڈ فیل ہوگا لیکن بچے آپ کے گھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں..... آپ ان کے کھانے پینے کی فکر نہ کریں، میں سارا انتظام کر دوں گا، بس آپ کو ذویہیب اور مسکان کی تھوڑی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ شام کو میں انہیں پک کر کے اپنے کسی دوست کے گھر چھوڑ دوں گا اور کلینک سے واپسی پر گھر لیتا آؤں گا، اس طرح مجھے ان کی فکر نہ ہوگی نہ وہ ڈسٹرب ہوں گے اور نہ ہی مجھے اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی برتنا پڑے گی۔“

فیروزہ کو ہنسی آگئی ان کا آئیڈیا بے حد نا معقول تھا، وہ جو اپنے بچوں کا تحفظ چاہ رہے تھے۔ اور ان کے ڈسٹرب نہ ہونے کا سوچ کر مطمئن ہونا چاہ رہے تھے۔ وہی بات سب سے غلط تھی۔ بچے نا صرف ضرورت سے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے بلکہ دوسروں کے گھروں میں رہ کر احساس کمتری میں بھی مبتلا ہو جاتے۔ روزانہ کی بنیاد پر کون کسی دوسرے کے بچوں کی ذمہ داری لیتا ہے، کڑے حالات میں وہ دوست بھی نگاہ پھیر لیا کرتے ہیں۔ جن پر ڈاکٹر ارباز کو یہ گمان تھا کہ ان کی خاطر ایک ہمدردی کے ساتھ بچوں کو اپنے گھر کا فرد بنا کر رکھیں گے اور ان سے بہتر رویہ بھی اپنائے رکھے گے۔

لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے مجبوری کے دنوں میں تو انسان کا سایہ تک اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر دوست احباب سے آس رکھنا کہاں کی عقلمندی تھی۔ فیروزہ نے ایک نظر ڈاکٹر ارباز کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولی۔ ”دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایسا کر کے آپ اپنے بچوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر



مس فیروزہ، جب شادی کا فیصلہ کروں گا تو دوسری عورت کی بچوں سے محبت اور سلوک کو بھی مد نظر رکھوں گا۔ فی الوقت ذوہیب اور مسکان کی نگہداشت بنیادی مسئلہ ہے۔“

فیروزہ نے کوئی جواب نہ دیا بس چپ سا دھے انہیں دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر ارباز چند پل اس کا جائزہ لینے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔ بچوں کو چھ بجے پک کرنے کا کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد فیروزہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے بیٹھ گئی۔ لیکن اس کا ذہن ڈاکٹر ارباز کے مسئلے میں ہی اجماع ہوا تھا وہ اپنی بیوی سے کتنے وفادار تھے اسے اس امر کا بہ خوبی اندازہ تھا۔

وعدے کے مطابق ڈاکٹر ارباز شام 7 بجے اپنے بچوں کو لینے آگئے ان کے جانے کے بعد فیروزہ اپنے کوچنگ سینٹر کے لیے روانہ ہو گئی لیکن وہاں دل پڑھنے میں نہ لگا تھا۔ حواسوں پر ذوہیب اور مسکان سوار تھے، کتنے معصوم اور خوبصورت تھے وہ دونوں۔ ماں نے انہیں ہاتھوں میں رکھ کر پالا تھا لیکن اس کے منظر سے بٹتے ہی وہ بچے حالات کی ٹھوکروں پر آگئے۔ ماں کی موت نے انہیں در بدری کے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ماں کا جانا کسی ناگہانی کی طرح انہیں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اور وہ بے چارے ابھی اس قابل کہاں تھے کہ باپ کی پریشانی سمجھ کر حالات کی تبدیلی سے سمجھوتہ کرتے۔

فیروزہ کی سوچیں جیسے اس فیملی کے اطراف گھومنے لگی تھیں۔ وہ ذہن سے ان بچوں کا خیال کتنا جھٹکتی وہ دونوں اتنا ہی حواسوں پر طاری ہو رہے تھے۔ دل میں ہمدردی کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ اور فیروزہ نے از خود بڑے جذباتی

یکدم جیسے پر امید ہو کر مسکرائے تھے۔ فیروزہ بھی مسکرا دی تھی۔“ اخبارات میں بہت سے اشتہار آتے ہیں اس قسم کے میں چند ایک عورتوں سے مل کر آپ کو مطلع کر دوں گی، فکر نہ کریں۔“

”بہت شکریہ..... رعنا کے بعد بچوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے اور سچ ہے کہ میں اپنے بچوں میں احساس محرومی نہیں دیکھ سکتا۔“

وہ ذوہیب کو گود میں بٹھائے کہہ رہے تھے، فیروزہ نے دوبارہ ان کی صورت دیکھی اور پھر آہستگی سے کہا۔“ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے ڈاکٹر صاحب۔“

”دوسری شادی.....؟“ وہ بے طرح چونکے نہیں، نہیں میں دوسری شادی کیسے کر سکتا ہوں کوئی بھی دوسری عورت رعنا کی جگہ نہیں کے سکتی۔ وہ بہت وفادار اور ذمہ دار عورت تھی۔ دوسری عورت میرے بچوں سے محبت بھی نہ کر سکے گی ایک ماں کی طرح۔“

”کیوں نہیں کر سکتے۔ ماما ہر عورت میں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب۔“

یقیناً ہوتی ہے لیکن دوسری ماں اپنی ماما کا اظہار اس طور کہاں کرتی ہے، جس طرح ایک سگی ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے ایسی عورتیں سگے سوتیلے کے فرق میں پڑ کر بچوں کو رول دیتی ہیں..... اور میں ذوہیب اور مسکان کو رولتا نہیں دیکھ سکتا وہ رعنا کی نشانی ہیں میرے پاس۔“

”آپ ہر عورت کو ایک ہی پیمانے پر نہ تولیے ڈاکٹر صاحب، جو آپ سوچ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔“ فیروزہ نے قدرے ناگواری سے انہیں سمجھایا تو وہ پھسکی سی ہنسی ہنس دیے۔“ فی الحال بچوں کو سنبھالنا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے



مجھے میرے سبکیکس پڑھا دیا کریں گے۔ کوچنگ کے لیے نہیں جاؤں گی تو وقت کی بچت ہوگی اور میں وہ سہولت آپ کے بچوں کے نام کر سکتی ہوں اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بچے میرے پاس رہیں گے اور انہیں کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی ان کے لیے کسی آیا کا انتظام کرنا پڑے گا۔ آج سے مسکان اور ذویب میری ذمہ داری ہوں گے۔

”ہاؤ از دس پاسبل.....؟ ڈاکٹر ارباز حیرت اور بے یقینی سے فیروزہ کو دیکھ رہے تھے۔ آج کے مطلبی دور میں کوئی اتنا پر خلوص بھی ہو سکتا ہے۔ کہ غیر کے بچوں کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو ثانوی کرے اور وقت بچانے کے لیے تعلیم کی قربانی بھی دے دے.....؟؟“

”شاید آپ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہیں..... پلیز خود کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ جانتی ہیں یہ فیصلہ آپ کے لیے کئی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ آپ خود زیرِ باہ ہو سکتی ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ اپنی والدہ کے ساتھ سلائی کڑھائی میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں، میرے بچوں کو وقت دے کر آپ دیگر بچوں کو ٹیوشن دینا بھی مشکل ہو جائے گا کیونکہ دو بچوں کی نگہداشت اور ان کی آپ کے گھر کئی گھنٹے کی موجودگی آپ کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔..... پلیز ایموشنل نہ ہوئے..... شاید آپ وہ نہ کر سکیں گی جو سوچ رہی ہیں..... ڈاکٹر ارباز نے فوری طور پر اُسے حقیقتِ حال سے روشناس کرنا کی کوشش کی تھی۔ لیکن فیروزہ کے ماتھے پر شکن تک نہ ابھری اور وہ اُسی اطمینان سے بولی..... آپ مجھے اور میری ہمت کو اتنا انڈر ایسٹی میٹ نہ کریں۔ جب میں خود آپ کے بچوں کے لیے ایک فیصلہ لے رہی ہوں تو آپ کو

انداز میں ان بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور شاید اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ فیروزہ نے ایک فیصلے کے تحت کوچنگ سینٹر میں ایک دن بعد ہی ادا کی ہوئی فیس واپس لے لی اور پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر ذویب اور مسکان کی آیا بننے پر آمادہ کر لیا۔ یہ فیصلہ اس نے پورے دل سے کیا تھا اور اُسے اس پر شرمندگی بھی نہ تھی۔ اگلے روز وہ ٹیوشن سے فراغت پاتے ہی ذویب اور مسکان کو لے کر ڈاکٹر ارباز کے آنے سے پہلے ہی ان کے گھر چلی آئی تھی۔ دروازہ ملازم نے کھولا اس نے بچوں کو کچھ کھلانے اور پھر سلانے کی تلقین کرنے کے بعد ملازم کو ڈاکٹر ارباز کو بلانے کا کہا تھا۔ ملازم نے فیروزہ کو گیٹ روم کی راہ دکھائی اور خود بچوں کو لے کر گھر کے اندورنی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ بعد ہی ڈاکٹر ارباز فیروزہ کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اُس کی آمد پر قدرے مسفکر تھے کہ وہ ذویب اور مسکان کو ٹیوشن پڑھانے سے شاید انکار کرنے آئی تھی۔ لیکن فیروزہ نے انہیں اپنے ارادے سے باخبر کیا تو ڈاکٹر ارباز بھونکے رہ گئے وہ لڑکی اتنا جذباتی ہو کر ان کے معاملے کو محسوس کر رہی تھی۔

”دیکھیے میں کچھ سمجھا نہیں مس فیروزہ.....“ ڈاکٹر ارباز نے پوری توجہ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ”کیا آپ آگے پڑھنا نہیں چاہتیں۔“ ”جی..... فی الوقت نہیں.....“ وہ بے حد اطمینان سے بولی تھی۔ ایک دو سال کی بات ہے بچے خود کو سنبھال لیں گے تو میں بھی مطمئن ہو جاؤں گی اسی دوران میری کوشش ہوگی کہ میں پرائیویٹ طور پر امتحان دے کر گریجویشن کر لوں۔ اس مقصد کے لیے آج میں نے کوچنگ کے سر اکرام اللہ سے اپنی مجبوری بیان کی ہے وہ گھر آ کر



بہتر طور پر ذوہیب اور مسکان کو سنبھالوں گی۔ ہاں اگر آپ کو میرے گھر کی غربت اور اطراف کا ماحول دیکھ کر اپنے بچوں میں احساس کمتری کا شکار ہونے کا خدشہ ہے تو میں اس کا حل بھی جانتی ہوں۔ آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کی غیر موجودگی میں مطلب آپ کے رات کو کلیننگ سے گھر لوٹنے تک اسی گھر میں ذوہیب اور مسکان کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ یہاں بیٹھ کر بھی انہیں پڑھا سکتی ہوں۔ ان کا خیال رکھ سکتی ہوں آپ کے دونوں بچوں کے لیے میرے جذبات خالص اور کھرے ہیں۔ میں انہیں بیچ راستے میں ہرگز چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں محبت پا کر کھودینے کا دکھ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، رعنا بھابی کے وفات کے بعد وہ دکھ ذوہیب اور مسکان کی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں انہیں پوری توجہ اور محبت سے سنبھالوں گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔“

کیا اعتراض ہے۔ آپ آم کھانے سے عرض رکھیے۔ میں رعنا بھابی سے اچھی طرح واقف ہوں وہ کیسی خاتون تھیں اور بچوں کو کیسے سنبھالتی تھیں۔ وہ تجربہ اور مشاہدہ اب میرے ضرور کام آئے گا مسکان اور ذوہیب میرے لیے جو اہمیت رکھتے ہیں شاید میں اس کی وضاحت بھی نہ کر سکوں لیکن یہ طے ہے وہ دونوں اب در بدر نہیں ہوں گے ان کی پرورش اور نگہداشت میری ذمہ دار ہوگی اور میں یہ سب کچھ کسی صلے کی تمنا کے بغیر کرنا چاہتی ہوں۔“

”لیکن، یہ ٹھیک نہیں ہے مس فیروزہ..... آپ کی اپنی ایک زندگی ہے کسی دوسرے کے بچے ہر وقت آپ کے سر پر سوار کیسے رکھ سکتی ہیں؟ بے شک آپ کی نیت اچھی ہے اور کسی صلے کی تمنا کے بغیر آپ میرے بچوں کو سنبھالیں گی لیکن..... لیکن یہ وقتی جذبات ہیں دو چار دن بعد آپ کا جذبہ سرد پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں مس فیروزہ میں اپنے بچوں کو ماں کے چھن جانے کے بعد کسی دوسری کی محبت سے اس طرح بے دخل ہوتا نہ دیکھ سکوں گا میرے بچے اگر آپ کے عادی ہو گئے، تو میں آپ کے بدلتے رویے کے بعد انہیں کس طور سنبھالوں گا یہ بھی سوچنے گا۔“

وہ بے حد پریشان تھے۔ فیروزہ کی قربانی اور بے وجہ اس حد تک ایثار کرنا ڈاکٹر ارباز کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اُسے حقائق بتانا چاہتے تھے۔ آنے والے وقت کے بدلتے تیوروں سے واقفیت دینا چاہتے تھے لیکن مس فیروزہ اسی اطمینان سے بیٹھی ان کی کہی کو سن رہی تھیں، ڈاکٹر ارباز کے خاموش ہوتے ہی وہ اطمینان سے بولی۔ ”بے وجہ کے اندیشے پالنا اکثر شرمندگی کا موجب بنتا ہے ڈاکٹر صاحب، میری نیت کی سچائی اور خلوص کی صداقت پر شک نہ کریں میں ایک آیا سے زیادہ

”لیکن..... لیکن کیوں مس فیروزہ.....؟ مجھے پلے نہیں پڑو رہا اس میں تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔ اگر تم روپے پیسے کی لالچ میں ایسا کر رہی ہو تو ابھی سن لو میں اچھا کما بھی لیتا ہوں تو دس پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں دے پاؤں گا۔ اور دس پندرہ ہزار تمہارے جذبات کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ آخر تم دیدہ و دانستہ خسارہ کیوں اٹھانا چاہتی ہو؟“ وہ جیسے زچ ہو گئے تھے، فیروزہ مسکرائی اور دھیرے سے بولی۔

”کیونکہ آپ میری نیت اور خلوص کو نہیں سمجھ رہے۔ میں نے آپ سے کسی رقم کا تقاضا نہیں کیا اور نہ ہی مجھے آپ سے کسی مالی فائدے کی چاہ ہے..... میں ٹیوشن اور ٹیچنگ سے اتنا کمالیتی ہوں کہ مارے باندھے گزر بسر ہو جاتی ہے اور پھر اماں بھی سلائی کا کام اچھا کر لیتی ہیں۔ سو پیسہ



میری کمزوری نہیں ہے بہر حال آپ اجازت دیں گے تو میں ذوہیب اور مسکان کے لیے اپنا وقت دے پاؤں گی ورنہ آپ کو اگر اعتراض ہے تو بس بات یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ مجھے اجازت دیجیے۔“ وہ لمحے کے ہزاروں حصے میں اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا اس طرح اچانک اٹھ جانا ڈاکٹر ار باز پر تھوڑا دباؤ ڈال گیا تھا۔ وہ بدحواسی سے بول پڑے۔ ”پلیز ابھی مت جانا میری بات ختم نہیں ہوئی ہے۔“

فیروزہ نے نظر بھر کر انہیں دیکھا اور سنجیدگی سے بولی۔ ”اور کیا کہیں گے آپ جب مجھ پر بھروسہ ہی نہیں تو پھر کوئی بات طے نہ ہو پائے گی۔“

”نہیں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے۔“ ڈاکٹر ار باز نے اس کی کہی کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلی بات کہہ دی۔ فیروزہ سوالیہ نظروں سے انہیں تنکٹے لگی تب وہ بولے۔ ”چلو مان لیا کہ تم بے غرض ہو کر کسی صلے کی تمنا کے بغیر یہ سب کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ بھی تو سوچو کہ آفٹر میرج کیا تم یہ سب کچھ کر پاؤ گی تم اچھی خاصی سمجھ دار لڑکی ہو میرے اندازے کے مطابق چھبیس ستائیس برس کی تو ہوگی کیا تمہاری اماں تمہارے شادی نہ کریں گی۔“

”کریں گی..... لیکن جب شادی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔“ فی الحال دور تک ایسی بات کا امکان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بے فکر رہیے۔ میں آپ کو یا آپ کی اولاد کو کسی خسارے میں نہیں رکھوں گی۔ جو بھی کروں گی ذوہیب اور مسکان کی بھلائی کے لیے کروں گی۔

”لیکن کیوں فیروزہ.....؟“ آخر یہ سب کرنے کا کوئی تو مقصد ہو گا نا..... میں تمہارے جذبات اور نیت پر یونہی تو بھروسہ نہیں کر سکتا۔“

کچھ خفا سا انداز فیروزہ کو قدرے روہانسا کر گیا۔ وہ جذباتی ہو کر اپنی پلکوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے بولی۔ ”اگر آپ سچ جانا چاہتے ہیں تو سن لیجیے، کسی نے مجھے کہا تھا اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کرو۔ دوسروں کی امداد کرو دکھ سکھ بانٹو کہ تمہارا بھی بھلا ہو۔ سو ڈاکٹر صاحب درحقیقت میں خود اپنا بھلا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں بھی بہت تکلیف میں ہوں لیکن خدا کی قسم میرے دل میں نیت اور سچائی اور خلوص شامل ہے۔ میں آپ کے گھر میں جانے کب سے دور بیٹھے اس فیملی کا حصہ بن گئی ہوں، میرے کمرے کی کھڑکی سے آپ کا گھر اور اس گھر کا کاہر کمرہ صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ میں اخلاقی طور پر آپ کی مجرم ہوں ڈاکٹر صاحب..... کیونکہ میں نے ہر پل آپ کی نجی زندگی کو خود بھی جیا ہے۔ رعنا بھابی سے آپ کی محبت اور ایک اچھے شوہر کی طرح ان کا خیال رکھنا کچھ بھی میری نگاہ سے چھپا نہیں تھا۔ میں اس گھر کی ہر خوشی میں دور بیٹھ کر بھی شامل رہی ہوں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ذوہیب اور مسکان اس گھر کی سب سے بڑی اہم خوشی ہیں۔ وہ زندگی ہیں آپ کی اسی لیے رعنا بھابی کے بعد مسلسل پریشان ہیں، اور آپ کی پریشانی میرے دل کو چھوئی ہے ڈاکٹر صاحب، میں اُسے کم کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے دل کے نرم گوشے کے ساتھ جسے بنانے کی مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ لیکن آج وہ نرم گوشہ میرے دل میں از خود بن گیا۔ آج میں نے دل اور جذبات کی مکمل حمایت کے ساتھ آپ کے بچوں کا دکھ محسوس کر کے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے..... آپ مجھے روکیں گی تو تب بھی میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ کیونکہ ایسا کرنے کے لیے میں مجبور ہوں۔“



کب تک زندہ تھی۔ ماں کے بعد اُسے بھی تنہائی کی اذیت اٹھانی پڑتی۔ وہی اذیت جو آج ڈاکٹر ارباز اپنے بچوں سمیت اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر سکھ کا احساس پایا تھا۔

”میں پوچھنا چاہتا ہوں فیروزہ.....“ ڈاکٹر ارباز نے اس بار اس کے نام کے ساتھ مس کا لاحقہ استعمال نہیں کیا تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی۔“

”جی.....؟؟“ فیروزہ پر ساتوں آسمان اکٹھے ٹوٹ کر گرے تھے۔ ”شادی..... آ..... آپ سے؟“

”ہاں کیا مجھ سے شادی کرو گی.....؟ ذوہیب اور مسکان کی خاطر کہ تمہاری نیت اور خلوص کی قدر اسی طور کی جاسکتی ہے، فی الحال میں..... اپنی زندگی میں تمہیں رعنا کے متبادل کے طور پر لاؤں گا کیونکہ اس کی جگہ پر تمہیں کھڑا کرنا اور بیوی کی محبت دینا شاید ممکن نہ ہوگا۔ رعنا میری محبت تھی، میرے بچوں کی ماں تھی لیکن کل میرے جذبات بدل بھی سکتے ہیں۔ اگر تمہیں رعنا کی محبت میں حصہ دار بنا کا تو تم متبادل نہیں رہو گی۔ پلیز میرے جذبات سمجھتی ہو تو یہ شادی ہو سکتی ہے۔“

ورنہ ڈاکٹر ارباز نے جملہ خود ہی ادھورا چھوڑ دیا تھا، ادھر فیروزہ بے یقین کھڑی تھی۔ اُسے اعتبار نہ آ رہا تھا کہ وہ مسز رعنا کا متبادل بن کر زندگی کی خوشیوں سے اس طرح اپنا حصہ پانے کی حق دار بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے ڈاکٹر ارباز کو ایک نظر دیکھ کر بے سوچے سمجھے اثبات میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں تبدیلی اچانک در آئی تھی۔ دل کے نرم گوشے نے بالآخر اُسے ایک بڑے سے گھر کا مکین بنانے کا انتظام کر دیا تھا۔

وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ بولتی چلی گئی۔ ادھر ڈاکٹر ارباز کی بولتی بند تھی۔ فیروزہ نے اپنی روانی میں کتنے اہم انکشافات کر ڈالے تھے۔ وہ دور بیٹھ کر ان کے گھر میں تاک جھانک کرتی تھی۔ ان کی پرسنل زندگی کی گواہ تھی۔ ان کی اور رعنا کی محبتوں کی امیں تھی۔ وہ دور رہ کر بھی ان کے گھر میں موجود رہتی تھی۔ ”اُف خدایا..... یہ سب کیا ہے.....؟ کیا یہ لڑکی پاگل ہے یا حد سے زیادہ حساس ہے، کیا کروں میں اس کا.....؟“

وہ اُسے گھور رہے تھے اور ادھر فیروزہ دل تھام کر رونے لگی تھی۔ اُسے سچ بول کر شرمندگی ہو رہی تھی یا وہ دل کھول کر رکھ دینے پر تجل ہوئی کھڑی تھی۔ چند ساعتیں بڑی خموشی اور تیزی سے گزر گئیں۔ ڈاکٹر ارباز کے من میں جیسے آتس فشاں سلگ رہا تھا۔ وہ لڑکی کی دیدہ دلیری سے اپنی اخلاقی چوری کا جواز پیش کر رہی تھی۔ اپنے منہ سے بتا رہی تھی کہ ان کے اور رعنا بھابی کے درمیان محبت کے ہر پل سے واقف تھی اور اب.....؟؟“

انہی سر تا پا پسینہ آ گیا اور اب وہ اور پاس آ کر ان کی زندگی میں بچوں کے توسط سے مداخلت کرنا چاہتی تھی۔ کیا اُسے اس حرکت کی اجازت ملنی چاہیے تھی۔ کیا اُسے ذوہیب اور مسکان کی نگہداشت اور پرورش کا ذمہ دار ٹھہرایا جاسکتا تھا۔ کیا ڈاکٹر ارباز فیروزہ کو اپنے گھر بار بار آنے کی اجازت ان حالات میں دے سکتے تھے۔ جب وہ خود اپنی بیوی کی موت کا غم منا رہے تھے۔.....؟“

وہ سوچتے رہے، سوچتے رہے اور پھر لمحوں بعد انہوں نے اپنے سامنے کھڑی فیروزہ کو ایک دوسری نظر سے دیکھا تھا۔ اچھی لڑکی تھی وہ..... عام سی سادہ شکل و صورت رکھنے والی لڑکی۔ جس کا کوئی مستقبل نہ تھا۔ ایک ماں بھی وہ بھی جانے



## مشہور مصنفین کے مقبول ترین ناول

|       |   |                  |   |                      |
|-------|---|------------------|---|----------------------|
| 400/- | — | اعجاز احمد نواب  | — | آشیانہ               |
| 600/- | — | اعجاز احمد نواب  | — | جزیرہ                |
| 300/- | — | شازیہ اعجاز شازی | — | تیری یادوں کے گلاب   |
| 500/- | — | غزالہ جلیل راؤ   | — | کانچ کے پھول         |
| 300/- | — | محمد سلیم اختر   | — | یہ دیا بھجنے نہ پائے |
| 400/- | — | ایم اے راحت      | — | وش کنیا              |
| 300/- | — | ایم اے راحت      | — | درندہ                |
| 200/- | — | ایم اے راحت      | — | تھلی                 |
| 200/- | — | ایم اے راحت      | — | بھرم                 |
| 400/- | — | خاقان ساجد       | — | چپوں                 |
| 150/- | — | خاقان ساجد       | — | وحوش                 |
| 300/- | — | قاروق انجم       | — | دھواں                |
| 300/- | — | قاروق انجم       | — | دھڑکن                |
| 700/- | — | انوار صدیقی      | — | درخشاں               |

قریبی بک اسٹال سے طلب فرمائیں

# نواب سنز پبلی کیشنز

11/192، کوچہ میاں، داتا بخش، اقبال روڈ، کیشی چوک راولپنڈی 151-5555275



## افسانہ صرف آصف

### غلط فہمی

دو خوبصورت لڑکیوں کو اپنے سامنے یوں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کی انا کو بہت تسکین پہنچ رہی تھی۔ اچانک اریبہ نے دیکھا کہ سارہ اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اریبہ ہکا بکارہ گئی۔ عاشر بھی اس کی اس حرکت پر حیران ہوا۔ ابھی اس.....

حد تک چلی جائے گی۔ وہ تو چھوٹی سی نیکی کرنے چلی تھی۔

”آپ لوگ یہ بات مان کیوں نہیں لیتے کہ میں تو وہاں صرف سارہ کو بچانے کے لیے گئی تھی؟ میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔“ اریبہ چیخ کر بولی مگر اس وقت سارے گھر والے اتنا الجھ گئے تھے کہ کچھ بول ہی نہیں پارے تھے۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کی امی تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھیں۔ ان پر اریبہ کی گریہ و زاری کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں پر توٹی وی شو کے وہ حصے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے جس میں ان کی بیٹی پارک میں ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ پائی گئی تھی اور پروگرام کی اینکر بڑے زور شور سے ان دونوں کا آپس میں رشتہ پوچھ رہی تھی ساتھ ساتھ والدین کی عزت کی دہائی بھی دے رہی تھی۔

یہ پروگرام صبح کے وقت ایک چینل سے نشر ہوا تھا، یقیناً ان کے بہت سارے رشتے داروں نے

”پلیز امی، آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آرہی کہ اس معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے؟“ اریبہ کی روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی تھیں مگر اس کی امی کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔

”ساری دنیا نے ٹی وی پر جو منظر دیکھا، اس کے بارے میں تم کس کس کو صفائیاں دو گی؟ یہ ہونٹوں نکلی بات نہیں بلکہ آنکھوں دیکھی ہے۔ اس مارننگ شو میں تم ایک ادارہ لڑکے کے ساتھ کھڑی دکھائی دی ہو، یہ سب دیکھنے کے بعد کون تمہاری بات پر یقین کرے گا بولو؟“ انہوں نے بیٹی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سارے گھر والے اس کے گرد اجنبیوں کی طرح کھڑے تھے۔

اریبہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پر ایسا برا وقت بھی آسکتا ہے جب سارے اپنے پرانے بن جائیں گے۔ اس کے حواس گم ہو رہے تھے مگر اپنا سچ ثابت کرنے کے لیے فی الحال اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ بات اس



اریبہ کے گھر فون کروایا گیا مگر اس کے گھر والوں کو کچھ خبر ہوتی تو وہ صفائی دیتے، ان کی خاموشی کو ان کا جرم سمجھا گیا اور رشتہ توڑنے کی باتیں کی جانے لگیں۔ ایک قیامت تھی جو چند گھنٹوں میں اس گھر اور اس کے مبینوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔

اریبہ اس سارے واقعے پر حیران و پریشان تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی نرم مزاجی اور ہمدردی کی عادت اسے کبھی یوں بھی مہنگی پڑ سکتی ہے۔

’مجھے سارہ سے بات کرنی چاہیے۔‘ تھوڑی دیر بعد جب اس کے حواس کچھ ٹھکانے آئے تو اس نے اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے موبائل نکالا اور سارہ کا نمبر ملانے لگی۔ صرف ایک سارہ ہی تھی جو اس

اسے دیکھا ہوگا کیونکہ اب ہر گھر میں یہ مارنگ شوز بڑے ذوق و شوق سے دیکھے جاتے ہیں، خصوصاً خواتین صبح کے وقت ٹی وی آن کر کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے کام نمٹاتی جاتی ہیں۔

نسرین کو تو اریبہ کے سسرال والوں کی فکر تھی کہ ان کا رد عمل کیسا ہوگا؟ ان کا یہ خدشہ بے جا نہ تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے غصے بھرا فون آ گیا۔ اریبہ کی تند بڑے شوق سے صبح کے سارے پروگرام دیکھتی تھی اس نے بھابھی کو ٹی وی پر دیکھا تو شور مچا کر خوشی خوشی سارے گھر والوں کو جمع کر لیا۔ اریبہ کی ساس نے جو اپنی نئی نوپلی بہو کو پروگرام کی میزبان کے بے ہودہ سوالات کی زد میں دیکھا تو بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئیں۔ ان کا تو بی بی لو ہو گیا، فوراً ہی



**Downloaded From**  
**Paksociety.com**

163

READING  
Section



نظر آتی نا؟“ عارفہ اس کی بات کاٹ کر دھاڑیں۔  
 ”آئی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پلیز میں تو سارہ  
 کے ساتھ گئی تھی۔ اسے بلائیں، وہ ساری بات کلیئر  
 کرے گی۔“ اریبہ کو اپنی دوست پر اعتبار تھا اسی لیے  
 بولی۔

”میں اس سے پوچھ چکی ہوں، وہ تو تمہارے  
 اس افیئر سے بھی لاعلم ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں  
 اپنے والدین کا نام خراب کرتے ہوئے اور اب  
 میری بیٹی کے پیچھے پڑی ہو۔ آئندہ یہاں فون کیا تو  
 تمہارے گھر آ کر ایسا شور مچاؤں گی کہ دنیا تماشہ  
 دیکھے گی۔“ انہوں نے غصے میں فون بیخ دیا۔ اریبہ  
 سن سی بیٹھی رہ گئی پھر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ  
 پھوٹ کر رو دی۔

☆☆☆

آئس بلیو بھاری کا مدار گرتہ اور گلابی چوڑی  
 دار پاجامہ میچنگ چوڑیاں، میک اپ کٹ، سونے  
 کی نازک سی رنگ بڑے سے شاپر میں ساری چیزیں  
 رکھ دی گئیں۔

یہ وہ چیزیں تھیں جو اریبہ کے سسرال سے نکاح  
 پر آئی تھیں۔ ہر چیز بہت اعلیٰ تھی۔ جس نے دیکھا  
 تعریف کی مگر اب جب لڑکے والوں نے ان کی  
 طرف سے عدنان کے لیے بھیجا گیا سارا سامان  
 واپس کر دیا تو اریبہ کی امی نے بھی یہی مناسب سمجھا  
 کہ وہ اریبہ کو ملنے والا سارا سامان واپس بھجوادیں۔  
 اریبہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔

یہ نہیں تھا کہ اس کو عدنان سے عشق ہو گیا تھا  
 مگر نکاح کا مضبوط رشتہ قائم ہو جانے کے بعد سے  
 اسے اس کے ساتھ ایک جذباتی سا لگاؤ پیدا ہو گیا  
 تھا پھر جن حالات میں اس کے سسرال سے نکاح ختم  
 کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں وہ اس کے لیے بہت  
 تکلیف دہ تھے۔

کی بے گناہی ثابت کر سکتی تھی مگر اس کا فون سوچ  
 آف آرہا تھا۔ ’اف‘ اب کیا کروں؟ اریبہ پر  
 گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ اس نے سارہ کا لینڈ لائن نمبر  
 ملا یا۔

”ہیلو کون بات کر رہا ہے؟“ دوسری طرف سے  
 سارہ کی امی نے فون اٹھایا۔

”السلام علیکم! آئی! میں اریبہ بات کر رہی  
 ہوں۔ پلیز میری سارہ سے بات کروادیں۔“ اس  
 نے بھرائی ہوئی آواز میں جلدی جلدی اپنا مدعا بیان  
 کیا۔

”وہ سو رہی ہے۔“ ان کا لہجہ اس کا نام سنتے ہی  
 ایک دم کرخت ہو گیا۔ اریبہ کو بہت برا تو لگا۔ یہ وہ  
 ہی آئی تھیں نا جب بھی بات کرتی تھیں تو اریبہ کے  
 لیے ان کے لہجے سے شہد شپکتا تھا مگر آج ان کے لہجے  
 کی اجنبیت اسے بہت دکھ دے رہی تھی مگر اس وقت  
 غرض اس کی تھی۔

”پلیز آئی مجھے بہت ضروری کام ہے، اس کو  
 اٹھا دیں۔“ اریبہ لجاجت سے دوبارہ گویا ہوئی۔

”دیکھو بی بی، میں صاف بات کہنے کی عادی  
 ہوں، تمہارے کروتوت تو صبح سویرے کے شو میں ہم  
 سب نے دیکھ لیے ہیں اس لیے سارہ اب تم سے نہ  
 ملے گی نہ ہی بات کرے گی۔ سارہ کے پاپا نے بھی  
 اسے تم سے دوستی رکھنے کے لیے سختی سے منع کر دیا  
 ہے۔“ عارفہ آئی کا اجنبی لہجہ اریبہ کے دل پر آرے  
 چلا رہا تھا۔

”آئی پلیز اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ  
 تو سارہ ہی ملنے.....“ اریبہ رو دی۔

”خبردار جو تم نے میری معصوم بیٹی کا نام  
 لیا، سارے شہر نے نی وی پر تمہیں ایک غیر لڑکے کے  
 ساتھ دیکھا، تم میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو؟ اگر  
 میری بیٹی اس مسئلے میں انوالو ہوتی تو نی وی پر وہ بھی



بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں ان کے پیاروں کے دل مزید دکھی نہ ہو جائیں۔

”اف میرے اللہ! میری مدد فرما، مجھ بے گناہ پر جو الزامات تھوپ دیے گئے ہیں، ان سے میری گلو خلاصی فرما۔“ اریبہ سجدے میں گڑگڑا کر بس ایک ہی دعا مانگتی رہتی۔

اس نے کئی بار سارہ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کا سیل فون مسلسل بند ملتا۔ لینڈ لائن پر بھی اس نے کئی بار فون کیا مگر سارہ کی امی کی کرخت آواز سن کر فون خاموشی سے رکھ دیا۔

نسرین نے اپنی بیٹی کی بات ختم ہونے کی خبر ابھی تک خاندان میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے ایک بار عدنان سے بات ہو جائے، شاید یہ ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر سے جڑ جائے مگر اس کے دیئے ہوئے نمبر پر وہ لوگ جب بھی کال ملاتے فون میسج پر چلا جاتا تھا۔ ہنستا گھرانہ ایک پل میں خاموش تصویر میں تبدیل ہو چکا تھا۔

☆☆☆

سارہ سے اس کی دوستی کالج میں ہوئی تھی۔ وہ خوابوں میں رہنے والی معصوم سی لڑکی تھی۔ اریبہ کا کالج میں پہلا دن تھا۔ اس نے فرسٹ ایئر فوٹ کے بارے میں اپنی کزنز سے بہت سے قصے سن رکھے تھے اسی لیے وہ اندر سے کچھ سہمی ہوئی تھی تاہم ہونق بننے کی جگہ پر اعتماد نظر آنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ بیگ کو کاندھے پر ڈالتے ہوئے اس نے کالج کی طرف قدم بڑھا دیئے۔ ابھی وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ بڑے سے بادام کے درخت کے نیچے ایک معصوم سی لڑکی کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔

اس نے چاہا کہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے مگر اس کی نرم دلی نے اس بات کو گوارا نہ کیا اس

اریبہ کے گھر والوں نے اس کے سسرال جا کر معاملات سدھارنے کی بڑی کوشش کی مگر اس کی ساس کوئی بات سننے پر تیار نہ تھیں۔ یوں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ گار ٹھہرا دی گئی۔ اریبہ عدنان کی تصویر پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عائشہ نے چھوٹی بہن کو گلے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اریبہ اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ نکاح کے بعد عدنان جب تک پاکستان میں رہا ان دونوں کی فون پر خاصی لمبی باتیں چلتی تھیں۔ سب کہہ رہے تھے کہ اریبہ نکاح کے بعد اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ شاید اسے سب کی نظر ہی لگ گئی ہے۔ عائشہ نے بہن کو دیکھ کر دل ہی دل میں ملال کیا۔ یہ مارنگ شو والی بات اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔

عدنان نکاح کے بعد واپس اپنی جاب پر آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ یہاں ہوتا تو شاید اریبہ کے لیے کچھ اسٹینڈ لے پاتا گو کہ ان دونوں کی نسبت والدین کی رضامندی سے طے پائی تھی مگر نکاح کے موقع پر جس طرح عدنان نے اریبہ کی پسند کو مد نظر رکھا اور اس کی پذیرائی کی، اس سے وہ بہت خوش تھی اسی لیے ایک اچھے انسان کو کھونے کا اسے دلی صدمہ ہو رہا تھا۔

☆☆☆

اتنی رسوائی، اتنی بدنامی سوچ سوچ کر ان سب کا دماغ پھٹنے سا لگا تھا۔ گھر والوں میں سے کسی کا دل نہیں مانتا تھا کہ اریبہ ایسا کر سکتی ہے؟ وہ تو اتنی نفیس مزاج کی لڑکی ہے۔ ٹی وی پر نظر آنے والا لڑکا تو شکل سے ہی خبیث نظر آ رہا تھا، کہیں تو کچھ غلط ہوا ہے۔ اریبہ کے والدین کے ساتھ گھر والوں کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا مگر سب بدنامی کی اس تیز لہر میں یوں بہہ گئے کہ کنارہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔

اہل خانہ ایک دوسرے سے اس مسئلے پر بات



نے جو دو سو روپے دیئے تھے وہ پورے نکال کر بوڑھی فقیرنی کے پھیلے ہاتھ پر رکھ دیئے اور بچے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ فقیرنی دُعا میں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔

اب تو پیدل ہی گھر جانا پڑے گا کیونکہ سارے پیسے تو اس بوڑھی عورت کو دے دیئے۔ اریبہ نے چلچلاتی ہوئی دھوپ کی وجہ سے اپنے جرتل سے سر پر سایہ کیا اور گھر کے راستے پر چل پڑی۔

آج ٹیسٹ کی وجہ سے مسلسل پڑھتی رہی۔ کئی بار سوچا کہ کینٹین جا کر ایک سموسہ ہی کھالے مگر نسیمہ کے بغیر کینٹین جانے کا دل نہیں کیا۔ اب بھوک سے برا حال تھا۔ گرمی کی وجہ سے گھر کا راستہ بھی طویل لگ رہا تھا۔ اتنے میں اس کے سامنے سے ایک رکشہ دھواں اڑاتا ہوا گزرا۔ اریبہ نے جھنجھلا کر ڈرائیور کو گھورا تو رکشے کی کچھلی سیٹ پر وہی بوڑھی عورت اور اس کا پوتا مزے سے بیٹھے نظر آئے۔ ہاتھ میں بن کباب اور جوس کا ڈبہ تھا۔ ہنستے مسکراتے چلے جا رہے تھے۔ اریبہ کو دیکھتے ہی بوڑھی عورت نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ اریبہ کی تو جیسے جان جل کر رہ گئی۔ گھریٹ پہنچنے پر جب امی نے اس کی صحیح سے کلاس لی تو اس نے سب کو روتے ہوئے اپنے بے وقوف بننے کا یہ واقعہ سنایا پھر تو سب نے اس کا جو ریکارڈ لگایا تو وہ بھی روتے روتے ہنس پڑی۔

یہی وجہ تھی کہ کالج میں داخلہ لینے کے بعد سے پورے گھر نے مل کر اسے یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ اسے اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔

”اے ہمدرد دو خانہ، وہاں بڑی بڑی ہوشیار لڑکیاں ملیں گی جو تم جیسوں کو کھڑے کھڑے بیچ کھا میں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اس لیے پلیز پہلے پرکھنا پھر دوستی کرنا۔ کوشش کرنا کہ اپنے کام سے کام ہی رکھو۔“ بڑی بہن عائشہ نے سر پر چپت مار کر سمجھایا

لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ گئی۔ ماضی میں بھی اریبہ نے اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے بڑے نقصان اٹھائے تھے۔ کئی لوگ اسے بے وقوف بنا کر اپنا کام نکال لیتے اور وہ منہ دیکھتی رہ جاتی۔

اس کے اسکول کا ایک واقعہ یاد کر کے سارا گھر آج بھی اس پر ہنستا تھا۔ اریبہ کا اسکول اس کے گھر سے دو اشاپ پہلے پڑتا تھا۔ وہ اپنی دوست نسیمہ جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی، اس کے ساتھ بڑے آرام سے بس پر اسکول آتی جاتی تھی۔ ایک دن بسوں کی ہڑتال تھی اس لیے نسیمہ کے گھر والوں نے اس کی چھٹی کروادی۔ اریبہ کا بہت اہم ٹیسٹ تھا اس لیے اس کا جانا ضروری تھا۔ پہلے تو اس نے نسیمہ کی منتیں کیں کہ وہ اس کے ساتھ اسکول چلے مگر اس نے منع کر دیا کہ باجی رنے آئی ہوئی ہیں پھر اس نے اپنی امی کو اپنی مشکل بتائی کہ ٹیسٹ کی وجہ سے اسکول جانا ضروری ہے۔ صبح بڑے بھائی نے اسکول چھوڑ دیا۔ واپسی کے لیے اسے کرائے کے پیسے دیئے کہ وہ رکشا کر کے گھر چلی جائے۔ اسکول ختم ہونے کے بعد وہ رکشے کی تلاش میں اکیلے چلتی ہوئی مین روڈ کی طرف آئی۔ ہڑتال کی وجہ سے روزمرہ کی گہما گہمی نظر نہیں آرہی تھی۔ اسکول میں بھی لڑکیوں کی حاضری بہت کم تھی۔ وہ خالی رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت چھوٹے سے بچے کا ہاتھ تھامے اس کے نزدیک آکھڑی ہوئی۔

”بیٹی.....! میرا پوتا اڑ پوتا بیمار ہے، کچھ پیسے دے دو۔ ڈاگڈر صیب سے اس کی دوائی لینی ہے۔ اوپر والا تمہیں بہت دے گا۔ پرچوں میں پاس کرائے گا۔“ وہ بوڑھی عورت گڑگڑا کر اس سے فریاد کرنے لگی۔ بچہ بھی مسلسل پیٹ پر ہاتھ رکھے ہائے ہائے کر رہا تھا۔ اریبہ کو ان غریبوں پر بڑا ترس آیا۔ اس نے اپنی یونیفارم کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ صبح بھائی



سخت گیر شخصیت کے حامل تھے۔ شروع سے ان کی بے جا سختی نے ان کے بچوں پر منفی اثرات مرتب کیے تھے۔ ان میں اعتماد کی کمی تھی اور وہ گھر کے گھٹے ہوئے ماحول سے فرار چاہتے تھے۔ سارہ کی امی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے آگے کسی مسئلے پر بول سکیں یا بچوں کی حمایت کر سکیں مگر پورے محلے میں وہ لڑاکا مشہور تھیں، شاید اس طرح وہ اپنے شوہر کی جانب سے کی گئی ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لیتی تھیں۔

کالج میں ایک سال سارہ کے ساتھ گزارنے کے بعد اریبہ کو اندازہ ہوا کہ گھر کے ماحول نے سارہ کے دل میں بچپن سے ایک بغاوت کا پودا اگا دیا تھا مگر اب کالج میں ملنے والی تھوڑی آزادی نے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنے والد سے بہت ڈرتی ہے مگر گھر سے باہر سارہ اپنی ساری نا آسودہ خواہشات پوری کرنا چاہتی تھی۔ اس میں ایک چاہے جانے کی بھی خواہش تھی۔ وہ ایک حساس لڑکی تھی بچپن سے اپنے والدین کی محبت پانے کے لیے نت نئی حرکتیں کرتی مگر محبت کی جگہ باپ کی مار اور ماں کی گالیاں ملیں تو وہ نا آسودہ رہی۔ یہی وجہ ہے جب عاشق نے اس پر اپنی جھوٹی محبت کا جال پھینکا تو وہ اپنی رضا سے اس میں پھنستی چلی گئی۔

☆☆☆

”یہ کون تھا؟ تم کس کے ساتھ کالج آئی ہو؟“ اریبہ کا آج پہلا پیریڈ فری تھا تو وہ تھوڑا لیٹ کالج آئی۔ گیٹ پر اس نے سارہ کو ایک گاڑی والے کے ساتھ دیکھا جو شکل سے ہی لفتنگا نظر آ رہا تھا۔

”وہ.....عاشق..... ہے، مجھ سے..... بہت محبت کرتا ہے۔“ سارہ نے اریبہ سے آنکھیں چراتے ہوئے اٹک اٹک کر کہا جیسے اسے خود بھی اس

تو وہ ہنس دی۔ جانتی تھی کہ وہ سب کی چہیتی ہے اسی لیے سب اس کے بھلے کے لیے سمجھاتے رہتے ہیں مگر وہ اس دل کا کیا کرتی جو انسانی ہمدردی سے لبریز تھا، کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر اس کے اپنے آنسو بہہ جاتے تھے۔

سارہ کے آنسو بہتے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر پرانے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی سوچی اور اس کے قریب جا پہنچی۔

”کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟“ اریبہ نے اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے پوچھا۔

”صبح گھر سے کالج کے لیے نکلی تھی تو طبیعت ٹھیک تھی اب اچانک گھبراہٹ ہو رہی ہے، سر بھی بری طرح سے چکرار رہا ہے۔“ وہ روتے ہوئے بولی۔ اریبہ نے سارہ کی پیشانی چھو کے دیکھی تو وہ جل رہی تھی۔

”میرے اللہ! تمہیں تو تیز بخار ہے، یہاں ڈسپنری تو ہوگی، چلو تمہیں وہاں لے چلتی ہوں، کوئی نہ کوئی دوا مل جائے گی۔“ اریبہ نے ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسری لڑکیوں سے پوچھتی ہوئی اسے لے کر ڈسپنری پہنچ گئی۔ دوا کھلا کر اسے وہیں کاؤنچ پر لٹا دیا۔ گھر سے فون کر کے گاڑی منگوالی، واپسی میں اس نے پہلے سارہ کو اس کے گھر چھوڑا پھر اپنے گھر واپس گئی۔ سارہ اور اس کی امی بہت شکر گزار ہو رہی تھیں کیونکہ سارہ کی طبیعت ایسی نہ تھی کہ وہ بس سے اکیلے گھر جاتی۔

یہیں سے ان دونوں کی دوستی کی ابتدا ہوئی جو آگے جا کر ایک مضبوط بندھن میں ڈھل گئی۔ سارہ سوائے عاشق سے دوستی کے اپنی ہر بات اریبہ سے شیئر کرتی تھی۔

اریبہ کو سارہ کے حالات جان کر اس سے بہت ہمدردی اور انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ سارہ کے والد ایک



جائے گا میں صرف خواب ہی دیکھ سکتی ہوں، پھر میں اس سے تعلق کیوں توڑوں جبکہ وہ خود ہی میرے ساتھ بے غرض دوستی پر آمادہ ہوا ہے؟“ سارہ چیخ کر بولی۔

”دیکھو سارہ، مرد عورت کے درمیان کبھی بھی بے غرض رشتے پروان نہیں چڑھتے پھر عاشر تو شکل سے ہی خاصہ ہوشیار لگتا ہے، وہ جتنا سیدھا بن رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس دور میں کون بغیر مطلب کے اتنی خالص محبت کر سکتا ہے؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے۔ میں تو اس دن سے ڈرتی ہوں جب وہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچائے۔“ اریبہ نے پیار سے سارہ کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانا چاہا مگر وہ برامان کر اریبہ سے ہاتھ چھڑا کر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ اریبہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور خود بھی کلاس لینے چل دی۔ سارہ ابھی اس دور سے گزر رہی تھی جہاں کان صرف اپنی مطلب کی باتیں ہی سننا چاہتے، نصیحتیں تو بہت ہی بری لگتی ہیں نصیحتیں کرنے والا سب سے برا۔

اس بحث کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک سرد مہری سی آگئی۔ اریبہ نے کئی بار سارہ کو اس لڑکے کے ساتھ گاڑی پر آتے جاتے دیکھا مگر خاموشی اختیار کر لی۔ ان دونوں کے بیچ جو آن دیکھا کھنچاؤ آ گیا تھا وہ اسے مزید بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اریبہ خود بھی اب سارہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاتی تھی۔ ایگزامز نزدیک تھے اور وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے کافی سنجیدہ ہو گئی تھی پھر بیچ میں عدنان کے ساتھ رشتے کا سلسلہ چل پڑا تو اس کی مصروفیت اور بڑھ گئی۔ سارہ اب بھی اکثر کالج لیٹ آتی تھی۔ اکثر اریبہ اپنی پیاری دوست کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہ اس کی باتوں پر کان نہ دھرتی۔ اریبہ دل مسوس کے رہ جاتی۔

بات کا یقین نہ ہو۔  
”دیکھو سارہ مجھے یہ لڑکا کہیں سے بھی تمہارے قابل نہیں لگ رہا، پتا نہیں کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چالاکی نظر آ رہی ہے۔ میں تو تمہیں اس سے دوستی ختم کرنے کا مشورہ دوں گی۔“ اریبہ نے سارہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھایا تو وہ تھوڑا شیر ہوئی ورنہ اس کا شرمندگی سے برا حال تھا کیونکہ اس نے اپنی عزیز دوست سے بھی عاشر والا معاملہ چھپایا تھا۔

”میں کون سا اس کے ساتھ سیریس ہوں؟ میں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں یہ رشتہ صرف دوستی تک ہی محدود رکھوں گی۔ ویسے بھی میری نکاح میری حالہ کے لڑکے سے ہونے والی ہے۔ دوستی کے لیے عاشر برا نہیں، امیر ماں باپ کی اولاد ہے، بڑا کھلے دل کا ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ جو میں مہنگی مہنگی اشیاء استعمال کرتی ہوں، اسی کے دیئے ہوئے گفٹ ہیں۔ پھر اسے ہر وقت میری فکر رہتی ہے، وہ بڑا لونگ ہے۔“ اریبہ کو پہلی بار سارہ سے نفرت محسوس ہوئی مگر وہ اس کی دوست تھی جانتے بوجھتے اسے گڑھے میں گرتے نہیں دیکھ سکتی تھی پھر سمجھانے بیٹھ گئی۔

”سارہ.....! اس دن سے ڈرو جب وہ ان تمام تحفوں کی قیمت سود سمیت تم سے وصول کرے گا۔“ اریبہ نے سر پر ہاتھ مار کر اسے سخت لہجے میں ٹوکا تو وہ جھنجھلا اٹھی۔

”میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں اپنا برا بھلا سمجھ سکتی ہوں۔ عاشر کو میں پہلے دن ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ وہ بس مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بدلے میں مجھ سے کچھ نہیں چاہتا، انا میرے نازنخرے اٹھاتا ہے۔ زبردستی مجھے مہنگی مہنگی شاپنگ کراتا ہے، اچھے ریسٹوران لے کر جاتا ہے جہاں



اسے تاسف سے دیکھا۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا۔ عاشق دیکھنے میں ہی اتنا معصوم نہیں لگتا تھا پھر اس دور میں کوئی بے غرض دوستی نہیں کرتا۔ یہ ہی بات اریبہ اسے سمجھانا چاہ رہی تھی مگر شاید ہر انسان اپنے تجربے سے سیکھنا چاہتا ہے اور سارہ نے بھی اسی سے سیکھا۔

☆☆☆

وہ دن شاید اریبہ کی زندگی کا بدترین دن تھا جب وہ سارہ کے مجبور کرنے پر عاشق کو سمجھانے چلی گئی تھی۔ ان دونوں نے کسی تنہا مقام پر ملنے سے بہتر سمجھا کہ وہ عاشق سے ایک پبلک پلیس پر ملیں اسی لیے انہوں نے صبح کالج ٹائم میں عاشق کو ایک پارک میں ملنے کے لیے بلوایا۔ اریبہ نے سارہ کی زندگی خراب ہونے سے بچانے کے لیے وہ کام کیا جس کے لیے اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ رکشہ کر کے پارک تک جا پہنچیں۔ صبح کا وقت تھا ان کے علاوہ اور بھی کالج کے لڑکے لڑکیاں وہاں موجود تھے۔ اریبہ کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے موبائل پر عاشق سے رابطہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں ان کی بتائی ہوئی جگہ آ پہنچا۔ ایک بیچ پر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ اریبہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس طرح وہ ان دونوں سے آرام سے مخاطب ہو رہی تھی۔ اس نے عاشق سے سارہ کی تصاویر اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی درخواست کی مگر وہ ان دو خوبصورت لڑکیوں کو اپنے سامنے یوں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کی انا کو بہت تسکین پہنچ رہی تھی۔ اچانک اریبہ نے دیکھا کہ سارہ اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اریبہ ہکا بکا رہ گئی۔ عاشق بھی اس کی اس حرکت پر حیران ہوا۔ ابھی اس کے حواس بحال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک مشہور مارنگ شوکی اینکر ان دونوں کے سر پر آ کھڑی ہوئی، کیمرہ آن تھا، لائیو

نکاح کے بعد کافی دنوں تک وہ کالج نہ جاسکی۔ سسرال والوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا پھر عدنان کی آسٹریلیا واپسی سے قبل ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ ان سب چیزوں میں الجھ کر وہ بہت مصروف رہی۔ سارہ نے اس کے نکاح کی تقریب میں بھی شرکت نہ کی تھی جس کا اسے بہت برا لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ سارہ سے بات چیت نہیں کرے گی۔ اریبہ آج بہت دنوں بعد کالج آئی تھی۔ مین گیٹ سے داخل ہوئی تو بادام کے درخت کے نیچے اسے ایک بار پھر سارہ روتے ہوئے نظر آئی۔ وہ اسے دیکھ کر انجان بن کر نکل جانا چاہتی تھی کہ سارہ دوڑتی ہوئی آئی اور اریبہ کے گلے لگ کر بری طرح سے رو دی۔ اریبہ کا دل اپنی دوست کی حالت زار پر بھر آیا، وہ بہت پریشان اور خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔

”سارہ.....! کیا ہوا سب خیریت تو ہے؟“

اریبہ نے اسے پانی پلاتے ہوئے پوچھا۔

”میری دوست مجھے معاف کر دو۔ تم ٹھیک ہی کہتی تھیں، عاشق میری دوستی کے قابل نہیں تھا، وہ تو بڑا بلیک میلر نکلا۔ میری دو مہینے بعد اپنے کزن سے شادی کی تاریخ طے پا گئی ہے۔ میں نے خوشی خوشی جیسے ہی اسے یہ بات بتائی وہ کہنے لگا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی میں نے جب انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ وہ میری ساری تصویریں جو اس نے اپنے موبائل سے کھینچی ہیں اور ویڈیو بنا کر بابا کو بھیج دے گا۔ اف..... وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ مجھے تو پتا بھی نہیں کہ اس نے کب اپنے ساتھ میری تصاویر اور ویڈیو بنالیں“ وہ ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ اریبہ نے



کا ساتھ لکھ دیا گیا ہے کہ آج اچانک اپنی ماں سے یہ خبر سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ عدنان کے ہوش اس وقت اڑ گئے جب انہوں نے فوری طور پر اسے اریبہ کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ اس کی جرح پر اس کے بھائی فیضان نے اس مارنگ شو کا وہ کلب میل کر دیا جس میں اریبہ اور عاشر کو ایک ساتھ دکھایا گیا تھا۔ عدنان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں ہوا پھر وہ لڑکا کسی طرح بھی اریبہ کے معیار کا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر وہ بیمار پڑ گیا۔ گھر والوں کی طرف سے پڑنے والے دباؤ سے بچنے کے لیے اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ فی الحال وہ پاکستان میں کسی سے بھی رابطہ رکھنا نہیں چاہتا تھا۔

☆☆☆

اریبہ اس واقعے کے بعد سے بہت سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس بات کو دو مہینے گزر گئے تھے، اب تو اس نے سارہ کے گھر فون کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، بس وہ اب صرف اپنے اللہ سے ہی مدد مانگ رہی تھی۔ گھر والوں کو بھی آہستہ آہستہ اریبہ کی بے گناہی پر یقین آ گیا تھا مگر وہ دنیا والوں کو کیسے یقین دلاتے؟ خصوصاً اریبہ کے سسرال والوں کے سامنے کیسے اپنی بیٹی کی صفائی دیتے؟ آخر انہوں نے اپنی بیٹی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔

اریبہ نے حجاب لینا شروع کر دیا تھا۔ اب جبکہ وہ سب دھیرے دھیرے اس واقعے کو بھولنا چاہ رہے تھے تو ایک دن سارہ خود اس کے گھر چلی آئی۔ سارہ نے رو رو کر سارے گھر والوں کے سامنے اریبہ سے معافی مانگی۔ اس کی شادی ہونے والی تھی اسی لیے وہ کھلم کھلا اریبہ کے مسئلے پر اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ نسرین نے سارہ کو بہت برا بھلا بولا۔ وہ انہیں حق بجانب سمجھ رہی تھی

پر وگرام جاری تھا اور وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اریبہ سے عجیب و غریب سوالات کرنے لگی۔ عاشر نے مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھا اور بیچ پر پوز بنا کر بیٹھ گیا۔ اریبہ ان لوگوں کے سوالات سے بچتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنا چاہ رہی تھی مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے؟

اریبہ کی ان لوگوں کی طرف پیٹھ تھی اس لیے وہ ان کو آتے ہوئے نہیں دیکھ سکی جبکہ سارہ نے دور سے ہی ان لوگوں کو کیمرہ سمیت آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسی لیے وہ بیچ نکلی۔ ایک بار پھر اریبہ نے اپنی نرم دلی کے باعث بڑی مصیبت کو دعوت دے دی تھی۔ وہ ہی ہوا جب وہ بڑی مشکلوں سے ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر اپنے گھر پہنچی تو اس پر وگرام کے باعث اس کی شہرت چار سو پھیل چکی تھی۔ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی وہ مجرم بنا دی گئی۔

☆☆☆

عدنان کی امی نے جب فون پر نسرین کو اپنے بیٹے سے اریبہ کی بات ختم کرنے کی اطلاع دی تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، اریبہ کا حال الگ برا تھا، ابھی تو اس نے خواب بننے شروع کیے تھے۔

ادھر جب عدنان کے گھر والوں نے اس کا رشتہ ختم ہونے کی خبر اسے فون کے ذریعے دی تو وہ الگ حیران رہ گیا۔ وہ بہت بہت خوشی خوشی آسٹریلیا لوٹا تھا۔ اریبہ کے کاغذات اور نکاح نامہ ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ اس کے ویزے کے لیے اپلائی کر سکے۔ اس نے میلبورن میں واقع اپنے آفس میں جوائننگ دینے کے بعد تمام دوستوں کے پر زور اصرار پر سب کو نکاح کی ٹریٹ بھی دی تھی۔ سب نے اریبہ اور اس کی نکاح کی تصاویر دیکھ کر جو وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا اسے خوش قسمت قرار دیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر خوش ہوتا کہ اس کے نصیب میں ایسی پیاری لڑکی



اریبہ کی قسمت بہت اچھی تھی کہ اسے عدنان کی بیوی کی حیثیت سے آسٹریلیا کا ویزا جلد ہی مل گیا جس کے لیے لوگ بڑی تنگ و دو کرتے ہیں۔ اگر ایسا پہلے ہوتا تو عدنان بہت خوش ہوتا مگر اس وقت تو وہ بڑا اداس ہو رہا تھا۔ دل بہلانے کے لیے وہ آج بہت دنوں بعد اپنے سسٹم پر بیٹھا تھا اور نہ اب تو اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ گھر والوں کے دباؤ کے باوجود ابھی تک اس نے اریبہ کو طلاق کے کاغذات نہیں بھجوائے تھے۔ جانے کیوں وہ ایسا کر نہیں پار رہا تھا؟ شاید یہ اریبہ کی دُعا میں تھیں جو اسے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے روک رہی تھیں۔

آج خاصے دنوں بعد اس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا اور میلز دیکھنا شروع کیں تو اریبہ نام کی ایک نئی آئی ڈی سے اس کے نام ایک طویل ای میل آئی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً پڑھنا شروع کیا تو بہت سی گتھیاں سلجھ گئیں۔ اس میل میں وہ تمام واقعات کیسے پیش آئے، تفصیل سے بیان کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تصدیق کے لیے عاشر کا نمبر بھی درج تھا۔ عدنان کو یاد آیا کہ جب نکاح کے بعد ان کی بات چیت ہوئی تھی تو اریبہ اکثر اپنی دوست سارہ اور عاشر کا ذکر کرتی تھی۔ اسے اپنی دوست کی نادانی پر بہت غصہ آتا تھا۔ عدنان نے اسے ان دونوں کے معاملات میں پڑنے سے سختی سے منع کیا تھا۔

عدنان کا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اسے پہلے ہی اپنی منکوچہ پر شک نہ تھا، اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ زنجیر کی کوئی کڑی گم ہے پھر بھی مرد کی فطرت..... اس نے فوراً ہی عاشر کا نمبر ملا کر ان باتوں کی سچائی جانچنا چاہی۔ عاشر نے نہ صرف اریبہ کی معصومیت کی گواہی دی بلکہ اریبہ کی بہت تعریف بھی کی۔

”عدنان بھائی آپ یقین کریں وہ میری

اسی لیے سر جھکا کے سنتی رہی۔ وہ تو اس کے گھر جا کر شور مچانا چاہ رہی تھیں مگر ایک بار پھر اریبہ نے اس کا ساتھ دیا اور ماں کو خاموش کرادیا۔

اس نے سارہ کو ابھی وہاں سے جانے کے لیے کہا کیونکہ وہ اپنی ماں کے جذبات سمجھ رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ جیسا طوفان اس کی زندگی میں آچکا ہے، ویسا ہی کچھ سارہ کے ساتھ بھی ہو۔

سارہ آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ”تمہیں پتا ہے کہ تمہاری وجہ سے عاشر نے میرا پیچھا چھوڑ دیا؟“ دروازے تک پہنچ کر اچانک سارہ نے مڑ کر اریبہ کی طرف دیکھ کر کہا۔

”مجھے پتا ہے، جب تم اس مصیبت میں چھوڑ کر مجھے چلی گئی تھیں تب بھی میں نے گھر آنے سے قبل عاشر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تمہارا پیچھا چھوڑنے کی استدعا کی تھی۔“ اریبہ کے چہرے پر پھیلی نرمی اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کی سرسئی آنکھوں کی روشنی اور بڑھ گئی تھی۔ سارہ اسے دیکھتی رہ گئی۔

”اس نے کیا کہا تھا؟“ سارہ نے پوچھا۔  
”مجھے معاف کر دیں، میری اور سارہ کی وجہ سے آپ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہیں وہ آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر فرار ہو گئی پھر بھی آپ کو اسی کی فکر ہے؟ میں سارہ کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی انسانیت اور شرافت کے صدقے اسے معاف کرتا ہوں۔ عاشر نے ایک دم میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔“ اریبہ نے اسے بتایا۔

”میں یہ امید رکھوں کہ تم سارہ سے منسلک ہر چیز مٹا دو گے؟“ میں نے اس سے وعدہ لیا اور اس نے میرا مان رکھا۔ اریبہ نے بڑی مشکل سے ان تکلیف دہ لمحوں کو دہرایا۔ سارہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر رو دی۔

☆☆☆

پوشیزہ (1)

READING  
Section



واقعے کے بعد کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟“ اریبہ جو عدنان کے بازوؤں پر سر رکھے آنکھیں موندے کیٹی تھی چونک کر اٹھ بیٹھی۔

”ارے وہ ہی جس میں تم نے سارے واقعات بیان کرنے کے ساتھ اس عاشق نامی لڑکے کا فون نمبر بھی دیا تھا۔ میں نے اسے فون بھی کیا، وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔“ عدنان نے محبت سے اسے واپس اپنی جانب کھینچا اور اس کی لٹ کو چھیڑتے ہوئے دھیرے دھیرے بتایا۔

”نہیں عدنان.....! چتا نہیں، آپ یقین کریں نہ کریں مگر میں نے عاشر سے ملاقات صرف اپنی دوست کی ہمدردی میں کی تھی مگر اس مارنگ شوکی وجہ سے جب مجھ پر جھوٹے الزامات لگے تو میں نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ میرے پاس اپنی صفائی میں دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسی لیے آپ سے بھی کوئی رابطہ قائم نہیں کیا مگر میرا اس سے مسلسل رابطہ تھا جو میری حقیقت جانتا تھا جس کے سامنے ہم کوئی دھوکہ فریب نہیں کر سکتے۔ میرا اللہ! میں نے صرف اپنے اللہ سے ہی اس معاملے میں اپنے بریت کی دعا مانگی تھی اور آج اس نے مجھے آپ سب کی نظروں میں سرخرو کیا۔“ وہ بولتے بولتے رونے لگی۔ عدنان بے چین ہو کر اریبہ کی جانب بڑھا اور اس کے آنسو پونچھنے لگا۔

☆☆☆

”اریب.....! اریب.....! جلدی سے یہاں آؤ۔“ اریبہ اپنی بناری ساڑھی تہہ کر کے وارڈروب میں رکھ رہی تھی کہ دوسرے کمرے سے اسے عدنان آوازیں دینے لگا۔ اریبہ دلکشی سے مسکرائی۔ عدنان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب وہ گھر میں ہو تو اریبہ اس کے سامنے یا آس پاس رہے۔ وہ لوگ ابھی ایک دعوت سے واپس آئے تھے۔ اریبہ کپڑے

بہنوں کی طرح ہیں، انہوں نے ہی مجھے بھی سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ میں تو خود آپ سے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا مگر میرے پاس آپ کا کوئی کانیکٹ نمبر نہیں تھا۔“ عدنان نے فوری طور پر اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ اب اسے اپنی اریبہ کی حرمت کے لیے لڑنا تھا کیونکہ وہ اس کی منکوحہ بھی تھی۔

☆☆☆

اریبہ کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو کر میلبورن آگئی ہے۔ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا۔ وہ سب حیران رہ گئے جب کئی مہینے رابطہ منقطع رکھنے کے بعد عدنان کی امی مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں کے ساتھ ان کے گھر چلی آئیں اور رخصتی کی تاریخ طے کر کے انھیں۔ نسرین نے ساری غلط فہمیاں دور ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اریبہ کا سر تو سجدے سے ہی نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر کے صرف مالک دو جہاں سے مدد مانگی تھی۔ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس کا بگڑا کام کیسے بنتا چلا گیا کہ وہ تو اس فیصلے سے اپنی مہینوں کی کلفتوں کو بھی بھول گئی؟ عدنان ان حالات سے اور اریبہ کو کھونے سے اتنا ڈر گیا تھا کہ وہ خود پاکستان نہیں آیا بلکہ اریبہ رخصت ہو کر میلبورن چلی گئی۔

عدنان کی امی دل سے راضی نہ ہونے کے باوجود کماؤ پوت کو کھونا نہیں چاہتی تھی اسی لیے ویسا ہی کرتی گئیں جیسا بیٹے نے چاہا۔

”اگر تم وہ ای میل مجھے پہلے ہی کر دیتیں تو اتنے مہینے جو ہم نے ذہنی اذیت کے کاٹے، اس سے بچ جاتے۔“ عدنان اریبہ کے لمبے بالوں سے کھیلتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔

”کون سی ای میل؟ میں نے تو آپ سے اس

دوشیزہ

READING  
Section



دنوں کے بعد اس کے پاس جانے والی ہوں اسی لیے میں نے سوچا جانے سے قبل تم سے معافی مانگ لوں۔“ سارہ نے اسے سمجھایا۔

”تمہاری نکاح تو شاید تمہارے خالہ زاد بھائی سے ہوئی تھی؟“ اریبہ سے رہا نہیں گیا تو اس نے سارہ سے سوال کیا۔

”یہ ایک طویل کہانی ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو میں سنا دوں؟“ سارہ نے لجاجت سے پوچھا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ٹوٹا سا تھا۔ اریبہ کو اس پر ایک دم ترس آیا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کی عزیز دوست تھی۔

”ارے وقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔“ اس نے ریلیکس انداز میں کہا اور مسکرا کر عدنان کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑا تھا۔

”میں نے پارک سے واپسی پر اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں ان کے ساتھ تمہارے گھر آ کر تمہاری پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر یہ بات کھلی تو ابو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ساتھ میں امی کو بھی گھر سے نکال دیں گے۔ اسی لیے مجھے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جب میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ خیر میری امی نے تمہارے ساتھ برا کیا تو وہ ان کی اولاد کے آگے آیا۔ میرا خالہ زاد بھائی راشد کسی اور کو پسند کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مسلسل انکار کرتا رہا مگر میری خالہ کو بہن کو دہی ہوئی زبان کا پاس تھا پھر وہ ابو کی گرم مزاجی سے بھی واقف تھیں، جانتی تھیں کہ اگر یہ رشتہ ختم کیا تو ابو طعنے دے دے کرامی کا جینا حرام کر دیں گے اسی لیے راشد کی بات نہیں مان رہی تھی۔ شوخی قسمت، اس نے ایک دن مجھے عاشر کے

تبدیل کر کے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ عدنان کی تواتر سے جاری پکار پر وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اس کی بات سننے کے لیے نی وی لاونج کی طرف بڑھ گئی۔ عدنان بہت خوش نظر آ رہا تھا، وہ فون پر بڑے جوش و خروش سے کسی سے باتوں میں مشغول تھا۔ ”شاید پاکستان سے اس کی امی کا فون آیا ہوا تھا؟“ اریبہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی تو اس نے فون اس کو پکڑا دیا۔

”السلام علیکم!“ اریبہ نے شائستگی سے سلام کیا۔ ”کیسی ہو اریبہ؟ میں سارہ بات کر رہی ہوں۔ پلیز فون بند مت کرنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔“ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ اس ڈر سے جلدی جلدی بولی کہ کہیں اریبہ فون بند نہ کر دے۔

”ہاں بولو میں سن رہی ہوں، تمہیں یہ نمبر کہاں سے ملا؟“ سارہ کی آواز سن کر اریبہ ششدر رہ گئی مگر پھر اپنے مزاج کے باعث نرمی سے گویا ہوئی۔ ”میں نے عائشہ باجی سے بڑی منتیں کر کے تمہارا یہ نمبر حاصل کیا ہے کیونکہ میرے ضمیر پر ایک بڑا بوجھ تھا۔ جو میں آج ہٹانا چاہتی ہوں پھر عاشر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تم سے معافی مانگنی چاہیے۔ شاید اس طرح میرے دل کو سکون مل جائے۔“ سارہ کی باتوں پر وہ حیران ہو گئی مگر اسے ٹوکے بنا خاموشی سے سنتی رہی۔

عدنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اریبہ سارہ کی آواز سن کر ہیجان زدہ سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پیاری بیوی کی دلی کیفیت بنا کہے جان جاتا تھا۔

”تم یہاں عاشر کا نام سن کر پریشان مت ہو میری شادی اسی کے ساتھ ہوئی ہے، وہ آج کل مزید تعلیم حاصل کرنے یو کے گیا ہوا ہے۔ میں بھی کچھ



نہیں کھلی تھی پھر میں عدنان بھائی کا مزاج بھی نہیں جانتی تھی۔ ڈرتی تھی کہ اپنے نام سے لکھوں تو وہ سب غصے میں میرے گھر تک نہ پہنچ جائیں۔ تمہاری مدد بھی کرنا چاہتی تھی مگر کیسے کروں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تمہاری ایک پرانی نوٹ بک میرے پاس رہ گئی تھی اس میں تم نے عدنان بھائی کا ای میل ایڈریس لکھا ہوا تھا، بس میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا۔ میں نے تمہارے نام سے ایک جعلی ایڈریس بنایا اور سارے واقعات انہیں لکھ بیجھے، ساتھ ہی عاشر کا فون نمبر بھی لکھ دیا۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ تمہارا نام پڑھ کر وہ یقیناً ان باتوں پر یقین کر لیں گے۔ میں نے عاشر کو بھی فون کر کے اس جعلی ای میل کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی دل و جان سے تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، یوں ہم نے تمہاری پوزیشن کلیئر کی۔“ سارہ نے بتایا تو اریبہ کے دل سے اپنی دوست کے لیے چھائے بدگمانی کے سارے بادل چھٹ گئے۔ اس نے تھوڑی دیر مزید بات کر کے فون رکھ دیا۔

عدنان کو ڈھونڈا، وہ کچن سے دو گرما گرم کافی کے کپ تھامے چلا آ رہا تھا۔ انہیں شاید سارہ پہلے ہی پورا واقعہ بتا چکی تھی۔

”عدنان، وہ.....“ اس نے پکارا۔ عدنان نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔

”اب آئندہ اس بارے میں ہم کبھی بات نہیں کریں گے۔ جو گزر گیا، سو گزر گیا۔“ اریبہ نے اثبات میں سرشاری سے سر ہلایا اور عدنان کے کاندھے سے سر ٹکا کر کھڑکی سے باہر سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں اور چمکتی دکتی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی زندگی میں بھی ایسی ہی روشنیاں بھرنی تھیں۔

☆☆.....☆☆

ساتھ دیکھ لیا، گھر جا کر خوب شور مچایا۔ خالہ نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور بہت دنوں تک اسے سمجھانی رہیں مگر وہ نہیں مانا۔ اب تو اس کے پاس ایک مضبوط جواز تھا۔ آخر مجبور ہو کر شادی سے کچھ پہلے میری نکاح ختم کر دی۔

ابو غصے میں خالہ کے گھر لڑنے پہنچ گئے۔ خالہ کو اور امی کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ بے چاری تو بہنوی کی بری بھلی چپ چاپ سنتی رہیں مگر ارشد سے اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی۔ خالہ کے منع کرنے کے باوجود اس نے میرا کچا چٹھا ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ابو جھکے کاندھوں کے ساتھ خاموشی سے گھر واپس آئے اور امی سے صرف اتنا کہا کہ عاشر کو بلواؤ، مجھے سارہ کی شادی کی بات کرنی ہے اور یوں میری شادی عاشر سے ہوگئی۔

اس پارک والے واقعے کے بعد اس کے اندر بہت تبدیلی آگئی تھی۔ وہ برائیوں سے تائب ہو گیا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ میری زندگی اس کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے۔ سارہ تھوڑی دیر کو تھی تو اریبہ نے اسے شادی کی مبارک باد دی۔

”ایک بات پوچھوں، عدنان کو وہ ای میل تم نے لکھی تھی نا؟“ اریبہ کو ایک دم احساس ہوا کہ سارہ ہی نے ای میل کے ذریعے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہا ہوگا۔

”آخر تم جان ہی گئیں نا؟“ سارہ مسکرا کر بولی۔

”تم نے میرے نام کی فیک آئی ڈی کیوں بنائی تھی؟“ اریبہ نے حیران ہو کر پوچھا۔

”دراصل میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس وقت تک عاشر والی بات میرے گھر میں



# آپ بھی لکھاری بن سکتے ہیں!!

آئیے! دوشیزہ کے قلم قبیلے میں شامل ہو جائیے۔  
یہ کارواں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے..... خود کو مزہ لپیٹنے والے قلم سے.....!  
اگر آپ کا مشاہدہ اچھا ہے۔



اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔  
سفر کرتے ہوئے آس پاس کے مناظر آپ کو یاد رہتے ہیں۔  
شاعری آپ کو اچھی لگتی ہے۔

تو پھر قلم اٹھائیے اور کسی عنوان کو کہانی یا افسانے  
میں ڈھالنے کی صلاحیت کو آزمائیے۔  
ماہنامہ دوشیزہ آپ کی تحریروں کو، آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔

ہو سکتا ہے عنقریب منعقد ہونے والی دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ  
تقریب میں آپ بھی ایوارڈ حاصل کریں۔

تحریر بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ:

88-C II - فرسٹ فلور - خیابان جامی کمرشل - ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی - فیز-7، کراچی

ای میل: [pearlpublications@hotmail.com](mailto:pearlpublications@hotmail.com)

READING  
Section



## افسانہ فرحین اظفر

### شکست زدہ

اس شیش محل میں ہر شخص کا بچ کا سانا زک مزاج رکھتا تھا۔ ”بہو نے اٹھ کر صبح سلام نہیں کیا۔“ بڑی اماں ناراض ہو جاتیں۔ ”دلہن نے مجھے دینے سے پہلے سالن میں لمبا شور بہ کر دیا۔ چھوٹی امی منہ پھلا لیتیں۔“ ”کیا ہی تھا کہ کپڑے پر لیس کر دیں مگر بھابی کو ہمارا کیا خیال۔“ ”نندیں بھی.....“

”جا ب اچھی نہیں ہے۔“ ابا کو اعتراض تھا۔  
”عمر بھی تو دیکھیں ابا۔ یہ آپنی تھیں۔“  
”اے سسرال ہے کہ چیونٹیوں بھرا کباب۔“  
دادی کا تجربہ بولا۔  
”ہاں لیکن..... دیکھنے میں بالکل شہزادہ ہے۔“

بالا خرمتا نے ہی کی اس کے دل بات اور قدرت اپنی اس انوکھی تخلیق پر خود ہی تالی مار کر قہقہہ لگا بیٹھی۔

”ہاہ.....!!“ لیکن وہ نہ ہنسی نہ بولی نہ بات کی، بس.....

ایک گھمبیر چپ نے ایک اور دورا تیں اس کا احاطہ کیسے رکھا۔ اس کے بعد اس نے کمر کسی اور میدان میں اتری۔

”جا ب میں ترقی کے چانسز ہیں۔“ ابا کا اعتراض رفع کیا۔

”دس بارہ سال کا عمر کا فرق تو بہت عام سی بات ہے۔ آپنی کوچپ کرایا۔“

عماد سے شادی سراسر اس کی ذاتی پسند کا فیصلہ تھا۔ اس کی شخصیت اتنی سحر انگیز تھی کہ گویا صنف نازک کو مبہوت کرنے کے لیے ہی تراشی گئی ہو۔ وہ خود بھی اس حقیقت سے واقف تھا۔ اس لیے خود کو بنا سجا کر رکھنے کے سب ہی لوازمات سے لیس رہتا تھا۔

کلین شیو چہرے پر ہلکی شہد رنگ آنکھیں اور گلابی رنگت والے ہونٹ کی تشبیہات کسی حسینہ کے لیے نہیں بلکہ عباد جیسے مرد کے لیے استعمال کیے جاسکتے تھے۔ تو کیا عجب تھا اگر وہ ہی پہلی نظر میں دل ہار گئی اور پھر اس کے سامنے اعتراف بھی کر لیا۔

دوسری طرف یہ حال تھا کہ ”تم جیسے بہت آئے بہت گئے۔“

اس نے اس تعریف اور اعتراف کو اپنا حق سمجھ کر وصول کیا۔ امن پر احسان سمجھ کر وصول کیا۔

گھر میں کوئی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔



وہ کمرے میں داخل ہوئے ہی چھٹنگھاڑا اور اس کے پیچھے پیچھے آتی رانیہ ہڑبرا کر رہ گئی۔  
”ابھی تو ٹھیک کی تھی میں نے..... اللہ یہ بچے بھی نا.....!“

وہ تیز تیز بولتے ہوئے اس کا غصہ کم کرنے کو قریب آ کر میٹرس کے کناروں سے چادر کو اندر دبانے لگی۔

”تو تم بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتیں۔ آخر کرتی کیا ہو دن بھر..... جو اتنا بھی ہوش نہیں کہ بچوں کو ہی دیکھ لو۔“

جواب دینا بے فائدہ تھا سو اس نے اپنے ایک چپ سو سو سکھ والے معقولے پر عمل کرنے میں ہی عافیت جانی۔

لیکن عافیت نام کی چڑیا تو اسی دن اس کی زندگی کا قفس کھول کر اُڑ گئی تھی۔ جس دن اس نے اس شیش محل میں قدم رکھا تھا۔

اور یہ شیش محل کی اصطلاح اس نے اس گھر کے لیے خود ہی ایجاد کی تھی۔

”سسرال تو ایک ساس سے ہی تخلیق پایا ہے اور ساس کیا بھلا..... شہد کی مکھیوں کی رانی..... تو چیونٹیوں کی کیا اوقات.....“ دادی سوچ میں پڑ گئیں۔ اور.....

”امی.....!“ وہ واقعی بہت سچلا ہے۔“ اس نے شرما کر امی کی گود میں سر چھپا لیا۔ بالآخر راستے میں کھڑی ساری رکاوٹیں ایک کے بعد ایک ڈھے گئیں۔ اور وہ دلہن بنی پیاسنگ رخصت ہو کر سسرال نامی اس جگہ پر ہاری جیسے سسرال کم اکھاڑہ کہیں تو زیادہ بہتر۔

جس طرح ایک میان میں دو تلواریں اور ایک چھتے میں دو رانی نکھیاں نہیں رہ سکتیں..... بالکل اسی طرح ایک سسرال میں سو ساسیں..... مگر اس سسرال میں رہتی تھیں..... جس سسرال کو گھر کرنے کے لیے اس نے ایک عمر جان ماری..... لیکن۔

☆.....☆.....☆

”یہ بیڈ کی چادر کا کیا حشر کیا ہوا ہے.....؟“



دوشیزہ 17

READING  
Section



کے بعد ایک درجہ اوپر چڑھنے کی چابی ملتی تھی۔ اور دل ہی دل میں وہ شکر ادا کرتی رانیہ سوچنے لگی ان کے دل میں ایک درجہ اور اوپر چڑھنے کے لیے بھلا کون سی چابی اور کہاں سے ملے گی۔

”جواب ندارد..... سوال متمنی.....“

وہ تیزی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مبادا عماد کا موڈ بدلے اور اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جائے۔

☆.....☆.....☆

”چادر ٹھیک کر آئی ہو بستر کی۔“

راستے میں ابا کا گھر آنے سے ذرا پہلے عماد کو اچانک ہی یاد آ گیا۔

”جی کر تو دی تھی۔“

”کیا مطلب کر تو دی تھی یعنی تمہیں یاد ہی

نہیں..... حد ہے رانیہ ایک فقط..... ایک چیز مجھے ناپسند ہے تم وہی ڈھنگ سے کر کے نہیں رکھ سکتیں۔

رانیہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی بول نہ سکی۔

ایک چیز آپ کی، دو چیزیں آپ کی بڑی والدہ کی چار چیزیں چھوٹی والدہ کی..... ایسی ہی کچھ باتیں چھوٹی بہن اور کچھ بڑی بہن کی.....

اور..... اور..... آخر وہ کس کس بات کا خیال رکھے لیکن عماد اپنی بات کا سچا تھا۔

”مجھے صفائی پسند ہے صاف ستھری چیزیں اچھی لگتی ہیں۔“

ان میں صاف ستھری چادر سرفہرست تھی لیکن

یہاں سے تو فہرست شروع بھی نا.....! پھر یہاں سے لے کر وہاں تک فہرست ختم کہاں ہوئی تھی اسے تو صفائی دیتے الفاظ اور لہجوں تک سے عشق تھا ہمیشہ عدالت ہی سچی رہتی۔

”کمرے کو درست کر کے رکھا کرو۔ میں

اس شیش محل میں ہر شخص کا بیچ کا سانا زک مزاج رکھتا تھا۔

”بہو نے اٹھ کر صبح سلام نہیں کیا۔“ بڑی اماں ناراض ہو جاتیں۔

”دلہن نے مجھے دینے سے پہلے سالن میں لمبا شور بہ کر دیا۔ چھوٹی امی منہ پھلا لیتیں۔

”کیا ہی تھا کہ کپڑے پر لیس کر دیں مگر بھابی کو ہمارا کیا خیال۔“

نندیں بھی شیش محل کی رانیاں ہی تھیں ایسے میں اس جیسی کنیر کی کیا حیثیت اور کیا کام باقی بچتا تھا۔

”معاف کر دیں بڑی اماں کسی اور دھیان میں ہوں گی آئندہ سب سے پہلے آپ کو سلام

کروں گی۔“ ناراضگی دور۔

”ارے چھوٹی امی غلطی ہو گئی چلیں اب آپ کے لیے الگ سے سالن نکال لیا کروں گی۔“ چھوٹی امی کے منہ کا سا سنا زنا مل گیا۔

لیکن کانچ کے مزاج والے لوگوں کے لہجے اور انداز بڑے پتھرتے بابا.....!“ اسے تو انداز ہی نہیں تھا صرف لہجے ہی نہیں رویے بھی۔

☆.....☆.....☆

”لو..... آپ پھر میسے جانے کو تیار ہے سواری۔“ وہ یوں ہو گئی گویا جیسے تین سو دو کا مجرم..... برابر میں ہی عماد کھڑا تھا بے نیازی سے

موبائل کے بٹن دبا تارہا۔

”ٹک ٹک ٹک.....“

”اچھا اب تیار ہو ہی گئی ہو تو ہو جاؤ.....“ بڑی اماں بڑ بڑانی ہوئی دوسری طرف مڑ گئیں سامنے ہی رکھے SEGA پران کا فیورٹ گیم لگا ہوا تھا۔

پیر مار یو..... جس میں جانے کتنی ٹگ و دو



آؤں تو ہر چیز جگہ پر ملے۔“

”صفائی پسند ہوں، صفائی کا خیال رکھنا خاص کر بستر کی چادر پر شکنیں مجھے بالکل بھی برداشت نہیں۔“ وہ خواہ مخواہ سمٹ سی گئی۔

”چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔“  
”چھوڑو تم..... تم سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔“

بستر کی شکنوں پر اس کے معصوم اور محبت بھرے دل نے کیا کیا نہیں سوچ ڈالا تھا۔  
”تم بھی کچھ کہو یا بس سنتی ہی رہو گی۔ خیر یہ بھی اچھا ہی رہے گا۔“

اور یہ ہی بات سب سے غلط تھی۔

اپنی بات کا خود ہی جواب دیا اور وہاں سے اٹھ گیا یہ جاننے کی زحمت کیے بغیر کہ میں..... میں..... کے بعد یقیناً تم..... تم..... تم کی باری بھی کہیں آس لگائے بیٹھی ہے لیکن..... وہ مایوس نہیں ہوئی دل ہی دل میں بولتی ہوئی شار ہو گئی۔

آخر محبت جیسا اوکھا کام بھی تو اسی نے کیا تھا۔ پھر اسے عشق کے درجے تک پہنچایا یہ کوئی آسان تھا اور وہ بھی عماد جیسے شخص سے جس کے ساتھ محبت اگر شروع ہو تو صورت سے چل کر گفتار سیرت و کردار سے شہلتی ہوئی واپس صورت پر آئے اور محبت سے فقط آشنائی تک رہ جائے۔

”میں نے یہ رشتہ صرف اپنے دل کے کہنے پر جوڑا ہے ورنہ شادی کی جلدی مجھے بھی نہیں تھی۔“  
”آپ صرف گھر کے اکیلے مرد نہیں، میرے دل پر راج کرنے والے بھی اکیلے مرد ہیں۔“

اس کا جگر کوئی معمولی تھا۔ یہ بھی ایک کارنامہ ہی تھا جو اس نے انجام دیا تھا مگر بہر حال اس کی خوبیوں کی گنتی میں انگلیوں کی کسی پور پہ جگہ نہ پاتا۔

”اور میں..... عشق پرست ہوں، محبت پسند ہوں، مجھے چاہنا بھی پسند ہے..... چاہے جانے کے علاوہ۔“

”شام میں آ جاؤں گا لینے جلدی، تیار رہنا۔“

”جی اچھا۔“ تابعداری اس پر ختم ہوئی۔  
”سر تو ایسے ہلایا ہے جیسے بڑی کہیں کی علامہ ہیں۔ خود پسندی عماد پر ختم تھی وہ صرف خود ہی کو عالم فاضل سمجھتا تھا اور کیوں نہ سمجھتا، اس کے ذہن میں یہ یقین واضح بھی تو خود رانیہ نے ہی کیا تھا۔

☆.....☆.....☆  
وقت گزرتا رہا دن مہینے اور پھر سالوں گزر گئے۔

وہ محبت کرتی رہی خدمت کرتی رہی، تابعداری کرتی رہی لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔

☆.....☆.....☆  
شادی کی پہلی رات ہی اس نے رانیہ کو باور کرا دیا تھا بہت کچھ۔

یہاں تک کہ اس کے پھول سے وجود نے اس کی ممتا کو مہکا دیا پھر بھی.....

”میں نے رشتہ صرف امی کے کہنے پر جوڑا ہے ورنہ مجھے شادی کی اتنی جلدی نہیں تھی۔“

پھر بھی اس کی خوشبو اس کے محبوب کے دل کو مہکا نہ سکی۔ اور بھلا..... پتھروں سے کون خوشبو اگانے کا جو کھم مول لے۔ جو لے سودیوانہ۔

گھر کا اکیلا مرد ہوں سب خواتین کی مجھ سے ایک سی توقعات ہیں اس لیے تم ذرا خیال سے رہنا۔“ یہ الفاظ دیگر تم کہیں اترائی شکل نہ بن جاتا۔

اور وہ بھی سوداؤن سی ہو گئی۔  
بکھرے بال سوکھے لب، گدلی ویران



”کیا..... کیا اب مجھے عماد سے محبت نہیں رہی۔ لیکن کیوں نہیں رہی۔“  
عماد اب بھی ویسا ہی خوبصورت اور جوان تھا۔

نظر بھر کے دیکھ لیتا تو اس کے رخسار دہک اٹھتے پلکیں جھک جاتیں الفاظ اٹک جاتے اور بات رک جاتی۔ اگر عماد ویسا ہی خوبصورت اور جوان تھا تو کیا وہ بھی اب تک ویسی ہی شرمیلی تھی پاکباز اور حیا آمیز۔

اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ جیسے وہ جوان تھا ویسے وہ بھی حیا آمیز اور پاکباز ہی رہتی مگر ایسا ہو نہیں سکا۔

عماد نے نظر بھر کر اسے دیکھ ہی لیا اور پھر کتنی ہی دیر دیکھتا رہا۔

”کیا دیکھ رہے ہیں۔“ وہ سمجھی شاید آج میری محبت کے چمکنے کا دن ہے۔“  
”یہی کہ بظاہر تو تمہیں کوئی غم نہیں لیکن حالات ایسی بنا رکھی ہے جیسے برسوں کی مریضہ..... چند دن کی مہمان.....“

اس کے لبوں پر الفاظ نہیں، انکارے سے چمکے اور اس کی ساعستیں جھلسانے لگے۔

اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا نہ رانیہ کے اندر سننے کی خواہش پیدا ہوئی شاید اس کے اندر ہر خواہش آخری ہچکی لے کر تمام ہو گئی۔ یہاں تک کہ چند آنسو اسی بستر اور تکیے میں منہ چھپا کر بہانے کی خواہش بھی..... جس کی شکنیں دور کرتے کرتے اس کی پوری زندگی سلوٹوں سے بھر گئی تھی۔

اور تب اس رات پہلی بار اس نے آدمی رات کو سیل فون اٹھایا اور ایک پیغام لکھ کر سامنے ہی لاگ میں چمکتے انجان نمبر پر بھیج دیا یہ نمبر جو

آنکھیں۔ کبھی سالن بھونتے ہوئے، کبھی کپڑے نچوڑتے ہوئے، کبھی بالٹیاں بھر بھر کر کچن میں پانی بہاتے ہوئے، لچافوں میں ڈورے، حلوے کی بھنائیاں، اچار کے مصالحوں، مربوں کی کسائی، سبزی کی چھنائی، بجٹ..... یوٹیلٹی بلز، بیماری..... آنا جانا..... لینا دینا؟ مہمان داریاں تو میزبان نوازیاں۔

اس کی ذات ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہزار خانوں میں بٹ گئی۔

اب وہ کہیں باور چن تھی، کہیں دھوبن..... کہیں درزن تھی تو کہیں جھاڑن لیکن کوئی اس کی اپنی ذات کو اگر ڈھونڈنے نکلتا تو شاید وہ خود کہیں بھی نہ ملتی کہیں بھی نہیں۔

ستم یہ تھا۔ کہ خلقت دنیا اب بھی ناخوش تھی.....؟؟؟ اب بھی۔

وہ اپنی زرد آنکھیں سے کے گلے آئینے میں گاڑ کر سوال کرتی تو دور تک اس سوال کی گونج سنائی دیتی۔ بازگشت پلٹ پلٹ کر آتی اور اس کے شعور کی ناہمواری سطح سے نگرانی پختی، لڑھکتی۔

”اب بھی..... اب بھی..... اب بھی.....؟“

اور پھر جواب ڈھونڈنے کے لیے اسے اتنا وقت درکار ہوتا جو، اب اس کی اپنی ذات کے لیے ملنا بے حد مشکل تھا۔

بے حد مشکل اس کی محبت سے بھی مشکل..... اس کے محبوب کے مزاج سے بھی مشکل..... جو آج بھی اتنا ہی پرہیز تھا ہاں لیکن محبت اتنی مشکل نہیں رہی تھی بلکہ پتا نہیں شاید محبت اب رہی بھی تھی یا نہیں۔

ایک دن یہ خیال اسے بے طرح پریشان کر گیا۔



کڑواہٹ کا احساس جگاتی مہمانوں کے حلق سے اترنے نہ دیتی شاید انہیں بھی اس شیش محل کے باغیچوں کی طرح رانیہ کی حیثیت کا اندازہ ہو چلا تھا۔

”بس بہن، بہت کھا لیا..... پیٹ بھر گیا سب بہت مزیدار تھا ماشاء اللہ۔“  
”جی بہت ذائقہ ہے ہماری تانیہ کے ہاتھ میں۔“

چھوٹی امی نے لمحہ بھر میں اس کی محنت اور نجل خواری کے گوشوارے، تانیہ کے فیشنل پلچ میک اپ اور جانے اور کا الابلہ کے ساتھ غلط ملط کر دیے۔ اور وہ منہ کھول کر رہ گئی۔  
”ہاں بس یہ گرین ٹی ذرا سی تلخ ہو گئی۔ بہر حال ہے تو بہت فائدہ مند۔“  
”حالانکہ ماشاء اللہ رانیہ بہر روز ہی بناتی ہے، پر آج جانے کیوں۔“

وہ یوں بولی تھیں گویا رانیہ بہر روز کے روز صرف سبز چائے بنانے کا کام ہی سرانجام دیتی ہے۔  
اس کے کانوں میں عماد کی آواز گونجی۔  
”دعوے تو بہت کیے تھے..... کر ہی کیا سکتی ہو۔“

’ہاں ایک سبز چائے تو ڈھنگ کی بنا نہیں سکتی۔‘  
اس رات آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس نے خود اپنا مضمکھہ اڑایا۔

”محبت تب تک انمول رہتی ہے جب تک دل میں دبی رہتی ہے۔ دل کے مقبرے میں مدفن محبت ہی معتبر ہوتی ہے وہاں سے نکل کر اگر مرد کے سماعت و بصارت تک چلی جائے، دل تک پہنچ جائے تو پھر..... اسے کہیں جائے پناہ نہیں ملتی.....“

متواتر تین ہفتوں سے اسے خاموش رابطے سے جوڑے ہوئے تھا۔ اور اس خاموش کال کو بھی کسی منچلے کھلنڈرے کا کھیل سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی تھی۔

”محبت اتنا خوار کیوں کرتی ہے۔“  
دوسری طرف موجود شخص نے پیغام پڑھا آدھی رات کو گھڑی میں وقت دیکھا اور مسکراہٹ برسنے لگی۔

☆.....☆.....☆

”محبت مرد کو خوار نہیں کرتی کیونکہ مرد محبت کے پیچھے نہیں بھاگتا وہ ایک مشتاق گھڑ سوار کی مانند خواہش کے براق پر سواری کرتا ہے اڑان بھرتا ہے اور محبت کو ہمیشہ اپنے پیچھے بھگاتا ہے۔“  
دوسرے دن اس کے سیل میں جوابی پیغام جگمگا رہا تھا۔

اس نے پڑھا لیکن غور نہیں کر سکی عماد کمرے میں تھا اس پر برس رہا تھا۔ ”دعوے تو بہت کیے تھے تم نے میری محبت میں زمین آسمان ایک کرنے کے کر ہی کیا سکتی ہو تم نہ کمرہ ٹھیک سے رکھتی ہو نہ خود کو..... ایک یہ..... بیڈ کی چادر تک برابر نہیں کی جاتی تم سے۔“

اس نے گھنٹوں پہلے بنی ہوئی فیڈر کسمساتے ہوئے ٹیپو کے منہ میں کھسیر ڈی الجھے بال جوڑے میں لپیٹے۔

آج تانیہ کے سسرال والوں نے آنا تھا اور انتظامات ظاہر ہے اسی کے سپرد تھے۔

کوئی مصروفیات سی مصروفیت تھی وہ اس ملال سے بھی گئی جو گھڑی دو گھڑی عماد کے خود پر توجہ دینے سے دل میں جاگنا تھا۔

سب ہی کچھ خیر سے پایہ تکمیل کو پہنچا سوائے سبز چائے کے، جس میں سبز پتوں کی تیزی ذرا سی



یہ بے مول ہو جاتی ہے۔“

”کچھ چیزیں بے مول ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کے نزدیک نہیں۔“

”مطلب..... ایسی بھلا کیا چیز۔“

”مطلب..... جیسے..... بارش..... اس کی قدر کسی ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھے گروپ آف انڈسٹریز کے مالک سے نہیں، اس دہقان سے پوچھو جس کی کھڑی فصل ایک ایک بوند کے انتظار میں کڑی دھوپ میں جلتی ہے۔“

”جیسے میری محبت جلتی ہے عماد کے بے مہر رویے کی کڑی دھوپ میں ایک بوند کے لیے بیٹھے بول کی ایک بوند، مہربان لہجے کی ایک بوند، نرم نگاہ کی ایک.....“

”یہی غلطی ہے تمہاری۔“

”کیا۔ اس نے اضطراب سے کروٹ لی۔  
”محبت میں بھلا قناعت کا کیا ذکر۔ تم عورتیں ایک بوند کو پورا سا ون سمجھ کر اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتی ہو اور مرد اسے تم لوگوں کی اوقات سمجھ لیتے ہیں۔“

الفاظ اس کے دل پر اوس بن کر گرے اور وہ گہری سوچ سے گہری نیند میں اتر گئی۔

☆.....☆.....☆

دھیرے دھیرے اس کے من آنگن میں اترتی دھوپ پیلی پڑنے لگی۔

بھاپ اور دھواں جہاں بھی بھرے گھٹن تو پیدا کرتا ہی ہے۔ اس کی رسائی کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی چمنی ہو یا چھید۔

پھونک پھونک اس کے اندر کی گھٹن بھی اس اجنبی راگ نمبر والے روزن سے باہر کی جانب نکلنے لگی۔ آگہی کے در کھلے تو اپنی قد و منزلت کا

احساس بھی پیدا ہو گیا۔

وہی رانیہ جو پہلے ہر کسی کی پہلی آواز پر دوڑی چلی جاتی تھی اب دوسری تیسری آواز پر حاضر بھی ہوتی تو اس طرح کہ یا تو موبائل ہاتھ میں اور نظریں اسکرین پر ہوتیں اور دماغ کا پتا نہیں یا پھر..... جلدی جلدی آدھا پونا کام نمٹا، آدھی پوری بات سن..... ہوں ہاں جواب دے..... یہ جا وہ جا.....“

”کیا ہو گیا ہے رانی بیگم کو!“

گھر میں ابھی بھی لوگ اسے اپنی مرضی اور مزاج کے دھب سے بلاتے تھے لیکن بلاتے اسی کو تھے اس سے کسی کو انکار نہیں۔

”میں..... میں کبھی آپ سے فون پر بات نہیں کروں گی۔“

”ارے کیوں.....“

”کیوں کیا مطلب غلط بات ہے اور میں..... پہلے ہی دھوکہ دے رہی ہوں..... اپنے محرم

اپنے مجازی خدا کو۔“  
کوئی دل میں چٹکی سی کاٹ لیتا۔

”تو تھوڑا سا دھوکہ اور سہی۔“

”نہیں..... تھوڑے تھوڑے سے بہت ہو جاتا ہے۔“ وہ سخت ہو جاتی۔

کبھی سوچتی آج نہیں..... اب نہیں..... اور نہیں لیکن وہی دن تھے راتیں وہی ٹھیں لوگ وہی تھے اور ان کے پتھر مزاج دل توڑ رویے وہی تھے تو پھر اس کے ارادے بدل جاتے اور وہ ٹیپو کو سلا کر فون اٹھا لیتی۔

عماد کا انتظار یوں نہیں کرنا پڑتا کہ وہ پہلے گہری نیند میں جا چکا ہوتا تھا۔

”عورت آخر کیا کرے ایک مرد کی محبت پانے کے لیے۔“ آج دل پر تازہ تازہ چوٹ



پڑی تھی۔

حس شخص کو امر کر رہی ہو۔ یاد رکھنا وہ اگر امر ہو بھی گیا تو اسے بھی اپنی ہی کارگزاری سمجھے گا۔ تمہاری محبت کی کرامات نہیں اور تم..... ایک دن یونہی اس کی نگاہوں کی بھلے اس کے دل میں ایک فقط ایک کونہ تلاش کرتے کرتے مٹی ہو جاؤ گی۔“

آج عماد نے بیڈ پر اچھلتے ٹیپو کو اٹھا کر بیڈ سے نیچے پٹخ دیا تھا اور اس کا دل بھی جیسے کسی نے پوری طاقت سے ٹوٹے کاٹچ پردے مارا تھا۔ آج جو لہو بہتا تھا اس کا رنگ ہی اور تھا۔

ضروری نہیں کہ ہمیشہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جلائیں۔ تپش لکھے ہوئے میں بھی ہوتی ہے۔ اس نے اس روز جانا۔“

”کیسی عورت ہو۔ زندگی گزر جائے گی سکھاتے سکھاتے مگر تمہیں کچھ نہیں آئے گا۔“

شرارت ٹیپو کی تھی اور وہ تربیت اس کی کرنے چلا تھا اگر تربیت کی جگہ محبت کرنے چلا ہوتا تو..... اوپھر ساری بار آخر محبت پر ہی آئی نا!

”ہاں۔“ اس نے گہری سانس بھری۔  
”عورت کا خمیر اٹھا ہی مٹی سے ہے۔ اسے محبت کا پانی دے کر گوندھو اور پھر جدھر کو چاہو موڑ دو۔“ پللیں موندنے سے پہلے آخری سوچ شعور کی سطح پر ابھری اور ڈوب گئی۔

”عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود سے محبت کرے۔ اپنی ذات سے اپنی عزت نفس سے..... عورت کی سب سے بڑی غلطی ہی اس کا پانی ہونا ہے۔“

☆.....☆.....☆

”پانی اور عورت.....؟“

وہ ایک بے حد مصروف ترین دن تھا۔ جب شہر سے باہر رہنے والے کسی مہمان کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ اپنے میکے جانے کے ارادے سے گھر سے نکل چکی تھی۔ اور امی کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا پر نور چہرہ اپنی تھکن زدہ آنکھوں میں جذب کر رہی تھی۔

”ہاں پانی جو..... ہر رنگ اور شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ اس میں جو عنصر ملا یا جائے وہ اسی کا ذائقہ اپنا لیتا ہے۔ اسی کا رنگ گھول لیتا ہے خود میں، جس برتن میں ڈالا جائے اسی کی شکل بنا لیتا ہے۔“

”کیا حال کر لیا ہے کن چکروں میں رہتی ہو۔ خود پر بھی توجہ دو بھلا، ایسی ہوتی ہے سہاگنیں۔“

”تو کیا غلط ہے یہ۔“

”وہ سہاگنیں ہوتی ہوں گی امی میں تو..... میں تو بس عورت ہی رہ گئی ہوں۔ ممتا کے سوا اب اور کوئی جذبہ شاید میری نسوانیت کے ثبوت کے لیے باقی نہیں بچا۔“

”ہاں..... عورت کو آگ جیسا ہونا چاہیے آگ جو کسی سے محبت نہیں کرتی اپنے سوا آگ جو اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو نیست و نابود کر دیتی ہے ہر شے فنا ہو جاتی ہے اس کے سامنے۔“

وہ صرف سوچ ہی سکی۔ بول پڑتی تو شاید ماحول میں نہیں رہتا جو اس وقت نرم گرم ماں کی گود کی طرح زمانے کی ہر سختی سے پرے۔ بس آتشی اور امن۔

”اچھا..... تو پھر بھلا عورت محبت کیسے کرے گی۔ محبت تو خود فنا ہونے کا نام ہے۔ محبت کسی کو ختم نہیں کرتی خود ختم ہو کر اپنے محبوب کو جلا دیتی ہے اسے امر کر دیتی ہے۔“

”جیسے تم خود ختم ہو رہی ہو۔ اور عماد جیسے بے



تبھی فون بج اٹھا اور اس کی روانگی کا بگل بج اٹھا۔

”کیا مصیبت ہے تمہارے سرال والوں نے تمہیں بیگار کا مزد سمجھ رکھا ہے کیا۔“  
”لو حد ہو گئی ہے اتنے دن بعد آئی بھی تو بس شکل دکھانے۔“ دادی بولیں۔

”اور شکل بھی تو دیکھیں کیسے بارہ بج رہے ہیں۔ امی کا دل پسج جاتا تھا۔

”ہاں تو کیوں نہ بجیں کیا میں جانتی نہیں میری بچی کے دل کی بات۔“

”آپ واقعی نہیں جانتیں دادی۔“ اس کے دل کی بات دل میں ہی رہی۔

یوں اچانک آنے اور فوراً واپس پلٹنے سے افسردہ تو سب تھے لیکن اس سے زیادہ نہیں۔

”کل آ جاؤں گی امی۔ ٹیپو کو چھوڑ جاتی ہوں تو پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔“

اس نے خود ہی راہ نکالی لیکن آفس کی چھٹی کر کے خود کو پک کرنے کے لیے آئے ہوئے عماد

کے سامنے آنسو رک نہیں سکے۔ کیونکہ ٹیپو کو چھوڑنے کی اجازت نہیں مل سکی تھی۔

”اوہو..... اتنا کیوں رونا آ رہا ہے۔ بہت زیادتی ہو گئی۔“

”بات تو زیادتی کی ہی ہے کوئی سمجھے تب نا۔“

”یعنی..... تمہارے خیال میں تمہیں کوئی سمجھنے والا نہیں۔“

”سمجھنے والا۔“ اس نے طنز سے عماد کی آنکھوں میں جھانکا۔

”مجھے کوئی سننے والا نہیں۔“

شکوہ زندگی میں پہلی بار اس کے لبوں سے نکلا اور عماد کو چونکا گیا۔

شوہر بیوی سے محبت بھلے کرے نہ کرے اس کی پرواہ کرے یا نہ کرے۔ لیکن اس کے لہجے کے نشیب و فراز کو فوراً بھانپ لیتا ہے اور آج تو پھر انہونی ہو گئی تھی۔

اور کوئی انہونی یوں بھی وقوع پذیر ہوئی ہے انسان کے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر دیتی ہے۔

☆.....☆.....☆

اس نے چائے دم دیتے ہوئے کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔

لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص خوش گپیوں میں مگن تھا۔ سوائے اس کے مجازی خدا کے۔ اور وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ہمیشہ کی طرح بات کا اصل متن بھول جاتی تھی۔

یہ وہی شخص تھا جس کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے لگائے گئے اپڑی چوٹی کے زور کی چرچا اس گھر سے، اس گھر پہنچی تھی تب سے اب

تک میں کہاں کہاں، کیا کیا تبدیلیاں نہیں آئی تھیں۔ خود اس کی اپنی شخصیت اس قدر تغیرات کا

شکار تھی کہ کبھی کبھی آئینہ بھی اسے پہنچانے سے چونک جاتا تھا۔ مگر وہ شخص..... وہ اس کی محبت،

اس کا محبوب اس کا محرم، وہ وہیں تھا۔ سو فیصد وہیں کا وہیں.....

جو اگر بیٹھا ہوتا تو کائنات سا کن لگتی۔ جو اگر کھڑا ہو جاتا تو لگتا کہ دنیا میں اس سے زیادہ وجیہ

سراپا بھلا کس کا ہوگا۔ جو سوچ میں گم ہوتا تو رانیہ اس کے چہرے کے نقوش میں گم ہو جاتی اور اگر

بول پڑتا تو..... تو اس کے لبوں کے خم ساری خوبصورتی کا نقطہ بن جاتا وہ خود تو یوں بھی حسن

کے ہتھیاروں سے لیس نہیں تھی رہی سہی کسر گھر میں رہنے والے دوسرے لوگوں نے پوری کی اور

وہ بالکل ہی ہنستی ہو گئی۔



پہلے بیڈ پر اچھلتے ہوئے ٹیپو کو دو تھپڑ رسید کر کے نیچے اتارا بستر کی چادر سے سلوٹیں نکال کر اسے سیٹ کیا۔ پھر اطمینان سے بیٹھ کر سیل فون نکالا تو۔

آئے ہوئے سب ہی پیغامات کسی نے پڑھ ڈالے تھے اس سے پہلے ہی، اس کی لائیکس میں اور بھلا کون کر سکتا تھا یہ عماد کے سوا۔

اس کے ہاتھ لرزے اور فون چھوٹ کر نیچے بچھے غالیچے پر جا گرا۔

”محبت کرنا اور پھر منہ بند کر کے ہی چلے جانا کوئی عقلمندی نہیں۔ احساس دلانے کے لیے اظہار کا سہارا لینا کوئی بری بات نہیں۔“

آخری مسیج کے الفاظ مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کا بھی، اس کی محبت کا بھی اور اس کے رشتے کا بھی۔

”کیا نہیں دیا میں نے اسے اس گھر میں..... اور وہ.....“

چائے کے کپ میں سے بھاپ اڑنا بند ہو چکی تھی اور وہ فضا میں کوئی نادیدہ حدت تلاش کرتا بکھرا ہوا تھا۔

”اور وہ کیا.....“

وہ جواب میں بہت دیر کچھ نہیں بولا۔ یوں جیسے بڑی مشکل میں ہو۔

”وہ ایسی نکلے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا یار..... وہ کسی مرد کے ساتھ اس طرح پورا دن پوری رات..... اوہ میرے خدا!“ اس نے مٹھیوں میں بال جکڑ کر نوج لیے۔

”ارے ارے ریلیکس..... بھئی دیکھو پہلی

بات تو یہ..... کہ یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں تو اس کا مطلب غفلت تمہاری طرف سے برتی گئی۔ اور

دوسری بات یہ کہ تم نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ کسی

”آج بھائی بڑے چپ چپ سے ہیں۔“  
”اچھا۔“ وہ جو بڑی دیر سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھے تانیہ کی بات پر چونک کر دوبارہ اسے دیکھنے لگی۔

”آپ کو نہیں لگا۔“ اس کا حیرت زدہ لہجہ طنز یہ تھا۔

”ہاں..... آپ تو اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہیں۔“

اسے جانے کیوں اعتراض تھا ہر بار کی طرح اس بار اسے افسوس کے بجائے غصہ سا آ گیا۔

”تو میرے علاوہ باقی سب کیا دوسروں کی دنیا بن رہے ہیں۔ سب اپنی ہی دنیا میں مگمگ ہیں۔ ایک میں ہی کیوں؟“

زبان پر سے سارے اختیارات اٹھالینا ایک دم سے ممکن نہیں ہوتا۔ بہت عرصہ دل و دماغ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے۔ نکتے قواعد، یادداشتیں پیش کی جاتی ہیں۔ معاہدے ہوتے ہیں ارادے توٹتے ہیں۔ پھر کہیں جا کر یہ محاذ کھلتا ہے شروع شروع صرف طنز کے ہلکے پھلکے وار کیے جاتے ہیں طعنوں تشوں کی فائرنگ کی نوبت بہت بعد میں آتی ہے اور الزامات کی گولہ باری اس کے بھی بعد۔

وہ تو اتنے سالوں میں محض دل اور دماغ کو ایک رکھنے اور دل کو دماغ کی تابعداری سکھانے میں ماہر ہوئی ہے۔ بھلا اتنی جلدی کہاں کسی طنز کا جواب فوری اور ختمی انداز میں ’داغ‘ سکتی تھی۔ اسی لیے نظریں جھکا کر سنجیدگی سے چائے کی ٹرے اسی کو تھمادی کہ سب لوگوں میں تقسیم کر دے۔

دراصل..... اپنی دنیا..... کے الفاظ کے ساتھ ہی اسے کسی اور کی یاد آ گئی تھی۔

وہ جلدی سے کمرے میں آئی اور سب سے



”افسوس ہوا تمہارے منہ سے ایسی بات سن کر..... ان فیکٹ..... یقین نہیں آیا کہ تم بول رہے ہو۔ تو ٹھیک ہے میں بھی ایک عورت ہوں اس نے سر ہلایا۔“

”لیکن میں رانیہ سے بہت مختلف ہوں عماد اور میں تمہاری بیوی بھی نہیں اس لیے میں اپنی بات کو تمہارے سامنے ثابت ضرور کروں گی۔“

اس نے اپنے قیمتی ہینڈ بیگ سے موبائل نکالا۔

”رانیہ جس مرد سے باتیں کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں..... میں..... تمہاری کولیگ..... شرمین جاوید۔“

اس نے سیل فون کا ان باکس کھول کر عماد کے سامنے رکھا۔ جو اس وقت انسان کم اور بت زیادہ لگ رہا تھا اور وہ بھی پتھر کا بت۔“

”لو دیکھو..... پڑھو..... سمجھو اور جانو..... کہ وہ کیسی ہے اور تم کیسے ہو۔“

”وہ کیا سے کیا ہوگئی اور تم بس اپنے آپ کو ایک مجازی خدا سمجھتے رہے۔“

اسے سجدے کی مانند اپنے چہنوں میں جھکے دیکھنے کی بہت عادت ہوگئی تھی نا، تمہیں مبارک ہو تمہیں جھکنے نہیں پڑے گا۔ کیونکہ تم ٹوٹ گئے ہو اور منہ کے بل گرو گئے۔“

ان باکس کھلا پڑا تھا۔ رانیہ کا نمبر اور اس کے مسج جھانک رہے تھے اور درحقیقت یہ مسج نہیں، کسی کی مسرتوں کا نوحہ اور کسی کے اجاڑ دل میں بین کرتا ماتم تھا۔

کتنا جھک جاتی ہے کتنا گر جاتی ہے ایک عورت کسی مرد کے دل میں اونچا ہونے کے لیے۔“

”مہرے لیے تو ایک بوند ہی کافی ہے۔“

غیر مرد سے باتیں کرتی ہے وہ کوئی لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کی کوئی فرینڈ۔“

”اس کی کوئی فرینڈ نہیں.....“

”کوئی کزن.....“

”کوئی کزن نہیں اس کی.....“

”تو کیا پتا اس کی بہن.....“

”نہیں یار..... نہیں نا!..... اس کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا کہ وہ کسی سے کوئی بات کر پاتی.....“ کچھ الفاظ بے اختیار نکلتے ہیں لیکن ہوتے بڑے با اختیار ہیں۔

وہ بھی اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا پھر سامنے بیٹھی اپنی کولیگ کو دیکھا۔

”تم نے اسے اتنا بھی وقت نہیں دیا کہ وہ تم سے اپنے دل کی بات کر لیتی۔ پھر کسی اور سے کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں اس کے پاس کوئی نہیں ہے جس سے وہ، کبھی کہیں سکون سے بیٹھ کر دو گھڑی بات کر سکے۔“

اپنے دل کی بات..... جیسے تم مجھ سے کر رہے ہو..... کسی سے اپنا دکھ کہہ سکے..... کسی سے اپنی فیلینگز شیئر کر سکے۔ اگر تم نے اسے اتنا بھی Space نہیں دیا تو پھر عماد۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ غلطی اس کی کم اور تمہاری زیادہ ہے۔“

عماد پر ایک لمبی چپ طاری تھی اور یہ لمبی چپ بڑی فیصلہ کن ہوتی ہے کبھی تو اس چپ کے بعد ہیرے موتی زبان سے جھڑتے ہیں..... اور کبھی انسان کی اوقات.....

’ہونہ..... ہونا آخرا ایک عورت، تو عورت کی ہی سائیڈ لوگی۔‘

سامنے موجود چہرے پر اطمینان کی وہی کیفیت رہی کوئی فرق نہیں پڑا۔



حالت خطرناک ہو چلی تھی۔

”اگر اسے ہوش نہ آیا..... اور میں کفارہ ادا کے بغیر اکیلا رہ گیا۔ وہ مجھے معاف کیے بغیر ہی چلی گئی تو..... میں تو شاید اتنی خاموشی سے جا بھی نہ سکوں.....“

کوئی خوف تھا جو اس کا رواں رواں کھڑا کر کے، روار کھی گئی ہر زیادتی کی سزا یاد کروا رہا تھا۔

”کیا جرم تھا میرا..... کوئی اس کے بندلبوں سے غراتا تھا۔“

”مجت.....؟.....؟.....؟“ سوال کرتا تھا۔

”ہاں یہ میرا جرم تھا۔ اعتراف کرتا تھا۔“

”میں نے وہ قیمتی متاع تم پر مٹائی جس کے تم قابل نہیں تھے۔ انکشاف کرتا تھا۔“

اور وہ بے تابی بے قراری سے اس پر جھک جاتا تھا۔

”رانیہ! پلیز آنکھیں کھولو رانیہ! پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو میں..... ازالہ کروں گا..... میں تلافی کر دوں گا..... اپنی ہر غلطی کی اپنی ہر خطا کی.....“

کبھی کبھی معافیاں تلافیاں، تاخیر کے سبب اپنا پتا کھودتی ہیں لیکن شکر ہے کہ ایسا ہوا نہیں اور رانیہ نے آنکھیں کھول دیں۔

کوئی بے حد قریب بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اس دھندلے منظر پر کبھی یقین نہ کرتی مگر اپنے کانوں سے سن نہ لیتی تو.....

☆.....☆.....☆

جو بستر کی چادر پر شکن تک برداشت نہیں کرتا وہ بھلا عزت کی چادر پر کیسے.....“

جو اس کھونے سے پہلے وہ آخری سوچ تھی جو شعور کے آئینے میں دکھائی دی تھی اس کے بعد محرک لا شعور سے مناظر، وہموں خوشیوں اور

اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ آس پاس کے پرسکون ماحول میں شور بھرنے لگا۔

چینیں آوازیں، منتیں اور..... اور..... گالیاں.....

”حرامزادی..... یہ..... یہ کرتوت ہیں تیرے۔ اس لیے زبان چلنے لگی تھی۔“

”نہیں..... خدا کے لیے میری بات سنیں۔“

اس نے ٹھیک کہا تھا اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا اور اس وقت تو بالکل نہیں ظالم اگر مظلوم کی سننے لگے تو مظلوم کہلائے ہی کیوں۔

”ایسا مت کریں عماد پلیز ٹھنڈے ہو جائیں سب سن رہے ہیں کیوں میرا تماشا بنا رہے ہیں کیوں۔“

”تماشا..... میں نے بنایا ہے تماشا..... میں نے..... میں نے۔“

اس نے ایک سوال کئی دفعہ دہرایا اور ایک بار بھی جواب مانگنے کے بجائے اسے اذیت دی اسے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے رانیہ پر ایک بار ہاتھ اٹھایا یا دو بار..... اور پھر..... شاید وہ تھک گیا یا شاید یہ رانیہ ہی ایک طرف لڑھک گئی۔

☆.....☆.....☆

ہاسپٹل اس کے سرد سفید اور نیم روشن کمرے میں موت کی آہٹ سنائی دیتی تھی اور زندگی دیک کر کسی کونے میں جا بیٹھی تھی۔

زرد آنکھوں پر دبیز پونے ڈھکے ہوئے تھے ابھری ہوئی نسون کے مدقوق ہاتھ کسی جوان عورت کے سنورنے والے نہیں بلکہ کسی عمر رسیدہ بڑھیا کے ہاتھ لگتے تھے جس کی عمر بھر کی کہانی اس کی رگوں میں ابھرائی تھی۔

حالت خطرے سے باہر آنے تک اس کی اپنی



بھیانک خوابوں کا چہرہ اوڑھ کر اسے ڈراتے رہے تھے۔

بھڑے لبوں پر ماں کی پکار جاگی لیکن ہر بار کی طرح یہ خواہش بھی تشنہ ہی رہی۔  
”رانیہ! ادھر دیکھو میری طرف..... میں ہوں عماد..... صرف تمہارا عماد.....“  
”عماد.....“

اس نے رُخ پھیرا..... وہ خوبصورت چہرہ جس نے اس کے خوابوں کی دنیا میں سب سے پہلے رسائی پائی تھی، مسخ ہو چکا تھا شک و شبہ کے تیزاب نے اس کے تنکھے نقوش کو بگاڑ دیا تھا۔ اس کی اجلی سفید رنگت کو سیاہ کر ڈالا تھا۔  
اب وہاں اس کا محبوب نہیں کوئی، غاصب عفریت کھڑا تھا۔

”نہیں..... نہیں..... میرا تو..... میرا تو کوئی نہیں، کوئی نہیں میرا.....“

اس نے بے چینی سے سر کو دائیں بائیں بوٹھا اور یہ چوٹ زندگی میں پہلی بار عماد کو اپنے دل پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔

”رانیہ.....! معاف کر دو رانیہ میں ہی غفلت کا شکار تھا میری غلطی ہے آئندہ نہیں ہوگی جیسے تم میری ہو، ویسے میں بھی تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔“

لیکن بستر پر پرا پیار لاغر وجود بے خبر ہو چکا تھا۔

☆.....☆.....☆

اس کا کمزور ہاتھ، عماد کے مضبوط ہاتھوں کے درمیان دبا اپنی قسمت پر نازاں ہونے کے بجائے نادم تھا۔

”جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ جان! ہمارا گھر تمہاری راہ دیکھ رہا ہے۔“

وہ پتھرائی نگاہوں اور جامد چہرے سے چھت کی کڑیاں گنتی رہی۔

کبھی کوئی منظر جاگتا کہ آگ کی لپٹیں لمبی زبانیں کھولے اس کی طرف لپکتی ہیں کبھی احساس ہوتا کہ کن من بوندیں برستی ہیں اور اچانک سیلاب کی مانند بڑی ساری اس کا تنکے سا وجود اپنے ساتھ بہائے لے جا رہی ہیں۔

پھر اس نے مٹی کے تیلے دیکھے جن کے سپاٹ چہروں پر صرف زبانیں لگی تھیں اور لٹک کر سینے تک باہر آ رہی تھیں۔ ایک روز آندھی آئی اور اسے اڑا کر دور بہت دور کہیں ویران سنان گھنے جنگل میں پٹخ گئیں اب کوئی راستہ تھا نہ کوئی منزل بس وہ یہاں سے وہاں زخمی پیر، چھلے ہوئی ہتھیلیاں، کھرچی کلائیاں لے کر بھاگتی پھرتی تھی۔

اور کوئی آواز دور..... بہت دور سے اسے پکارتی تھی۔۔۔

”رانیہ.....! رانیہ.....!“

وہ اس آواز کے ماخذ کو پہچان رہی تھی اس تک پہنچنا چاہتی تھی لیکن جنگلی پودے ایکا ایکی اڑدھوں کا روپ دھار لیتے۔ سرپٹ دوڑنے میں سے اس کے پیروں سے لپٹ کر اسے منہ کے بل گرا دیتے اور بظاہر خاموش لیٹے اس کے وجود کے اندر سر پختی بے چینی اس کی رگڑتی ایڑھیوں سے عیاں ہو جاتی۔

بالآخر اس کے وجود کے لے چینیوں، اور اضطراب کو کنارہ ملا تو اُس نے آنکھیں کھولیں اور نزدیک بیٹھے عماد کو دیکھ کر دوبارہ بند کر لیں۔

زندگی میں پہلی بار اس کا دل چاہا کہ یہاں عماد کے بجائے اس کی ماں ہوتی۔

”امی..... امی.....!“ سوکھے سفید پیڑیوں



اور سارا (.....) بھی۔

وہ جھکے سر اور دھلکے ہوئے شانوں کے ساتھ باہر نکلا تو شرمین جاوید کا ریڈور میں ہی مل گئی اس کے سر اُپے سے مریض کے کمرے میں بیتنے والی کتھا بھانپ کر خود بخود اس کے برابر چلتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔

”کہا اس نے مجھے تب واقعی تم سے محبت تھی۔ کہا میں نے مجھے تو آج بھی تم سے محبت ہے، وہ تب کی بات کرتی ہے، میں اب کی بات کرتا ہوں۔“

مگر جو فاصلہ اب اور تب کے درمیان ہے، ہم دونوں سے مل کر بھی سیمٹا نہیں جاسکتا، وہ اب تک آ نہیں سکتی میں تب کو پا نہیں سکتا۔“

☆.....☆.....☆

ایک بے شکن چادر کی خواہش نے، کسی کی زندگی سلوٹوں سے بھر دی۔ کسی کی محبت کو آلودہ کر دیا۔ اس کی شفافیت داغدار کر دی اور اس کے دل کے کاغذ پر، جہاں محبوب کا نام، سب کچھ سہہ کر بھی سزا سا چمکتا تھا۔ اب وہ کاغذ شکن زدہ ہو چکا تھا۔

اور کاغذ..... اس اعتبار کی طرح ہوتا ہے جس پر ایک بار سلوٹیں پڑ جائیں تو اسے دوبارہ کبھی سیدھا نہیں کیا جاسکتا۔

اور ہاسپٹل کے کمرے میں بیڈ پر بے حس و حرکت پڑی رانیہ کا ذہن متحرک تھا۔

میرا وجود پڑمردہ ہے، میرے اعصاب پراگندہ.....

میرا دل شکست خوردہ ہے، میری محبت شکن زدہ.....

Downloaded From  
Paksociety.com

دوشیزہ 189

”میرا کمرہ بالکل سونا ہے تمہارے بغیر، تمہاری محبت کے بغیر..... میرے دل کی طرح۔“ اس کے نیم مردہ وجود میں حرکت جاگی۔ ڈبڈباتی آنکھوں میں پہچان کے رنگ جاگے۔

”میری محبت.....؟ اس کے حیران لہجے کا چڑھاؤ بڑا انجانا تھا۔

”ہاں رانیہ..... تمہاری محبت، جس نے میرے دل میں چھپی ہوئی میری محبت کو زندہ کیا، اسے باہر نکالا۔“

رانیہ نے خشک گلا تھوک نگل کر تر کرنے کی نا کام کوشش کی اس کی گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوا بہت طاقت صرف کر کے بولی۔“

”میری محبت نے آپ کے دل میں چھپی محبت کو نہیں..... آپ کے اندر چھپے حیوان کو نکال کر باہر پٹخ ڈالا..... عماد..... اور اس حیوان نے باہر نکلتے ہی میری.....“

اس کا سانس پھول گیا۔ وہ بے طرح ہانپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اُڈے، آواز بھرائی۔

”میری محبت کو زندہ نگل لیا۔“ آنکھوں کی منڈیر پر ٹھہرا پانی بہہ نکلا۔

”سالم..... اسے ہاتھ پیر چلانے..... احتجاج کرنے، اپنے بچاؤ کے لیے چلانے تک کا موقع نہیں دیا عماد..... میں مر گئی اور میری محبت بھی۔“

اس نے عماد کی گرفت میں تنگ پڑتا ہاتھ کھینچا تو وہ عماد کی پسینہ پسینہ ہوتی ہتھلیوں کے بیچ بھیگ چکا تھا۔

”میں اب کسی سے محبت نہیں کرتی..... کسی سے بھی نہیں۔“

اس کی آواز مضبوط ہو چکی تھی لہجہ سمٹ چکا تھا

READING  
Section



## زندہ دفن کی گئی

دوشیزہ کی بے مثال رائٹر کے جادوئی قلم سے  
پڑھنے والوں کے لیے خوبصورت تحریر

”یہی ایک اس کا مختصر سا جواب۔  
”پھر یہ کیا حال کر لیا؟ گھر بیٹھی رہتی ہو؟ میں  
نے تو سنا تھا نرسنگ اسکول ایڈمیشن لیا تھا تم  
نے۔“ میری بات سن کر ثانیہ ملک نے اپنے  
سامنے ٹھہری متناسب متوازن جسم والی اسٹائلش  
لباس والی مینم (یعنی مجھ) پر نگاہ ڈالی پھر بے  
نیازی سے کہا۔

”کیا فرق پڑتا ہے مینم..... اس کا خیال رکھتی  
ہوں..... رکھوں گی۔“

اس نے اپنی بچی کو تھپکا۔ بچی پیاری بھی تھی  
اور اس کا لباس بھی برانڈ ڈلگ رہا تھا یہی کچھ ہوتا  
چلا آیا ہے عورت خود کو ختم کر کے اگلی نسل تیار کر  
دیتی ہے اور اپنے خواب بچی کو منتقل کر دیتی ہے۔  
آس پاس ٹھہری ٹیچرز کی ترحم انگیز نگاہیں  
دیکھ کر وہ بے فکری سے ہنسی..... بولی۔

”آج کے ویمن ڈے کا انتساب مردہ  
عورت کی زندہ تصویر کے نام کر دیجیے۔“

اسے کیا ہوا؟ یہ تو اچھی خاصی دلکش لڑکی تھی۔  
ویمن ڈے کی تقریب میں وہ مجھ سے آ کر ملی  
تو میں حیران رہ گئی۔ پہچان تو لیا کہ ہماری سابقہ  
اسٹوڈنٹ تھی یہی کوئی سات آٹھ سال پہلے کالج  
کی تقاریب کی روح رواں ہوا کرتی تھی۔ آج  
کل تو سال اتنی جلدی گزرتے ہیں کہ پرانے ہی  
نہیں لگتے۔“

یہ لڑکی ثانیہ ملک، سلم اسمارٹ کجھاری  
آنکھیں اور پونی میں بندھے گھنے بال اس کی  
پہچان تھے اور اب جو ثانیہ ملک میرے سامنے  
ٹھہری ہے وہ مرجھائے چہرے والی پھلکی جسامت  
کی موٹی عورت ہے اس کی گود میں ڈیرھ سال کی  
بچی ہے۔

اپنی شاگرد کا یوں ادھیڑ عمر لگنا ہم ٹیچر کو نام  
کرتا ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں سے، ٹیچرز خود کو  
Maintain رکھتی ہیں، ضرور سننا پڑتا ہے میں  
نے اپنا دفاع پہلے ہی کر لیا۔

”کیا ہو گیا ہے تمہیں لڑکی..... کتنے بچے پیدا



سے واجبی تعلق تھا اور بیٹیوں سے یہ تعلق بھی واجبی تر تھا ایسے میں بیٹی نمبر ایک کی سادگی سے ہونے والی شادی بھی زیادہ عرصہ خوشی نہ دے سکی۔

وہ ذہنی مریض خاوند کا بدترین ظلم سہہ کر بد ترین سماجی فیصلہ لے کر مزید بدترین کے لیے ماں باپ کے گھر لوٹ آئی۔ بیچاری آپنی کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو ہرگز یہ دلہیز نہ الائنٹی مگر وہ کہاں جاتی، دم مسوس کر یہی آپڑی۔

یہاں اس پر پانچ چھوٹی بہنوں کا مستقبل خطرے پر لگانے کی سخت فرد جرم عائد ہوئی۔ اس نے چند مہینے سر جھکائے، منہ چھپائے، کھانے پینے کے کم سے کم حصے پر گزارہ کر کے بتائے پھر ایک پرائیویٹ اسکول میں سات ہزار ماہانہ کی ہفت اقلیم حاصل کر لی گئی۔


وہ اب باقاعدگی سے ابا کو اپنی روٹی یعنی میس Mess کے مے دینے لگی۔ ابا بھی غریب

”کیوں ثانیہ؟ کیوں بچے؟“

میرے سوال میں دکھ تھا اس کا جواب ایک کہانی تھا۔ ہمارے معاشرے کی عام کہانی اگر اس کو کسی پر بیتا دیکھا جائے اور بہت خاص کہانی اگر خود پر بیٹے۔

”چار کمروں، ایک برآمدہ اور کچے و پڑے والے ہمارے گھر میں ہر طرف بڑھتی ہوئی چھ بیٹیاں دکھائی دیتی تھیں ہر کمرے میں دو چار بیٹھی مل جاتیں چوہے سا ایک بھائی تو ان میں نظر ہی نہ آتا تھا۔ ان بیٹیوں پر باری باری وارد ہونے والی جوانی سے خائف ماں بیماری میں لاشعوری پناہ لیے رکھتی۔ اس لیے بھی کہ اب اسے کام کاج خود کرنے کی حاجت نہ تھی۔ اس کو ماتھے پر پٹی باندھ کر سونے رہنے میں سہولت حاصل ہو گئی تھی۔

بیٹیوں کا سنجیدہ رنجیدہ باپ ہمہ وقت بیرونی قرائض انجام دہی میں منہمک رہتا۔ اس کا گھر



Downloaded From  
Paksociety.com



تھی۔ چوہدری اللہ یار اپنے پتر اپنے وارث اللہ بخش چوہدری کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ اس کو پتر کی محبت مجبور کر کے لائی تھی۔

چوہدرائیں ساتھ تھی اور میری ماں کو وہ جگہ نہ ملتی تھی جہاں چوہدرائیں کو بٹھائے۔ موٹی تازی سانولی عورت جس کے دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں تھیں۔ جس کی نظروں میں غرور و تکبر تھا تاہم ہماری دھول مٹی غریبی مسکینی سے صرف نظر کر کے جب اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا دل ڈھ گیا۔

مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کھونٹا ڈھونڈ لیا گیا ہے میں کمرے میں جا کر رونے لگی۔ وہ عورت خود بتا رہی تھی کہ ہمارے ہاں نسلوں سے کسی نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا مرد تک نا خواندہ تھے عورتوں کی پڑھائی کا کیا سوال تھا۔ وہ یہ باتیں تھیں جو مجھے برداشت نہیں ہو پا رہی تھیں مگر میرے سوا سب مطمئن تھے۔

ایک ایک آم کو ترسنے والی چھوٹی بہنیں آموں کی دو پیٹیوں پر لپچا رہی تھیں بڑی آپی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اکلوتا بھائی کھیل رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اللہ بخش کے پاؤں کالے سیاہ نہیں اس کے ناخن گندے ہیں مگر آپی پوچھتی تھی کہ میں ٹسوے کیوں بہا رہی ہوں میں آنسو پونچھ کر پھٹ پڑی۔

”کیا لڑکی بکری گائے بھینس ہے جسے چارے کے ڈھیر پر چھوڑا جاتا ہے؟ کیا ہماری کوئی خواہش کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ آپی تمہیں تمہاری مرضی پوچھے بغیر جمیل کی تین ہزار ماہانہ تنخواہ سن کر ہانک دیا گیا۔ تین ہزار میں اس کے گھرانہ کے تیرہ بندے حصہ دار رہتے اور وہ نفسیاتی مریض تھا نتیجہ کیا نکلا.....؟“

رانیہ ہانیہ! تم بھی اتنی چھوٹی نہیں ہو کہ میری

تھے کیا کرتے۔ اس کے نصیب پر آہ بھر کر میرے بارے (ثانیہ کے بارے) میں سوچنے لگے کہ دوسرے نمبر والی میں تھی۔

میں نے جلد ہی کافی قد کاٹھ نکال لیا تھا۔ رنگت صاف تھی بے فکری کے گلاب گالوں پر کھلتے تھے آئینہ دیکھ کر اونچے خواب دیکھا کرتی۔ مجھے اپنی دوسری بہنوں کی طرح دولت سے آراستہ پیراستہ گھروں کی بجائے مہذب لہجوں والے اعلیٰ تعلیم یافتہ نرم خوانسان اچھے لگتے تھے اور ایسا ہی خواب میرا شریک سفر کے متعلق تھا۔

مگر بد قسمتی سے کالج آتے جاتے ایک زمیندار کا فارغ پتر میرے پیچھے لگ گیا وہ گاڑی میں میرا کالج تک پیچھا کرتا..... ہم کالج بس سے اترتے تو اس کی گاڑی گیٹ کے مقابل سائیڈ پر موجود ہوتی۔ کچھ ہی دنوں میں میری قریبی سہیلیوں نے بھی اس بات کا نوٹس لے لیا۔

گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنا نام بھی جلی حروف میں لکھوایا ہوا تھا۔ ”اللہ بخش چوہدری“ ہم لوگ اسے ABC کہنے لگیں۔ محبت کے مارے والدین اپنی اولاد کے کیسے کیسے غیر ترقی یافتہ نام رکھ دیتے ہیں خیر وہ خود بھی کچھ کم غیر ترقی یافتہ تھا گاڑی سے باہر نکل کر اپنے تئیں ہیرو بن کر گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ تیل سے بال اور ماتھا چمکائے، بغیر استری واش اینڈ ویر جوڑا اور پاؤں میں سوئی چپل اس میں کچھ بھی پسند کیے جانے کے قابل نہیں تھا اجڈ گنوار پینڈو..... مگر وہ پینڈو اتنا تیز نکلا کہ اپنے بڑی بگ والے باپ کے ہمراہ ہماری کچی گلی کی نالیاں پھلانگتا شریف لے آیا۔

نوکر نے سر پر آم کی دو پیٹیاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان کی چمکتی گاڑی گلی کے کٹڑ پر ٹھہری ہمارے بوریا والے دروازے کی شان بڑھا رہی



”امی تمہاری کیا سنیں گی میں بات کروں گی، آپ نے کہا۔“  
 ”نہیں آپی..... تمہیں تو تمہاری مثال دے کر وہ چپ کروادیں گی۔ میں بات کر سکتی ہوں میں کروں گی۔“

چوتھے نمبر والی ہانیہ بولی۔ مگر ہونا وہی تھا جو ابابا کریں گے۔ حاکم مننے کے لیے جاگیردار امیر کبیر ہونا ضروری نہیں، گنگے غریب باپ بھی حاکم ہوتے ہیں۔ امیر غیرت کے نام پر حکم چلاتا ہے غریب بس کسی کے نام پر سودا کرتا ہے۔“  
 سترہ سالہ لڑکی کتنا سچ بول گئی تھی۔

میرے اندر امید کا ننھا سا دیا ٹمٹمانے لگا۔ رات کو رانیہ ہانیہ اور آپی امی کے پاس جا بیٹھیں۔ ابا عشاء کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ امی کو ویسے بھی ہم سب کی صورتوں سے اور خصوصاً میری رورو کر سو جھی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ تھا کہ ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں آیا ہے مگر وہ خاموشی سے کام چلا رہی تھیں بیٹیوں کے دلائل سن کر بولیں۔

”چار مربعوں کا مالک ہے۔ عزت سے منت سے لے کر جا رہا ہے، چوہدری کی گاڑی الگ ہے اللہ بخش کو الگ دلوار ہے۔ جوان ہے مالدار ہے صحت مند ہے۔ صرف جاہل ہے تو کیا ہوا، ہم سے غلطی ہو گئی کہ تمہیں تعلیم دلوادی۔ آج منہ لگانے آگئی ہو۔ تم خود تو عمر بھر کو بیٹھی ہو ان کو بٹھاتی جاؤں؟“

ہمارے جیسوں کے گھروں میں رشتے آتے کب ہیں بجائے شکر ادا کرنے کے رونا دھونا مچا دیا ہے جاہل سے اخبار نہیں پڑھ سکے گا تو کون سی قیامت آجائے گی۔ دو چار لفظ انگریزی بولے ثانیہ سکھا دے گی..... جو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے بوڑھے باپ کو کیا سمجھاؤں۔

بات نہ سمجھ سکو۔ تم نے چوہدری کے بیٹے کو جا کر دیکھا ہے؟ ہاں اسے دیکھ کر آئی ہو، اسے بولتا سن کے آئی ہوں۔ ہر بات میں دو دفعہ ”مطبل ہے، مقصد ہے کہتا ہے ہنتا ہے تو بد نما دانت نکل آتے ہیں یہ چھوٹی بہن اس کے پاس ٹھہری ہے تو کہتی ہے مجھے تمہیلی کی بدبو آئی تھی تیل کے چپڑے سر پر ہاتھ پھر کر انگلی کان اور ناک میں گھماتا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بتا کر ہنس ہنسا کر تم مطمئن ہو کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں نیند کی گولیاں کھا کر سو جاؤں، سو کر اٹھوں تو یہ سب خواب ہو، شادی جیسا بندھن جس میں ایک دو جھے کے قریب رہنا ہوتا ہے۔ دل مل کے کھانا پینا ہوتا ہے وہ ایسے بندے کے ساتھ؟؟؟ میں نے اسے ملازم نہیں رکھنا آپی خاوند بنانا ہے..... مجھے دیکھی گھی، انڈے، دودھ آم کھجور پر بک جانا چاہیے؟“

ہم جب آئینہ دیکھتی ہیں تو ہم سب لڑکیاں سوچتی ہیں وہ کون خوبان ہوگا جس کا ہم نصیب بنیں گی۔ میں بی ایس سی میں پڑھ رہی ہوں مجھے Manners کا پتا ہے میں ایک سوچ رکھتی ہوں غریب سہی مگر تعلیمی ماحول ہوتا..... غربت تو یہاں بھی ہے مگر کیا ہم اسی طرح گندے، میلے اور میلے پن پر اتر کر جینے والے ہیں؟ مجھے میرے ارمانوں سمیت زندہ گاڑ دو..... میں اللہ سے کہتی ہوں ارے ہمارے خالق ہم جیسی بیٹیوں سے بھی روز محشر پوچھ..... پوچھ اے زندہ دفن کی گئی تجھے کس گناہ کی پاداش میں گاڑا گیا.....!!“

میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آپی نے مجھے گلے سے لگا لیا ہم دونوں بلکہ دوسری دونوں تادیر روتی رہیں، آنسو بہا چکنے کے بعد رانیہ بولی۔  
 ”میں امی سے بات کروں گی۔“



نہیں ملتی۔ صبر کیا جاتا ہے۔

دولت ہے تو صورت مجرم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں دنیا کے ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے میں اس طرح چھان بین غور فکر کرتی رہی اس طرح بچوں کی باتیں سنتی رہی تو ساری کنواری بیٹھی رہیں گی۔ میں اس دنیا سے گزر جاؤں گی۔ میں درد شقیقہ کی مریضہ ہوں میں جوڑوں کی مریضہ ہوں۔ تمہارا باپ شوگر کا مریض ہے وہ چند سالوں تک ریٹائر ہو جائے گا پھر یہ گھر کیسے چلے گا کسی نے سوچا ہے؟ ہم اپنے بارہلکے کرنا چاہتے ہیں ہم پر رحم کرو۔ اف خدایا میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔“

امی کا رنگ لال ہو رہا تھا اور وہ سر پکڑ کر چار پائی پر بیٹھیں تو آپی لپک کر ان کا سر دبانے لگی اور رانیہ پانی لینے چلی گئی۔ میں سر جھکائے کمرے میں آ گئی۔

بس ہو چکا مقابلہ..... چند دن بعد میرا نکاح کر دیا گیا۔ ہاں یہ علمائے حق کا مسئلہ ہے کہ وہ سوچیں یہ نکاح جائز تھا یا باطل.....؟

نکاح کے بعد مجھے کچھ مہلت مل گئی۔ اس لیے کہ میرے خاوند کی بڑی دو بہنوں کی شادی پہلے سے ہوئی تھی۔ میں نے بی ایس سی چھوڑ کر نرسنگ اسکول میں داخلہ لے لیا۔ میرا جی چاہتا تھا میں زخموں کو مرہم رکھنے والی بن جاؤں۔ سفید یونیفارم کی دنیا میں آ کر میری روح کو سکون ملا۔ آزادی کا احساس ہوا۔ مجھے پرویشنل ہونا اچھا لگتا تھا۔

میں ہمیشہ سے پر اعتماد اور ذہین طالبہ رہی تھی۔ مجھے عورت کا بااعتماد زندگی بسر کرنا خود کو مکمل انسان سمجھنا جیون ساتھی کو دوست سمجھ کر جینا اچھا لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نرس لڑکیاں ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی آرزو مند رہتی ہیں۔ میں تو نکاح

آپی تو بالکل ہی لاجواب ہو گئی۔

”آج باپ بوڑھا بھی ہو گیا..... ان کے بے بسی کی رنگ آمیزی کے لیے۔“ رانیہ طنزاً بولی۔

”تم اتنی اتنی ہو کہ ماں سے بحث کرنے آ بیٹھی ہو کل کو جانے کیا کل پرزے نکالو گی۔“

”ثانیہ باجی کو پسند نہیں ہے وہ۔“ ہانیہ نے کہا۔

”شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے انجان لڑکے نیک لڑکیوں کو پسند نہیں آگئے ہوتے تو نکاح کا رشتہ جڑتا ہے تو دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔“

میں یہ سب سن رہی تھی میری نہیں لاجواب اور چیپ سی ہو گئی تھیں۔ میرے سامنے ٹی وی پر کوئی ڈرامے کا منظر چل رہا تھا۔ اجلی سڑکیں..... پیاری لڑکی اور اس کے چاہنے والا کتنا پیارا، سنورا ہوا..... بس ایک دم دل میں گرم سلاخ اتر گئی۔ میں بھاگتی ہوئی صحن میں گئی جہاں امی کی دربار میں تین خاموش مجرم ٹھہری تھیں میں نے روتے ہوئے کہا۔

”امی..... مجھے اللہ بخش پسند نہیں ہے..... امی مجھے جہنم میں نہ دھکیلو..... امی میں تمہارے سامنے بول سکتی ہوں..... ابا مجھے جہنم میں پھینک دے گا میں نہ بول سکوں گی۔“ میں کیا روئی بہنوں نے رونے کی بازی لے لی۔ امی چار پائی سے اتر کر ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔

”اللہ کے واسطے ہم پر رحم کرو۔ ہم بہت غریب بے کس ماں باپ ہیں ہمیں چھ بیٹیوں کے فرائض ادا کرنے ہیں میں تمہاری دین نہیں ہوں ثانیہ..... جب میں بیاہ کر آئی تھی مجھے بھی تمہارے ابا کی صورت سے گھبراہٹ ہوتی تھی یہ سوچیں لڑکیوں کو زیب نہیں دیتیں۔ شرفاء کی بیٹیاں ایسے نہیں کرتیں زندگی میں ہر چیز من چاہی



اسے لگتا میں بہانے بنا رہی ہوں..... اسے لگتا میں ناراض ہوں تو منہ اٹھائے مجھے منانے آجاتا۔ اس سے ملنے کا تصور بھی ناگوار تھا۔ جس بندے کو یہ تمیز نہیں تھی کہ ملنے آ رہا ہے تو سلیقے کے کپڑے پہن لے منہ دھو دانت صاف کر لے، کبھی مونچھیں لے اندازہ بڑھی ہوئی کبھی نمبیس کے کھلے بٹن سے جھانکتا میلا کچھلا بنیان، نمبیس ستھری تو چہرہ بے دھلا، اور ہاتھ پکڑ کر کہتا۔ ”چھڈ بڑھائی نکاح ہوا ہے ہمارا۔“ کبھی گال چھوتا کبھی ہتھیلی میں نوٹ تھما کر کہتا میری طرف سے سرخی لے لینا۔“

ڈاکٹر نیمل نے ایک شام راہداری میں مجھے

پکارا..... وہ شام سہانی ہو گئی۔

”ٹائیپ سنو۔“

ایسا ریٹیم لہجہ دل جھوم سا گیا..... مگر دوسرے ہی پل پر فینشل ہو کر بولی۔

”جی..... ڈاکٹر صاحب۔“

”مجھے کچھ کہنا ہے..... وہ میرے سامنے آ کر

رک گئے۔ اسے زبان سے کہنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بولتی تھی۔

میں تو ان چمکتی جھیلوں میں ڈوب گئی۔ ڈوب جانے والی تھی کہ میرے ہاتھوں میں تھمے موبائل کی

تھر تھراہٹ سے مجھے چونکا دیا۔

موبائل پر اس راکش کی چاپ تھی جس کے ہونے سے شہزادہ بونا ہو کر غائب ہو گیا۔ میں نے

موبائل پر نظر ڈال کر بولی تو سانسوں میں باد موسم خارج ہوئی۔

”میرے شوہر کی کی کال آ رہی ہے.....؟“

”واٹ؟ شوہر.....؟“

”-senses“

”جی..... منکوحہ ہوں.....“ دو لفظ تھے کالے

ناگ تھے جو چاہت کو ڈس گئے شام اندھیر ہو گئی۔

شدہ تھی اور ویسے بھی اپنے ماحول کی وجہ سے احساس کمتری محسوس کرتی تھی مگر اسے کہتے ہیں بد نصیبی کہ مجھے ایک ہاؤس جابر ڈاکٹر پسند کرنے لگا۔ اسے کہتے ہیں قسمت کا مذاق، اسے کہتے ہیں..... آزمائش.....“

ڈاکٹر نیمل ڈینٹل شخصیت کا مالک تھا۔ وہ خوشحال اعلیٰ تعلیم یافتہ پس منظر رکھتا تھا۔ اس کی ماں پروفیسر تھیں۔ گویا آنکھیں بند کروں تو قدرت نے مجھے میری جنت میں پہنچا دے۔

آنکھیں ہی تو بند نہ تھیں۔ مجھے اپنی اوقات معلوم تھی۔

نالیوں والی کچی گلی، بوری والا دروازہ، غیر ہموار صحن، نکلا چلا کر کپڑے کوٹتی بہنیں، چنوں کی ایک تھالی پر نو لوگوں کا ناشتہ، بڑی کی اترن ترتیب وار چھوٹیوں کا لباس، غریب سخت گیر باپ مجھ پر تو اے بی سی کا احسان تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب کا احسان کہاں اٹھا سکتی تھی۔

میں بے نکاحی بھی ہوتی تو خواب کے پر جلتے..... مگر نہیں..... میں شاید غلط کہہ رہی ہوں خواب کے پروں کو کوئی آگ نہیں جلا سکتی۔

ڈاکٹر نیمل کا متبسم لہجہ، پر شوق نگاہیں اور خصوصی توجہ آپ ایک اظہار تھا۔ مگر میں دانت نظر انداز کرتی رہتی، یوں ظاہر کرتی کہ یہ ان کا اخلاق ہے مجھے ہر لمحہ ازبر تھا کہ وہ میرا نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔

مگر کوئی میرے اندر کی آواز سے پوچھے ایک طرف مہذب باشعور آئیڈیل ڈاکٹر نیمل تھا، روشن خوبصورت دل نشین زندگی تھی دوسری طرف جاہل ڈنگر جیسا میرا خاوند تھا جسے مسج لکھنا نہ آتا تھا وہ وقت بے وقت فون کرتا رہتا۔ اسے سمجھ نہ آتی کہ کلاس میں ہونا یا مصروف ہونا کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا تمہارے خاوند کا فون ہے تم کہہ دو۔



ہمیشہ کے لیے مر جاؤ۔ نہ کوئی ثانی نہ کوئی رانی نہ کوئی کالج تھا نہ کوئی ڈاکٹر نبیل تھا۔ شور شرابہ نہ ڈالو..... خدا کے واسطے مر جاؤ..... مردے رویا نہیں کرتے تم اپنے بدن سے نکل چکی ہو۔ اس میں کتنا سکون ہے۔ یہ بدن تمہارا نہیں ہے۔ تم تو تم ہو..... الگ سے اپنی آپ..... اب اس بدن کو مردہ خورنوجے کھسوٹے..... اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تم تو بیچ گئی ہو اس لیے ماری گئی ہو..... زندہ گاڑ دی گئی ہو۔ تمہارے باپ نے تم پر کدالیں بھر بھر کر مٹی دال دی..... خبردار باپ کو تنگ نہ کرو۔ آواز نہ دو..... آواز اونچی نہ کرو..... اطاعت کرو..... ہاں یوں ہی..... بس مر گئی ثانیہ آئینہ میں کھڑی دلہن کے گالوں پر آنسوؤں کی لہریں تھیں۔

جنازہ تو بہت دھوم سے نکلا تھا۔ بینڈ باجے پٹانے تھے۔ اب مجھے ہرگز غرض نہ تھی۔ دولہا آ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے۔ برا تو نہیں لگ رہا۔ عورتیں کہتی دلہن کا چہرہ سپاٹ ہے۔ سپاٹ بے حس بے تاثر تا بعد از دلہن رخصت ہو گئی۔

ایسی تابعداری جیسے کپڑے کی گڈی..... تابعداری جو اس کی خوشی بنی۔ پھر چیخ بنی پھر بے زاری بنی..... میرے پاس تو کھونے کے لیے اب کچھ نہ تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا میرا حسن نہ رہے۔ جسم پھیل جائے بھدا موٹا ہو جائے۔ داغ دھبے چھائیاں پڑ جائیں۔ بخدا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مرنے والی کو ماں باپ بہنیں دعائیں دیتی ہیں۔

بس ایک تمنا ہے۔

مجھ سے بھی رحمت سوال کرے..... اے زندہ گاڑھ دی گئی۔ تجھے کس پاداش میں مار ڈالا گیا۔ میرا رب تسلیم کرے کہ ہاں مجھے زندہ دفن کیا گیا۔ میں اس کی تسلیم پہ راضی۔

☆☆.....☆☆

بس کھو دیا میں نے اسے..... دوسرے مہینے ہی خبر سن لی۔ ڈاکٹر نبیل نے ڈاکٹر ماریہ سے شادی کر لی..... اس دن میرے اندر ماتم کی بازگشت گونجتی رہی تھی۔ سارا ہسپتال سائیں سائیں کرتا لگتا، اندر ٹوٹ گیا تھا میرا، میری کہانی احساسات کی کہانی ہے نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں۔

دنیا والے کہتے ہیں مجھے سمجھو کر لینا چاہیے سمجھو تے کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں نے سمجھو تے ہی کیا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اپنا محبوب، اپنے خواب، خود اپنا آپ چھوڑ دیا۔ ابا ٹریننگ دلوانے پر تو اس لیے راضی ہوئے تھے کہ اگر بڑی والی کی کہانی میں دہراؤں تو روٹی کا بندوبست ہو۔ انہیں شاید معلوم نہ تھا کہ بڑی والی واپس اس لیے آئی تھی کہ اس نے خود کو زندہ رکھا تھا خود کو بچا لیا تھا۔ میں نے خود کو زندہ ہی نہ رکھا۔

شادی کی ڈھولکی رکھ دی گئی۔ محلہ بھر میں میری خوش نصیبی کی شہ سرخیاں تھیں۔ مبارکیں، حیرتیں، رشک بھری نفگا ہیں کب کسی نے دیکھی اشک بھری نگاہیں؟؟ میرے ابا توفیق سے بڑھ کر استقبال بارات کر رہے تھے۔ میں ابا کی نیاز مند ہونا چاہتی تھی مگر خود کو تلاش کر رہی تھی۔ ہار سنگھار کپڑے لٹے طرح طرح آوازیں ثانیہ ملک کہیں کھو گئی تھی۔

مہندی کی رات تھی پیلے پھولوں کے گجرے باندھے ہرے سوٹ میں مہندی کی دلہن آئینہ کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرہ بند تھا۔ موبائل میں نے تین دن سے آف کر کے الماری میں رکھ دیا تھا۔ مجھے کسی کی آواز کی انتظار نہ تھی۔

میں نے ہاتھ جوڑ کر مہندی کی دلہن سے کہا۔ ” پیاری ثانیہ تم مر جاؤ۔ پلیز تم مر جاؤ۔ دلہن کو چھوڑو..... یہ جیتی رہے۔ تم چپکے سے چپ چاپ



## افسانہ شمینہ فیاض

### شیشے کا محل

لڑکی کی عزت اس شیشے کے محل کی طرح ہوتی ہے جس پر معاشرے کی سوچ سے اٹھنے والی گرد بھی آڑ کر پڑ جائے تو وہ شیشے کا محل اپنی آب و تاب، اپنی شفافیت کھودیتا ہے۔ بھلے اس میں کوئی بال برابر بھی فرق نہ ہو۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے لیکن بیٹا یہ.....

تھیں۔  
”اب گزراوقات کے لیے کسی نہ کسی کو تو نوکری کرنی ہی پڑے گی ریحان تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اس کی تعلیم ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ میں کل سے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دیتی ہوں۔“ ایمن نے ماں سے اپنی بات کی تائید چاہی۔  
تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا لیکن خاندان والے کیا کہیں گے ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے نوکری نہیں کی اور ویسے بھی تم نے کون سی بڑی تعلیم حاصل کی ہے کہ کوئی نوکری تمہیں مل جائے گی۔“ امی جی کسی حد تک کشمکش کا شکار تھیں۔

☆.....☆.....☆

”امی جی ان دو مہینوں میں کتنے خاندان والے ہمارا حال پوچھنے آگئے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی آئے اور اعتراض کرے تو بہت محبت سے اسے کہہ دیجئے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو اعتراض ہے تو ایمن نوکری نہیں کرے گی۔ مگر ہمارے گھر کا خرچہ اب آپ کی ذمہ داری

عصر کی نماز کے بعد امی چائے پیتے ہوئے آنگن میں لگے آم کے درخت کے نیچے بچھے تخت پر آکر بیٹھ گئی تھیں۔ ”آج پھر امی جی بجلی کے بل کو لے کر پریشان تھیں کہ اب یہ بل کیسے ادا ہوگا اور ابھی تو ریحان کی اسکول کی فیس بھی باقی ہے۔“  
”امی جی آپ پریشان نہ ہوں۔“ ایمن ماں کو تسلی دے رہی تھی۔

”تمہارے ابو کے انتقال کے بعد پچھلے دو مہینے میں جو کچھ پیسہ رکھا ہوا تھا گھر کے راشن اور ضروریات میں ختم ہو چکا ہے اور آگے زندگی گزارنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں سوچتی ہوں محلے کے کچھ کپڑے سلائی کا کام کر لوں تو کیسا رہے گا۔ امی نے دکھی ہوتے ہوئے کہا ”کپڑے سی کر کتنی آمدنی ہو جائے گی امی گھر نہیں چل سکتا اور کون سا فورالوگ سلوانے لگیں گے آپ سے؟ امی جی میں سوچ رہی ہوں۔“ ایمن نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی

ہم کیا۔ امی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی



میں تمہیں حالات سے مجبور ہو کر اجازت تو دے رہی ہوں لیکن بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔

”جی امی!“

لڑکی کی عزت اس شیشے کے محل کی طرح ہوتی ہے جس پر معاشرے کی سوچ سے اٹھنے والی گرد بھی آڑ کر پڑ جائے تو وہ شیشے کا محل اپنی آب و تاب، اپنی شفافیت کھو دیتا ہے۔ بھلے اس میں کوئی بال برابر بھی فرق نہ ہو۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے لیکن بیٹا یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بد اچھا بد نام برا والی مثال رائج ہے۔ اس لیے ایسے تمام معاملات میں محتاط رہنا کہ ہمارے پاس ہماری عزت ہی نا یاب دولت ہے۔ بیٹا یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں بات کا بنگلڑ بننے دیر نہیں لگتی۔ اب تم ہماری عزت کو سنبھال کر رکھنا۔

ہے کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے کہ اب ان کے ابو کے بعد کوئی کمانے والا نہیں ہے تو مجبوری ہے پھر دیکھئے گا کہ کون پلٹ کر آتا ہے۔ ایمن نے یوں چٹکی بجاتے ہوئے کہا جیسے ساری پریشانی کا حل تلاش کر لیا ہو۔

”لیکن بیٹا مجھے یوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگے گا۔“ آج تک کبھی کسی سے نہیں مانگا اور اللہ نہ کرے جو کبھی ایسی نوبت آئے۔“ امی جی تو اور زیادہ پریشان ہو گئی تھیں۔

”ارے میری بھولی امی جی۔“ ایمن نے ماں کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے نوکری کرنے دیں۔ رہی بات کسی کے دینے کی تو آپ کی بات سن کر کوئی پلٹ کر واپس نہیں آنے والا یہ تو صرف اسی لیے ہے کہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔



**Downloaded From**  
**Paksociety.com**



ویسے ہی لوگ تمہاری نوکری کے مخالف ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے۔“

☆.....☆.....☆

امی جی نے دل بڑا کر کے اسے اجازت تو دے دی تھی ان کہ پاس اس کے علاوہ اور کوئی چاہ رہا بھی تو نہ تھا پر دل میں اٹھنے والے ہزاروں وہم اور ڈر دور کرنے کے لیے بیٹی کو سمجھا رہی تھیں۔

امی آپ بالکل فکر نہ کریں میں اپنی عزت پر آنچ بھی نہ آنے دوں گی یہ میرا وعدہ ہے۔ ایمن نے ماں کو یقین دلاتے ہوئے کہا تو جیسے ماں کے دل کو قرار آ گیا مسکرا کر اس کے اچھے نصیبوں اور کامیابی و بلند وقار کی دعائیں دینے لگیں۔

ایمن نے گریجویشن کی تھی اور ساتھ ساتھ ابو جی کے کہنے پر کچھ کمپیوٹر کے کورسز بھی کر لیے تھے کیونکہ امی جی گھرداری سنبھالتیں تھیں اور چھوٹا بھائی ریحان ابھی صرف میٹرک میں تھا ہاں ایمن با جی کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس نے کچھ بچوں کو ٹیوشن بڑھانا شروع کر دیا تھا ابو جی کی پنشن میں گزارا کرنا بہت مشکل تھا اسی لیے امی نے بھی تھوڑی بہت سلائی شروع کر دی تھی جو گھر بیٹھے مل جاتی تھی ابواک سرکاری دفتر میں ملازم تھے اور ان کے بعد پنشن بھی اور کم ہو گئی تھی سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے اپنے بھائی کی تعلیم کا تھا جو وہ ہر گز چھڑوانا نہیں چاہتی تھی۔

خاندان کے کئی لوگوں سے اس نے نوکری دلوانے کے لیے کہا تو پہلے تو چچا میاں نے بہت باتیں بنائیں کہ اب ہمارے خاندان کی عزت یوں غیر مردوں کے بیچ کام کرے گی یوں رسوا کرو گی نہیں لیکن ایمن کے کہے گئے جملے جب امی جی کے ذریعے ان کے کانوں تک پہنچے تو ان کی زبان بھی بند ہو گئی جب کہ باقی خاندان نے اگر

مدد نہیں کی تو کوئی اعتراض بھی نہیں کیا بس ہر اک نے اسے اسکول میں جا ب کرنے کا مشورہ دیا لوگوں کے خیال میں نوکری پیشہ خواتین کو پسند نہیں کیا جاتا اسے بھی نوکری کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن گھر کے حالات سے مجبور ہو کر وہ کسی دفتر میں نوکری کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسکول کے مقابلے میں دفتروں میں تنخواہ زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں نے نوکری تو نہ دلوائی اسے ڈر زیادہ دیا کہ تم کر نہیں سکتیں مگر اس نے بھی ہمت نہیں ہاری اور کوششوں میں لگی رہی۔

کئی دن تک اخبارات کے اشتہارات دیکھنے اور مختلف دفاتر کے چکر لگانے کے بعد اسے ایک آفس میں کمپیوٹر آپریٹر کی نوکری مل گئی تھی۔ آفس جا ب کا اس کا یہ پہلا تجربہ تھا ورنہ ساری زندگی ابو جی نے گھر کا ماحول ایسے رکھا تھا کہ کبھی کسی اجنبی مرد سے فری ہو کر بات نہیں کرتی تھی اس لیے اسے شروع میں بہت جھجک کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لڑکیوں کے ساتھ پیش آتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے عورت کو ایک ایسا حساس ذہن دیا ہے کہ مرد کی نگاہ کو جانچنا کوئی مشکل کام نہیں وہ با آسانی اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ کس نگاہ میں پاکیزگی ہے اور کون سی نگاہ غلط ہے شروع میں کئی

کو لیگز جن میں راحیل اور کاشف سرفہرست تھے اس سے بلاوجہ فری ہونے کی بہت کوشش کی۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟۔ اک دن راحیل آفس کی فائل دینے آیا تو اس سے پوچھ رہا تھا۔ جسے بہت سنجیدگی سے جس کا جواب دیا جی! اک والدہ اور بھائی چھوٹا ہے۔

میں آپ کو ڈراپ کر دوں آئیے۔ کاشف نے بہت مسکراتے ہوئے آفر کی تھی جسے اس نے



مس ایمن ان سے ملیں یہ ہماری نئی اسٹاف میمبر ہیں مس ایشاء۔ یہ یہاں ری اسپشنسٹ کے طور پر اپوائنٹ ہوئی ہیں۔۔۔ راحیل بہت ہی لہکتے ہوئے انداز میں ایمن کا ایشاء سے تعارف کروا رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ایمن سے ایشاء کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔

ایشاء اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ایمن نے اک دن ایشاء سے پوچھا تو اس نے کہا۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں میری منگنی ہو چکی ہے اور اپنی شادی اور جہیز کے انتظام کے لیے یہ نوکری کرنی پڑ رہی ہے گھریلو حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں میرے والد صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں اور پانچ بہن بھائیوں کے ساتھ کم آمدنی میں گزارہ کرنا کافی مشکل تھا۔

اس جا ب کے لیے پبلک ڈیلنگ ضروری تھی وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ ہر اک سے بات کر لیتی تھی اس کی اک عادت تھی وہ بہت خوش اخلاق تھی کردار کی مضبوطی تھی مگر اس کی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جایا کرتے تھے اسے کوئی چائے کی آفر کرتا تو کوئی لٹچ کی جسے وہ کبھی مروتا قبول کر لیتی تو کبھی پیسے بچ جانے کے لالچ میں کسی کو لیگ کے ساتھ کھانا میں شریک ہو جاتی۔ ایشاء کے اس رویہ کو ایمن بڑی حیرت سے دیکھا کرتی کبھی کبھی اس پر ایمن کو بہت غصہ آتا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو چند پیسے بچانے کی لالچ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگائے بیٹھی ہے اور ہر اک سے کھلکھلاتی پھرتی ہے۔ لوگ ایشاء کے اس رویہ سے بہت محضوظ ہوتے اور اس کے منہ پر اس کی خوش اخلاقی کی بہت تعریفیں کرتے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے کردار کے بارے میں بہت کچھ کہہ جاتے ایمن کسی کے

بہت سنجیدگی سے ٹال دیا نہیں شکر یہ میں بس میں جانے کی عادی ہوں چلی جاؤں گی۔ اس کے اصرار پر بھی وہ اس کے ساتھ نہیں گئی تھی۔

ہمارے ساتھ لٹچ کیجیے! ارے آج چائے تو ہمارے ساتھ پی لیں۔ اکثر وہ دونوں اسے لٹچ اور چائے کی آفر کر دیتے جسے وہ کام کا بہانہ کر کے ٹال دیتی۔

آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ رنگ آپ پر بہت کھلتا ہے، اس کپڑے کا تو ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے۔ کہاں سے شاپنگ کرتی ہیں۔ راحیل کے اتنے لمبے اور بلا وجہ کی تعریف کے جواب میں اس نے خشک لہجے میں کہا۔ ”بہت شکر یہ یہ میری امی کی پسند کا سوٹ ہے اور پھر اپنے کام میں محو ہو گئی۔“

وہ اسی طرح اپنے سب کو لیگز سے لیے دیے رو یہ رکھتی صرف کام کی ہی بات کرتی ویسے تو وہ خود بھی اپنی نیچر کی وجہ سے زیادہ مردوں سے فری ہونے کی قائل نہ تھی مگر ماں کے کہے گئے الفاظ جو نوکری کرنے سے پہلے اس کے کانوں میں ڈال دیے گئے تھے ان کی وجہ سے وہ مزید محتاط ہو گئی تھی وہ اپنا کام بہت محنت سے وقت پر مکمل کر دیا کرتی تھی کچھ لوگ اس کی اس عادت سے خوش تھے تو کچھ اسے مغرور سمجھ کر طنز یہ جملے بھی کس دیتے تھے مگر شاید یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عورت کو ایمانداری سے کام کر کے باعزت روزگار کمانا چاہتی ہے تو وہ اپنے جال میں نہ پھنسنے پر اپنا غبار ایسے ہی نکالتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود وہ خاموشی سے کام کرتی رہی اس کے لیے اپنے گھر کو معاشی بد حالی سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنی حرمت کو ہر طرح کے کیچڑ سے پاک رکھنا بھی بہت اہم تھا۔



ایشاء تو الٹا اس سے ہی الجھ پڑی تم اس شخص کا نام بتاؤ جس نے میرے بارے میں ایسی فضول باتیں کی ہیں میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔

میں نام نہیں بتا سکتی میں نہیں چاہتی کہ یہاں کوئی تماشہ ہو بس تمہیں اپنی دوست سمجھ کر صلح دے رہی ہوں آگے تمہاری مرضی۔ لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ تم اپنی اس بے باک طبیعت کی وجہ سے اک دن ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان اٹھا بیٹھو اسی لیے سمجھا رہی ہوں میں تمہاری دوست ہوں اور تمہارا برا نہیں چاہتی اپنے کام سے کام رکھا کرو میں ہوں یہاں تم مجھ سے باتیں کیا کرو۔ ایمن نے جیسے اس کے آگے ہتھیار ڈال دے تھے۔

ایشاء منہ بناتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی پیر پختی ہوئی اور اپنی جگہ پر چلی گئی۔

☆.....☆.....☆

راحیل تم سے اک بات کرنی تھی۔ اگلے دن ایشاء نے یہ ساری باتیں راحیل سے کہنے کا سوچا۔ ہاں کہو۔ راحیل نے پوری توجہ ایشاء کی جانب کر دی۔

مجھے ایمن نے بتایا ہے کہ کوئی یہاں آفس میں میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے میرے کردار کے بارے میں۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے بھی ایسا کچھ سنا ہے۔

راحیل نے چونکہ یہ باتیں ایشاء کے بارے میں کہیں تھیں تو اسے ڈر ہوا کہ کہیں اس کا نام نہ آجائے۔ تمہیں اس نے نام نہیں بتایا اس کا جس نے تمہارے بارے میں ایسی بات کی ہے۔

نہیں نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے کہ کوئی تماشہ نہیں بنانا چاہتی۔

ارے جھوٹ بولتی ہے وہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا کوئی تمہیں کیوں بدنام کرے گا اور ویسے بھی

معالے میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں کرتی تھی اسی لیے خاموش رہی مگر جب چند باتیں ایمن کے کانوں تک بھی پہنچیں جنہیں سن کر اسے کافی دکھ ہوا۔ ایمن کے خیال میں ایسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دفتروں میں کام کرنے والی ہر لڑکی بدنام ہو جاتی ہے لوگ ہر لڑکی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

دیکھو ایشاء تم زرا کم ہی ان لوگوں کو فری ہونے کا موقع دیا کرو جب تک تم نہیں چاہو گی کوئی تم سے بلا وجہ فری نہیں ہو سکتا۔ ایمن نے ایشاء کو سمجھانے کی کوشش کی۔

پار! میرا مزاج ہی ایسا ہے۔ میں کسی کو بھی نا راض نہیں کر سکتی۔ ایشاء بہت لا پرواہی سے کہہ رہی تھی۔

تم میری بات سمجھ نہیں رہی ہو۔ تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ ایمن نے پھر کہا کیوں ایسا کیا کر دیا میں نے جو محتاط رہنا چاہیے۔ ایشاء چڑ گئی تھی۔

تم نے کچھ نہیں کیا ہے بس اس معاشرے میں لڑکیوں کا لڑکوں سے یوں فری ہو کر باتیں کرنا سب نہیں سمجھا جاتا اس لیے کہہ رہی ہوں۔ ایمن نے اسے بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا ہند۔ اک تم ہی تو سمجھا رہے ہو ہم تو شکار پور سے آئے ہیں ہمیں تو دنیا کا کچھ پتا ہی نہیں۔ ایشاء تو جیسے ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔

تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ایمن شرمندگی محسوس کرنے لگی کہ اس نے ایسے کیوں کہا۔ اصل میں کچھ لوگ تمہارے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں تمہارے۔

کردار پر کچھ اچھا لگتا ہے ہیں میں اس لیے تم سے محتاط رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ایمن نے ایک بار پھر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔



لیگ کے ساتھ لہجہ کرتی اور راحیل کو ملا کر اس کا مذاق اڑاتی اس پر طنز کرتی ہوئی جاتی۔ لوگ تو اپنے غرور سے باہر ہی نہیں نکلتے جانے کس بات کا غرور ہے۔ وہ سنتی اور ان سنی کر دیتی۔ اس آفس میں موجود سب ہی لوگ ایمن کی بہت عزت کرتے اور بہت احترام سے بات کرتے تھے۔

کئی دن اور گزرے تو معلوم ہوا کہ ایشاء اچانک نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے ایمن کو بہت تعجب ہوا کہ اچانک یہ کیسے ہو گیا وہ ایشاء کے گھر گئی تو معلوم ہوا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے شدید بخار سے نیم غنودگی کا شکار تھی ایمن اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن ایشاء اس حالت میں نہ تھی کہ کوئی بات کر پاتی۔

آفس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی بس ایشاء کی جگہ اک نئی لڑکی آگئی تھی اور جو لوگ کبھی ایشاء کے گرد گھوما کرتے تھے آج اس لڑکی کے ارد گرد گھومتے نظر آتے تھے ایمن سوچتی ایشاء جیسی لڑکیاں جسے عزت کا نام دیتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ لہجہ کرتے ہیں ان سے خوش ہو کر قہقہے لگاتے ہیں درحقیقت اپنی عزت کا بھرم اور اپنی حیا کی چادر کو داغ دار کر کہ خود کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں یہ سراسر گھائے کا سودا ہے ایک ہفتہ کے بعد جب ایمن اک بار پھر ایشاء کے گھر گئی تو ایشاء کیسی ہو؟ ایمن نے اس کی خیریت دریافت کی۔

بس ٹھیک ہوں مگر تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے نوکری کیوں چھوڑی ہاں ہاں بتاؤ! ایمن نے بھی اسرار کیا۔

ایمن اصل میں راحیل نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا اسی لیے میں کئی بار اس کے ساتھ آفس کے باہر لہجہ کرنے بھی گئی اور اسے میرے کسی

میرے ہوتے ہوئے کسی کی کیا جرات کے تمہارے بارے میں کچھ کہے میں منہ نہ توڑ دوں گا اسکا۔

راحیل نے بہت چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنا بچاؤ کیا ساتھ اپنا اعتماد بھی قائم کر دیا۔

بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ایمن تم سے جلتی ہو کیونکہ اس آفس میں سب ہی تمہارے اخلاق کی وجہ سے تمہیں پسند کرتے ہیں کیونکہ تم اتنی خوش اخلاقی سے ہم سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی سب کا خیال رکھتی ہو سب سے اچھی طرح باتیں کرتی ہو ہر کوئی تمہاری عزت کرتا ہے اسے کون پوچھتا ہے شاید اسی جلن میں وہ چاہتی ہو کہ تم بھی اس جیسی نک چڑھی بن جاؤ کوئی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ اک بہت شاطر قسم کا لڑکا تھا ایشاء کو ایمن سے بدظن کر کے وہ اب خوش تھا کہ اب ایشاء ایمن کی کوئی بات سنے گی ہی نہیں۔

ایشاء مطمئن ہو گئی اور اپنے روٹین کو جاری رکھا جب دوبارہ ایمن نے اسے ٹوکنے کی کوشش کی تو ایشاء نے ایمن کو بہت باتیں سنائیں۔ تم مجھ سے جلتی ہو ہر کوئی مجھ سے بات کرنا پسند کرتا ہے لوگ اتنی خوش دلی سے مجھ سے ملتے ہیں تمہیں اب تک کتنے لوگوں نے لہجہ کی آفر کر دی تم سے تو لوگ ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم بہت مغرور ہو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتیں جانے کس بات کا گھمنڈ ہے تم کو اور تم دیکھنا اک دن میں اپنی اسی خوش اخلاقی کہ وجہ سے تم سے کہیں آگے نکل جاؤ گی۔ وہ ایشاء کی ساری باتیں سن کر خاموش ہو گئی اسے بہت دکھ ہوا لیکن آفس کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے اس کی باتیں انور کر کے اکیپنا کام میں بڑی ہو گئی۔

وقت ایسے ہی گزرتا گیا ایشاء روز کسی نہ کسی کو



بار پھر اپنے دل کا بوجھ اتار رہی تھی  
جب کہ ایمن کے پاس سوائے تسلی دینے کے  
اور کوئی الفاظ نہ تھے وہ اسے یوں ہی روتا چھوڑ کر  
تسلی دیتے ہوئے بوجھل قدموں سے گھر واپس  
آگئی راستے بھر اس کے کانوں میں ماں کے الفاظ  
گونج رہے تھے۔

☆.....☆.....☆

لڑکی کی عزت اس شیشے کے محل کی طرح ہوتی  
ہے جس پر معاشرے کی سوچ سے اٹھنے والی گرد  
بھی آڑ کر پڑ جائے تو وہ شیشے کا محل اپنی آب و  
تاب اپنی شفافیت کھودیتا ہے بھلے اس میں کوئی  
بال برابر بھی فرق نہ ہو یہ وہ مردوں کا معاشرہ ہے  
جہاں بد اچھا بد نام برا والی مثال رائج ہے جہاں  
بات کا بتکلڑ بنتے دیر نہیں لگتی اس لیے ایسے تمام  
معاملات میں محتاط رہنا کہ ہمارے پاس ہماری  
عزت ہی نایاب دولت ہے وہ سوچے جا رہی تھی کہ یہ  
ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ لڑکا کتنی ہی لڑکیوں سے  
دوستی کرتا رہے وہ پارسا ہی رہتا ہے جب کہ اگر کوئی  
لڑکی کسی سے ہنس کر بات بھی کر لے تو بد کرداری کی  
تہمت اس کے ماتھے پر سجادی جاتی ہے۔

یقیناً اسلام میں اسی لیے یہ حکم آیا ہوگا کہ بلا  
ضرورت کسی نامحرم مرد سے بات نہ کرو جب کہ  
بہت ضروری ہو تو اپنے لہجے کو اتنا سخت رکھو کہ کوئی  
غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ یہ بھی نہیں کہ اسلام کوئی ایسا  
مذہب ہے جس میں عورت کو کام کرنے کی اجازت  
نہ ہو ایسا ہوتا تو بہت سی صحابیات اور نبی  
پاک ﷺ کی زوجہ محترمہ تجارت کا پیشہ نہ اپناتیں۔  
اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے جو عورت کو نوکری  
کرنے سے منع نہیں کرتا لیکن اپنے حدود میں  
رہنے کی تلقین ضرور کرتا ہے۔

☆☆.....☆☆

رشتے دار نے ہمیں ایسے گھومتے ہوئے دیکھ لیا اور  
خاندان میں بات پھیلا دی جبکہ خاندان والے  
میری نوکری کے پہلے ہی مخالف تھے میری منگنی  
چونکہ خاندان میں ہی ہوئی تھی تو ان تک بھی یہ  
بات پہنچ گئی اور ان لوگوں نے مجھے بد کرداری کا  
طعنہ دیتے ہوئے منگنی بھی ختم کر دی جب میں نے  
یہ بات راحیل کو بتائی تو کئی دن تک وہ مجھے اس  
بات پر خوش کرتا رہا کہ جو ہوا اچھا ہوا اب ہمیں  
شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن جب 3  
مہینے اور گزر گئے تو میں نے اسے رشتہ بھیجنے پر زور دینا  
شروع کر دیا جسے وہ بہت خوبی سے ٹالتا رہا اور آخر  
میرے زیادہ زور دینے پر ہمارے درمیان لڑائی ہو  
گئی۔ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔

ایمن نے اسے پانی پلایا اور چپ کرانے کی  
کوشش کرنے لگی۔ جس پر اس نے دوبارہ بولنا  
شروع کیا غصے میں راحیل نے انتہائی حقارت سے  
مجھ سے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا میں تم  
جیسی آوارہ لڑکی سے شادی کیوں کروں گا میں  
ایک شریف گھر آنے کا لڑکا ہوں اور کسی شریف لڑ  
کی سے ہی شادی کروں گا۔ تم جب میرے ساتھ  
یوں گھومتی پھرتی ہو تو کس کس کے ساتھ جانے  
کہاں کہاں گئی ہو گی میں تم جیسی لڑکی سے شادی  
نہیں کر سکتا تم جیسی لڑکیاں تو صرف کھیلنے کے لیے  
ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا کہ میں کسی گھریلو لڑکی سے  
شادی کروں گا یا پھر ایمن جیسی کسی لڑکی سے جو کسی  
لڑکے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں ہیں وہ یہ  
سب کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔

تم صحیح کہتیں تھیں مگر میں نے تمہاری اک نہ  
سنی میں تو سارے خاندان کی نظر میں اک بد کردار  
لڑکی بن گئی ہوں میری منگنی بھی ٹوٹ گئی اب کیا  
کروں سمجھ نہیں آرہا۔ ایسا اس کا ہاتھ پکڑ کر اک



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسج کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](http://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety](http://twitter.com/paksociety)



# پگلی ریشماں اور عورت

کبھی کبھی تو اختر کو ایسا لگتا کہ جہاں وہ ریشماں کو چھوڑ کر گیا تھا ریشماں وہیں ایک سنگی مجسمہ کی طرح ایسا وہ اس کا انتظار کر رہی ہے اختر کو گلابی رنگ پسند تھا۔ ریشماں گلاب جیسے بدن پر گلابی رنگ سجائے رکھتی کبھی کبھی اختر شرارت سے اس کو چھیڑتا۔ ریشماں گلابی جوڑے.....

مجھے پریشان کرتی ہے  
میرے دل کو نوچتی ہے

☆.....☆.....☆

”دیکھ تو شیدے چاچی پگلی برسوں بعد نہر کی طرف جا رہی ہے۔ کمالے نے شیدے کو کہنی مارتے ہوئے..... مزے سے چائے پیتے ہوئے شیدے کی توجہ چاچی پگلی کی طرف مبذول کروائی۔

ارے شیدے تو پگلا ہے۔ وہ پگلی ہے۔ نہر کی طرف جائے، جنگل کی طرف جائے روڈ پر ناچے یا کسی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دے مجھے اس سے کیا۔ میرا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے جو اس پگلی کی حرکات کو دیکھتا پھروں۔

کمالے کے ٹھوکا مارنے سے شیدے کی چائے چھلک کر گر گئی تھی اور شیدا، جو چائے کا دیوانہ تھا اس کو کمالے کی حرکت پر غصہ سا آ گیا۔ ویسے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پاگل کسی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دے.....

میں تنہائی پہنتی ہوں خموشی میرا کہنا ہے  
مایوسی آنکھ کا جلا، محرومی اثاثہ ہے  
تمناؤں کی قبریں، دل کے قبرستان کی رونق  
کوئی زائر نہیں آتا کہ وہ کچھ پھول لے آئے  
یہاں منظر بدلنے کو  
میرے اندر ہے..... آہوں سسکیوں کا شور

سابرپا

جسے سننے میں اتنی منہمک ہوں میں  
کہ باہر کی ہر ایک سدا مفضو درہتی ہے  
کوئی روزن نہیں باقی، جو باہر سے کرن امید  
لے کر آئے  
مجھے اب خواب میں بھی محل میارے  
نہیں آتے

مجھے شیریں نہیں لگتا پھل اب صبر کا بھی  
کہ کڑوے سچ کی کڑواہٹ، حقیقت کی جو تلخی  
ہے

میرے اندر رنج بس گئی ہے  
مجھے بے چین رکھتی ہے



نے جلدی سے میزیں صاف کرتے ہوئے لڑکے کو بلایا اس کو اپنی جگہ کھڑا کیا اور پھر تیزی سے نہر کی طرف جاتے راستے پر دوڑنے لگا وہ جانتا تھا کہ چاچی پگلی کیوں نہر کی طرف جا رہی ہے۔

وہ دوڑ رہا تھا اس کو اس بات کی قطعی برواہ نہیں تھی کہ شیدا اور راستے میں ملنے والا ہر شخص اس کو بہت حیرت سے دیکھ رہا ہے۔

وہ چاچی پگلی کو روکنا چاہتا تھا۔

منع کرنا چاہتا تھا

لیکن کس بات سے.....!

☆.....☆.....☆

ریشم تو تو ایسی ریشم جیسی ہے تیرے لیے کوئی چیز بھی لے لوں وہ چیز تیرے لائق ہی نہیں لگتی۔

شیدے کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر کمانے اپنی پر بحس عادت سے مجبور ہو کر چائے بنا کر بنا کر شیشے کے گلاسوں میں ڈالتے مصروف مجیدے سے پوچھا۔

کون! مجیدا اپنے ہی خیالوں میں محو تھا۔ کمالے کے سوال پر چونک کر پوچھنے لگا۔

کچھ نہیں یا آج برسوں بعد چاچی پگلی نہر کی طرف جا رہی تھی میں نے شیدے سے کہا تو وہ کہتا ہے وہ نہر کی طرف جائے یا کسی کے پیٹ میں خنجر گھونپنے ہمیں کیا.....

اس طرح تو نہیں کہنا چاہیے..... چاچی پگلی..... ہے تو گاؤں کی چاچی نا کمالے کیا کیا بول رہا تھا۔ مجیدے کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس

**Downloaded From**  
**Paksociety.com**



ہونٹ..... کچھ کہتے کہتے رک سے گئے۔ اس نے گنہہری پلکیں اٹھا کر اختر کی طرف دیکھا۔  
اختر کی محبت برسائی آنکھوں نے اس کو آنکھیں جھکانے پر مجبور کر دیا اختر اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے مسکرایا۔

تو نے جواب نہیں دیا۔ اختر نے اس کو چھیڑا۔  
ریشماں خاموش رہی۔

ریشم..... کچھ تو بول اختر اس کے کان میں گنگنایا۔ عورت محبت کے لیے پیدا ہوتی ہے اور جب محبوب کی محبت ملتی ہے تو عورت ایک ملکہ بن جاتی ہے..... اور ریشماں بھی اپنے آپ کو ایک ملکہ ہی تصور کر رہی تھی۔ جس کے قدموں میں ایک مرد اپنا دل لیے بیٹھا تھا۔

واقعی عورت محبت کے لیے پیدا ہوتی ہے۔  
محبت ایک کیفیت ہی تو ہے۔ محسوسات کی جھیل پہ دل ایک پھول کی طرح مہکتا ہے ادھر نظر اٹھی ہے ادھر حشر برپا ہو جاتا ہے۔

ادھر سانس سوال کرتی ہے ادھر نگاہ جواب دیتی ہے۔ چہرے کا ہر نقش محبتوں کے امین بن جاتا ہے اور یوں محبت محبوب کو حسین بنا دیتی ہے۔  
تو نے جواب نہیں دیا ریشم..... اختر کی بے تابی ریشماں کو ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔

نہیں ابھی نہیں، ریشماں نے دھڑکتے دل اور لرزاتے وجود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔

کیوں ابھی کیوں نہیں یہ مرد..... یہ مرد کتنے بے تاب ہوتے ہیں۔

”شادی کے بعد۔“ ریشماں کی آواز کپکپائی۔

کتنی عجیب سی بات ہے! عورت جب کسی مرد کی محبوبہ ہوتی ہے تو اس کی بیوی بن جانے کی آرزو اسے تڑپاتی رہتی ہے جب بیوی بن جاتی

چھٹ سے نکلتا قد، کسرتی بدن، گندی رنگت پر چمکتی محبت برسائی گہری براؤن آنکھیں سیاہ موچھوں تلے مسکراتے، شرارتی ہونٹ ریشم نے ایک گہری نظر اپنے اوپر جاں نثار کرتے اپنے محبوب کو دیکھا۔

”اچھا..... پھر ایک ادا سے اس کے منہ سے نکلا۔

لیکن پھر بھی ریشم یہ میں تیرے لیے لایا ہوں، نہر کے کنارے لگے درختوں کے جھنڈ میں کھڑے اختر نے محبت سے ریشم کی سفید دودھیا کلائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

”بس چوڑیاں ریشم نے سوال کیا۔“  
”نہیں نہیں پراندہ بھی ہے اور بالوں کے کلپ بھی۔“

خوبصورت ریشم کے پھولوں سے سجا، سرخ دھاگوں سے بنا پراندہ اختر نے ہتھیلی سے نکال کر ریشماں کی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے کہا۔  
”ہائے ربا..... کتنا سوہنا ہے۔ ریشماں نے لپک کر پراندہ اختر کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔

اور اختر اس ایک لمحہ میں کھوسا گیا۔  
ریشم کبھی تو میرے ہاتھوں سے بھی چوڑیاں پہن، تیرے نرم نرم ہاتھوں کو پکڑنے کو ان کلائیوں میں چوڑیاں سجانے کو رب کی قسم میرا بڑا دل کرتا ہے۔

اختر نے ریشماں کو جلدی جلدی کلائیوں میں چوڑیاں، چڑھاتے دیکھ کر حسرت بھرے لہجے میں کہا۔

ریشم کے چوڑیاں پہنتے ہاتھ ایک لمحے کو جیسے ساکت ہو گئے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر شرم اور محبت کے ملے جلے تاثرات ایک حسین روپ میں نظر آنے لگے۔ اس کے یا قوتی



جس کے کئی معنی ہوتے ہیں کئی لبادوں میں چھپا ہوتا ہے لفظ محبت، دو انسانوں کا آمنے سامنے آجانا ٹکرا جانا اور پھر پھرے ہوئے پانی کی طرح ایک دوسرے میں سما جانے کی تمنا کرنا..... بھی ایک روپ ہے۔

انسان کا دل تمنا محبت سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔

محبت ایک درد ہے ایک غم ہے ایک خلش ہے ایک بے چینی ہے ایک اضطراب ہے ایک چھین ہے ایک گداز احساس ہے ایک روح کو چھو لینے والا احساس ہے۔

محبت کیا ہے!  
درختوں کے جھنڈ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے اس نے کھڑی بالوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھا۔

☆.....☆.....☆

ریشماں اختر کی ریشم..... ریشم کے لچھے جیسی ہی تھی۔ نازک خوبصورت اور معصوم سی۔

ریشماں کے ماں باپ تو تھے ہی نہیں ایک ہی بھائی تھا جس میں اس کی جان تھی اور بھابی..... بھابی اس کی بچپن کی سنگی سہیلی تھی ریشماں کے بھائی اور بھابی اس کو پھولوں کی طرح رکھتے تھے۔ ریشماں اپنے بھائی نعیم کی آنکھوں کی روشنی تھی تو بھابی سیما کے دل کی ٹھنڈک تھی۔

ریشماں اختر کی منگ تھی۔ محبت تھی..... زندگی تھی..... اختر اور ریشماں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے۔

اختر..... اختر تو ریشماں کا دیوانہ تھا وہ شہر میں کام کرتا تھا۔ گاؤں کا پہلا بی اے پاس مہذب لڑکا۔ کسی کمپنی میں کلرک تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا بالوں میں جیل لگاتا اور اس کے کپڑوں سے کلون

ہے تو باقی ساری عمر محبوبہ بننے کی حسرت میں گزار دیتی ہے۔

اچھا..... تو بھیجوں پھر اماں کو تاریخ لینے کے لیے.....

اختر بے ساختہ ہنسا۔

”بھابی سے بھی پوچھوں گی..... ریشماں کو آج اختر کی بے باک نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔

تو بھابی کو ہماری ملاقاتوں کے بارے میں بتا دیتی ہے کیا؟ اختر حیران ہوا۔

تو اور کیا! میری بھابی صرف بھابی نہیں، میری بہن، میری دوست میری غم خوار..... میری ماں سب کچھ ہے اور ہماری منگنی کے لیے اس نے ہی تو بھیا کو راضی کیا تھا۔ ریشماں کے لہجے میں محبتوں پر فخر تھا۔

”اچھا اتنی محبت ہے بھابی سے اختر ہنسا۔“

اچھا یہ بتا زندگی میں اگر ایک طرف بھابی اور دوسری طرف میں ہوا تو کس کو چنے گی۔

اختر نے معصوم سی ریشماں کو دورا ہے پر لا کھڑا کیا۔

چند لمحوں کے لیے ریشماں لا جواب رہی اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک دلا آویز مسکراہٹ ابھری..... اس نے اختر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔

اور پھر بہت اطمینان سے کہا۔

بھابی..... اور اختر کو انگوٹھا دکھا کر ہنستی ہوئی بھاگ گئی اور اختر اس کی شرارت کو سمجھ کر بے ساختا ہنستا چلا گیا۔ لیکن ریشماں نہیں جانتی تھی کہ یہ لہجہ۔ اس سے سوال کھڑا ہو جائے گا۔

☆.....☆.....☆

میرے خیال سے محبت ایک ایسا قلف ہے



اور زندگی اور سانس لینے میں کیا فرق ہوتا ہے وہ اس بات سے نا آشنا تھی اور جب آشنا ہوئی تو۔

☆.....☆.....☆

رسوائی کا ڈر ہے وگرنہ خواہش ہے تم میرے ہو سبھی جگہ یہ خبر ٹھہرے تیرا وجود ہے کہ کتنا عزیز کہ میں رہوں کہیں بھی نظر تیری منتظر ٹھہرے ”مل آئی سا جن سے.....!“

ریشماں جو پلنگ پر آنکھیں بند کیے لیٹی۔ اختر کے حصار محبت میں گم تھی۔ محبوب سے ملنے کے بعد محبوب کو محسوس کر رہی تھی۔ سوچ رہی تھی۔ بھابی سیما کی آواز پر آنکھیں کھول کر مسکرا دی۔

اس کی آنکھوں میں جلتی محبتوں کی قد لیں دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے بھابی سیما حیران رہ گئی۔ عورت محبت کرتی ہے تو راز بن جاتی ہے لیکن ریشماں کی محبت تو جیسے اشتہار بن گئی ہے۔

بھیا ابھی تک نہیں آئے بھابی۔ ریشماں نے بھابی سیما کی ٹٹولتی کھوجتی ڈھونڈ لاتی سوال کرتی نظروں سے بچنے کے لیے موضوع بدنا چاہا۔

ہاں کہہ رہے تھے آج فصلوں کو پانی لگانا ہے تھوڑی دیر ہو جائے گی..... خیر بات نہ ٹال..... یہ بتا کیا کیا باتیں ہوئیں کیا لایا تیرا مجنوں شہر سے تیرے لیے۔“ بھابی سیما نے اس کو گد گدایا۔

دیوانی تو میں ہوں اس کی..... محبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے اختر اور اختر کی محبت کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ میں سوچتی ہوں لوگ محبت کے بغیر زندہ کیسے رہ پاتے ہیں۔ جس طرح کہانیوں میں جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے اس طرح میری جان اختر میں ہے۔

جب تک وہ شہر میں ہوتا ہے..... اس کا خیال

کی خوشبو نکلتی گاؤں کی ہر لڑکی اس کی قسمت پر رشک کرتی تھی۔

ہر مہینے وہ دودن کی چھٹی لے کر گاؤں چلا آتا وہاں نہر کے کنارے پیڑوں کے جھنڈ میں کھڑی ریشماں..... اس کی راہ تک رہی ہوتی۔

یہ نہر کنارے لگے آم کے درختوں کا جھنڈ ان کی محبتوں کی بہت بے تابیوں بے ساختگیوں اور بے تکلفیوں کا گواہ تھا۔

یہاں کے خاموش درختوں نے بہت سارے عہد و پیمانے ہوتے دیکھے تھے۔ بہت دفعہ شرماتی لجاتی ریشماں نے ان درختوں کے تنوں سے ٹیک لگا کر اپنے دیوانے کو کس گستاخی سے انکار کیا تھا۔

کبھی کبھی تو اختر کو ایسا لگتا کہ جہاں وہ ریشماں کو چھوڑ کر گیا تھا ریشماں وہیں ایک سنگی مجسمہ کی طرح ایسا وہ اس کا انتظار کر رہی ہے اختر کو گلابی رنگ پسند تھا۔

ریشماں گلاب جیسے بدن پر گلابی رنگ سجائے رکھتی کبھی کبھی اختر شرارت سے اس کو چھیڑتا۔ ریشم گلابی جوڑے میں پتا ہی نہیں چلتا کہ کپڑا کہاں ہے اور تیرا بدن کہاں ہے..... سب ہم رنگ ہے..... لا دکھا دیکھوں تو سہی میں کیسا کپڑا پہنے ہوئی ہے۔

اور ریشم جو اختر کی ایک ایک رگ سے واقف تھی جلدی سے کئی فٹ دور ہو جاتی اور پھر اس کی نیلی حسین آنکھیں اختر کو پیار سے گھورنے لگتیں اور اختر شادی کے دن گننے لگتا۔

کبھی کبھی ریشماں اس کو نیلی آنکھوں والی چابی کی گڑیا لگتی.....

جس میں اختر کی محبت چابی بھر دیتی تو وہ ہنستی مسکراتی ناچتی گاتی.....

وہ اختر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی



اچھے لگتے ہیں ..... تیری شادی کر دیتے ہیں  
..... ٹھیک ..... بھابی سیما نے اس کو چھیڑا اور وہ  
شرم سے دوھری ہو گئی۔

اختر کی سنگت کا احساس ہی کتنا خوش کن  
تھا۔ ”یا اللہ میری جیسی بھی نصیبوں والی ہوگی۔“  
واقعی میں بڑی نصیبوں والی ہوں اس کے  
اندر بیٹھی ایک عورت فخر سے اترائی۔  
لیکن !.....

☆.....☆.....☆

گھاؤں کی خوبصورت چمکیلی شام بہت جلد  
رات کے آنچل میں منہ چھپا لیتی ہے اور اس  
وقت بھی شام کے اوٹ میں چھپنے جا رہی تھی چاچی  
پگلی نہر کنارے تیز تیز آگے بڑھ رہی ہے۔ نہر  
کے کنارے موجود آم کے گھنے باغات ان  
باغات میں تو دن میں بھی اندھیرا رہتا تھا نا کہ  
رات کو۔

چلتے چلتے چاچی کو کچھ خیال آیا تو اس نے کمر  
کے پٹے پر ہاتھ رکھ کر اپنی تسلی کی ..... اطمینان ہو  
جانے کے بعد وہ پھر چلنے لگی ..... اس کی ٹانگیں  
ٹھکن اور جذبات سے لرز رہی تھیں۔ کپکپا رہی  
تھیں لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی عمر گزرتی دھائیوں  
نے اس باغ تک پہنچنا اس کے لیے بے حد مشکل  
بنادیا تھا لیکن اس کے باوجود پھولتی ہوئی سانسیں  
لرزتی ہوئی ٹانگیں اس کو اس کے ارادے سے باز  
رکنے سے قاصد تھیں۔

”اور اس کا ارادہ.....“

☆.....☆.....☆

کیا ہوا نعیم اتنی دیر کر دی آج ..... جیسے ہی  
بھائی نعیم گھر آیا بھابی سیما نے فکر مندی سے  
پوچھا۔ فکر مند تو ریشماں بھی تھی۔  
نعیم نے کوئی جواب نہیں دیا، سیدھا اندر

..... اس کا تصور مجھے بے چین رکھتا ہے سونے نہیں  
دیتا..... مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا اور اس کے آتے  
ہی ایسا لگتا ہے جیسے بہار آگئی ہو..... ہر چیز گنگنا  
رہی ہو۔

گرمی میں لو کے تھپڑے بھی ٹھنڈے  
پھواروں کی طرح لگتے ہیں میرے پاس کسی چیز کی  
کمی نہیں الحمد للہ بھیا اور بھابی بن کہے میری ہر  
خواہش کو مقدم جانتے ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں  
لیکن اس کے باوجود اس پراندہ اور کانچ کی  
چوڑیوں میں میری جان ہے، ان چوڑیوں کی  
کھنک سے میرا دل دھڑکتا ہے اور اس ریشمی  
پراندہ میں میرا وجود سرسراتا ہے۔

جب اختر ان کانچ کی چوڑیوں کو میری کلانی  
میں محبت بھری آنکھوں سے سجا ہوا دیکھتا ہے اس  
کے چہرے پر مقید محبت میری کائنات ہے۔ اختر  
کی محبت میرے وجود میں خون بن کر دوڑتی ہے۔  
ریشماں جواب نہیں دینا تو نہ دے گم صم  
کیوں ہو گئی بھابی سیما نے اس کو سوچوں کے  
سمندر میں غوطے کھاتے دیکھ کر مصنوعی ناراضگی  
سے کہا۔ اور ریشماں جو اپنے آپ سے باتیں  
کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اس کے آس پاس کے  
ماحول سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جیسے حال میں واپس  
آگئی۔

بھابی ناراض نہ ہو..... میں تو..... ریشماں  
نے محبت سے روٹھی روٹھی بھابی سیما کے گلے میں  
بانہیں ڈال دیں۔

بس جی بنو، رہنے دو..... کہتے کہتے کیوں  
رک گئیں اختر کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھیں  
نا..... بھابی ہنسیں اور ریشماں مسکرا دی۔ چل میں  
تیرے بھیا سے کہوں گی اب ریشماں کا دل گھر  
میں نہیں لگتا اب اس کو اختر کا گھر اور اختر زیادہ



اس کی نظر اپنی کلائیوں پر جیسے ٹھہری گئی، کھلے دروازے سے نظر آتے ان گھنے درختوں کے درمیان اس کو کوئی سایہ لرزتا سا محسوس ہوا پھر کرخت چہرہ لیے اُن مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کے ساتھ اس کو جانا تھا اور پھر دہلیز کے پار قدم رکھ دیا۔

☆.....☆.....☆

وہ جو سر جھکائے آٹے کے پیڑوں پر جمی پڑی اتار کر جلدی جلدی روٹیاں توڑے پر سینک رہی تھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا اس کے سیدھے سادھے شریف بے ضرر بھائی نے ایسا کیا کہا ہے کہ اس کی بھابی منہ پر ہاتھ رکھنے کے باوجود اپنی چیخ کو روک نہ سکی تھی۔

☆.....☆.....☆

لو آگئی ڈائن ..... کبخت ..... چڑیل ..... منحوس ..... پچھل پہری قاتل کی بہن ..... میرا سہاگ چھین کر سہاگن بننے آئی ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گی اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کوؤں کو کھلاؤں گی ..... منحوس ..... کتیا .....

جیسے ہی اس نے نئی دہلیز پر قدم رکھا اندر سے ایک عورت دیوانہ وار بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے منہ پر پے در پے طمانچے مارتے ہوئے کہا کچھ اور عورتیں اور بچے بھی آگئے وہ اس کو مار رہے تھے۔ نوح رہے تھے اس کے بال ان کی مٹھیوں میں تھے وہ صحن میں گھیٹ رہی تھی اس کی کلائیوں چھل گئی تھیں ..... شدت ضبط نے اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔

اس کے بڑے سے صحن میں بیٹھے، کھڑے سارے مرد اور عورتوں پر ایک جنون سوار تھا، ایک مائمی اور انتقامی کیفیت ان پہ طاری تھی۔ کوئی اس کو گالیاں دے رہا تھا کوئی مار رہا تھا۔ کوئی اس

کوٹھری میں چلا گیا سیما نے حیرت سے نعیم کو کوٹھری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، عموماً کوٹھری میں وہ لوگ سال بھر کی گندم رکھتے تھے نعیم عموماً شام ڈھلے ہی گھر آ جاتا تھا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ سیما نے بے حد فکر مندی سے کوٹھری میں داخل ہوتے ہوئے نعیم کو دیکھا اور خود بھی اس کے پیچھے کوٹھری میں داخل ہو گئی۔

چولہے میں دھلتی آگ بجھنے کو تھی آٹے کے بنے پیڑوں پر پڑی سی آگنی تھی ریشماں جو بھابی کے آنے پر روٹیاں پکانے کے لیے تیار بیٹھی تھی نے جلدی سے پھونکنی سے آگ کے بجھتے شعلوں کو دھکانا شروع کر دیا گھرے سارے کام نمٹا کر وہ اپنے باپ جیسے بھائی کے لیے گرم روٹی خود ہی پکاتی تھی جو کبھی بھابی سیما منع بھی کر دیتیں تو وہ بہت لاڈ سے کہتی۔

بھابی تم نے تو ساری زندگی ہی بھیا کی روٹی پکانی ہے۔ میں کتنے دن کی ..... مجھے مت ٹوکو ..... ریشماں کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی ..... وہ محبت کی دعو پیدار تھی۔

لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ محبت اکثر آزمائیتی ہے۔ بہت سی محبتوں کا تاوان زندگی دے کر ادا کرنا پڑتا ہے اور وہ تو بھائی بھابی کی محبت میں جان قربان کرنے پر تیار تھی اور جب محبت نے قربانی مانگی تو۔

☆.....☆.....☆

سفید لٹھے کے سوٹ میں ..... بڑی سی سفید چادر میں لپٹ کر دہلیز پار کرنے سے پہلے، چہرے پر پھلتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے، اس نے پلٹ کر خاموش اداس کھڑے اپنے پیاروں کو دیکھا پھر گلاب کے پودے کی جڑ میں بنی اس تازہ قبر کو دیکھا۔



کی بہو لگتی تھی اس کا شوہر بختاں کا سر تھا اور وہ  
اٹھارہ سالہ لڑکی بختاں کی ساس اور 60 سالہ اللہ  
دتہ کی بیوی بن گئی۔

اللہ دتہ کی پہلی بیوی بھی تھی..... سوکھی سڑی،  
ٹی بی کی مریضہ ہر وقت خون تھوکتی تھی۔

وہ سارا دن کولہو کے نیل کی طرح گھر کے کام  
کرتی بختاں کے بچوں کو سنبھالتی۔ ذلت سہتی  
گالیاں کھاتی، مار کھاتی اور رات کو اس کوٹھی میں جا  
سونی جہاں سال بھر کا اناج رکھا ہوتا، جہاں گھر کا  
کاٹھ کباڑ رکھا تھا اور جہاں بڑے بڑے چوہے  
بھاگتے پھرتے..... وہ تاوان میں آئی ہوئی  
عورت تھی..... اور تاوان میں آئی ہوئی عورت  
کے پاس پیچھے دیکھنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اس کا  
ڈولہ اس کے گھر سے جنازہ کی طرح اٹھایا گیا اور  
جنازہ واپس گھروں کو نہیں جاتے اور وہ بھی پلٹ  
کر اپنے میکے نہیں گئی یا نہیں بھیجی گئی۔

کہتے ہیں جب مرد کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ  
کچھ نہیں دیکھتا اور ایسے ہی کسی لمحے میں اللہ دتہ  
نے اس کی کوکھ میں اکبر ڈال دیا۔

اور پھر جیسے اس کی گھٹن زدہ زندگی میں سانس  
لینے کا جواز آ گیا۔ وہ سارے دن کی تکلیفوں،  
ذلتوں اذیتوں اور شفقتوں کے بعد اکبر کی  
مسکراہٹوں میں سب کچھ بھول جاتی۔

اگر اس کو ہنسی آتی تو وہ اکبر کو بھی گد گداتی اور  
اگر اس کو رونا آتا تو وہ ننھے اکبر کے سینے میں منہ  
چھپا کر گھنٹوں آنسو بہاتی۔

ننھا اکبر جو تیزی سے عمر کی منزلیں طے کر رہا  
تھا۔ اس کا سب کچھ تھا وہ اس کا دوست تھا ہمدرد  
تھا، بھائی تھا باپ تھا بیٹا تو تھا ہی۔

☆.....☆.....☆

رحم کریں چوہدری صاحب..... رحم کریں نعیم

کے بال نوچ رہا تھا۔ کوئی اس کے سر پر مٹی ڈال  
رہا تھا۔

وہ پیٹ رہی تھی وہ گالیاں، گھونے اور لاتیں  
کھا رہی تھی اس کی آنکھیں خشک تھیں اس کے  
لب ایک دوسرے میں پیوست تھے وہ لوگ اس کو  
مار مار کر تھکنے لگے..... وہ دکھتے وجود کے ساتھ سر  
جھکائے زمیں پر بیٹھی رہی۔

اس کا خوش نصیبی کا دعویٰ رو رہا تھا۔  
اور اس کا دل گلاب کے پودے کے پاس بنی  
قبر میں کہیں دفن ہو گیا تھا۔

تو نے قربانی دی..... تو فیصلہ سنا دیا۔ مجھ سے  
کیوں نہ پوچھا۔ کسی کا سوال اس کے اندر گونجا۔  
آخ تھو..... کسی نے اس کے منہ پر تھوکا اور وہ  
حقیقت میں واپس آ گئی کہ اب کسی سوال کا  
جواب نہیں تھا۔

اٹھ بد نصیب چڑیل کیا بیج پر جانے کا انتظار  
کر رہی ہے۔ کھڑی ہوتی اور جلاسب کے لیے روٹی  
پکا ایک عورت نے اس کے پیٹ میں زور دار  
لات مارتے ہوئے اس کو اس گھر میں اس کی  
حیثیت ایک بار پھر یاد دلائی۔

چل بختاں میری بچی، اندر چل روٹی کھا اس  
عورت نے تھپڑوں سے استقبال کرنے والی  
بختاں کو پکارا اور اللہ دتہ تو کیوں بیٹھا ہے۔ چل  
اندر اس عورت نے ساٹھ سالہ مرد سے کہا جس کی  
نکاح کی ڈور میں بندھ کر وہ یہاں تک آئی تھی۔

☆.....☆.....☆

زندگی زندگی نہ رہی..... سانسوں کی  
آمد و رفت کا نام زندگی تھا تو وہ زندہ تھی۔

اس گھر میں تین عورتیں ایک مرد تھا۔ بختاں کا  
میاں اس کے پیاروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور  
تاوان میں وہ آ گئی۔ رشتے میں اب بختاں اس



گیا اور ایک خنجر کو سیدھا دل پر لگا تھا بشیرے کو  
تڑپنے کا موقعہ بھی نہ ملا اور نعیم پھٹی پھٹی آنکھوں  
سے بشیرے کی تیزی سے ٹھنڈے ہوتے بدن کو  
دیکھتا رہ گیا۔

میں نے بشیرے کو نہیں مارا..... وہ اپنے آپ  
ہی وار سے مرا ہے میں تو صرف اپنے آپ کو بچا  
رہا تھا..... میں بے تصور ہوں آپ لوگ میری  
بات کیوں نہیں سن رہے۔ نعیم حال میں آتے ہی  
رو..... رو کر فریاد کرنے لگا۔

محمد نعیم کی آہ زاری اور اس کا کردار دیکھتے  
ہوئے پنچائیت کا یہ فیصلہ ہے کہ  
اور جب پھر پنچائیت کے سر بیچ کے منہ سے  
نکلے الفاظوں نے جیسے نعیم اور اس کے خاندان کو  
زندہ دفن کر دیا۔  
ہر چیز..... ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھری  
گئی۔

☆.....☆.....☆

ملجے بال..... کسا کسا بدن اب ڈھیلا سا پڑ  
گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں ایسے ہو گئے تھے جیسے انڈرانی  
لنے کے بعد کوئی ڈھیلے چھوڑ دے لیکن اس کی  
آنکھیں..... ہاں اس کی آنکھیں ایسے ہی چمکتی  
تھیں کیونکہ ان آنکھوں میں..... اب اکبر تھا.....  
اکبر کی محبت تھی۔

جیون کے ایک جلد آنے والے موڑ پر اللہ دتہ  
بھی چلا گیا پھر اس کی سوکن بھی چلی گئی اور گھر خالی  
رہ گیا۔ ساری زندگی اس کے پاس کچھ نہیں رہا  
..... آنسو اور صرف آنسو جو رات کے اندھیرے  
میں اس کا تکیہ بھگوتے تھے جنہوں نے اس کے  
دل کو کھوکھلا کر دیا تھا لیکن اب اکبر کو شیر کی طرح  
جو ان اور صحت مند دیکھ کر اس کے دل کو ایک عجیب سا  
اطمینان اور تقویت ملتی تھی۔

پنچائیت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔  
کس بات کا رحم چو بدری..... جب میرے  
بیٹے کے پیٹ میں اس نے خنجر گھونپا تھا..... جب  
اس کو رحم نہیں آیا تھا..... نہیں اس گاؤں میں یہی  
ہوتا آیا ہے خون کے بدلے خون..... اس کو بھی  
مرنا ہوگا..... جس طرح میرا بیٹا مرا ہے پنچائیت  
کے بیچ اللہ دتہ کھڑا کسی بات کو سننے کے لیے تیار  
نہیں تھا۔

دیکھ بشیرے کیوں الجھتا ہے میں اپنے کھیتوں  
کو اپنے حصے کا پانی دے رہا ہوں تو کیوں باتیں  
نکال رہا ہے نعیم نے جھنجھلا کر شیدے کو ٹوکا۔  
آج اس کا فصل کو پانی دینے کا دن تھا اور  
بشیرا اس سے الجھ رہا تھا کہ وہ اس کے حصے کا پانی  
بھی استعمال کر رہا ہے..... بشیرا ایک بد معاش  
فطرت مرد تھا اور نعیم سیدھا سادا اپنے کام سے کا  
رکنے والا سیدھا دیہاتی تھا۔

بشیرے کو سب کو ڈرانا دھمکانا اچھا لگتا تھا،  
لیکن نعیم اس کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں  
رکھتا تھا، سو بشیرا اکثر اس کو تنگ کرتا تھا کبھی اس  
کے کھیتوں میں جانور چھوڑ دیتا کبھی رات کو اس کی  
فصل چرا لیتا، کبھی نہر میں شگاف ڈال لیتا۔ نعیم  
سب سمجھتا تھا لیکن خاموش رہتا وہ جانتا..... کہ  
بشیرا ایک بدنام زمانہ آدمی ہے۔

لیکن جب آج اس کو پانی دینے سے منع کیا تو  
نعیم خلاف معمول بگڑ گیا بشیرے کو امید نہیں تھی کہ  
نعیم اس سے الجھ سکتا ہے اس کو گالی دے سکتا ہے وہ  
غصے میں پاگل ہو گیا اور اس نے خنجر نکال کر نعیم پر  
حملہ کر دیا نعیم لاکھ شریف اور صلح جو تو تھا لیکن تھا تو  
مرد..... ایک مرد ایک صحت مند تو انا مرد سو وہ بشیرے  
کے لیے آسان شکار ثابت نہ ہوا۔ اور اپنے آپ  
کو بچاتے بچاتے خنجر بشیرے کے پیٹ میں گھپ



کھڑی ہوئی۔

☆.....☆.....☆

گھر میں ایک عجیب سی یاسیت اور خاموشی طاری تھی لیکن ریشماں بہت خوش تھی خوشی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی وہ اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہی تھی کبھی رو رہی تھی اور کبھی برسوں بعد بے ساختہ ہنس رہی تھی۔

کیسے منع کرتے ارے میرے اکبر جیسا کوئی شیر تو نکال دیں گاؤں بھر میں لہما چوڑا سرخ سفید اور نام کا ہی اکبر نہیں ہے وہ اکبر ہے کون سا کام ہے جو وہ نہیں کرتا۔ گھر وہ سنبھالے، خط وہ پڑھے، فصل ایسی بھر پور اتارے۔

میرے بچے جیسا کوئی نہیں..... بس جلدی سے گھر آ جائے تو اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ میٹھا کروں۔

ریشماں بار بار دوازے پر جا کر جھانکتی اور پھر اپنے آپ سے باتیں کرتی پلٹ آتی۔

کتنا خوش تھی وہ..... ورنہ برسوں ہوئے وہ خوشی کا مفہوم تک بھول چکی تھی وہ خوش تھی کیونکہ برسوں بعد کسی کی محبت آباد ہونے جا رہی تھی..... وہ اکبر کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا چاہتی تھی جو اس کو نصیب میں نہ ہوئی تھی اور نصیب کس نے دیکھا ہے۔

☆.....☆.....☆

سنہری شام، گہری ہوئی۔ گہری شام رات میں ڈھلی، ہلکی سیاہ رات گہری رات میں بدلی اور گہری رات جب مزید گہری ہونے لگی تو وہ گھبرا گئی۔ پھر وہ مجید کے گھر چلی آئی..... ایک ہی تو دوست کا اس کے اکبر کا۔

اس نے بڑے سے صحن میں سوئے ہوئے مجید کے کو آوازیں دیں اور پھر جھنجھوڑ ڈالا۔

جب ریشماں نے اکبر کے کرتے کی جیب میں سرخ چوڑیاں دیکھیں تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی غم بھری ہنسی بکھر گئی۔

بہاریں آئیں پھر خزاں..... ہرے اور پیلے پتوں کی آنکھ مچولی صبح و شام کی طرح صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔

کبھی پیلی پوشاک ہری چادر میں لپٹی ہے تو کبھی سنہری شام سیاہ رات کی گود میں جا سوتی ہے۔

وہی بہار..... وہ ہی خزاں

وہی صبح..... وہ ہی شام

وہ ہی دن..... وہ ہی رات

زندگی کتنے روپ بدلتی ہے..... لیکن پیار..... اور پیار بھرے دل کبھی نہیں بدلتے۔

محبت کا پیغام دل ہے اور محبت اپنا مقام ڈھونڈ لیتی ہے۔ اور اب اکبر کا دل۔

زندگی کی ایک ضرورت یہ بھی ہے ریشماں کے لب پھڑ پھڑائے۔

اور پھر اس نے اکبر کی محبت کا مقام ڈھونڈ ہی لیا وہ اکبر کے دوست کی بہن تھی..... بتول..... سیدھی سادہ، سانولی سلونی سی بتول۔

ریشماں محبت کی کسک کو جانتی تھی۔

محبت کے گھاؤ کی طرح دل میں روز روتی ہے جس طرح عورت زندگی میں آنے والے سے پہلے مرد کو کبھی نہیں بھولتی اس طرح مرد بھی اپنی زندگی میں آنے والی پہلی عورت کو نہیں بھولتا بس پھر محبت کے ماروں کی پوری زندگی۔

مقابلوں اور موازنوں میں گزر جاتی تھی۔

اور ریشماں اس مقابلہ اور موازنہ والی زندگی سے اکبر کی زندگی کو داغ لگانا نہیں چاہتی تھی اور پھر وہ جھولی پھیلا کر بتول کے دروازے پر جا



شادی نہیں کرنی تھی تو مٹھائی کیوں بھیجی..... اور جو مٹھائی بھیجی تو اس رات کو شہر کیوں بھاگ گیا۔  
ریشماں ہر ایک کا چہرہ پکڑ پکڑ کر غور سے دیکھتی..... ارے اکبر جیسا ہے لیکن اکبر تو نہیں۔  
لوگ رحم کھا رہے تھے اکبر کو گالیاں دے رہے تھے۔

ماں نے زندگی بھر دکھ کی فصل کاٹی اور دیکھو پر نکلے تو اڑ گیا۔

ریشماں کبھی بتول کو دیکھتی اور کبھی مجید کے پاس جا کر روتی لیکن گاؤں والوں کی بات کا جواب نہیں دیتی..... خاموش رہتی ریشماں سچ سچ دیوانی سی ہو گئی تھی..... لوگ اکبر کو کوستے۔

لیکن کس کو کیا معلوم تھا کہ ہر چہرہ میں وہ کس کا چہرہ کھوجتی تھی۔ وہ چہرہ.....

☆.....☆.....☆

درختوں کی جھنڈ میں وہ چھپا کھڑا اس کو نظر آ ہی گیا اس کی سانس تیز ہوئی اس نے جلدی سے کمر سے بندھا چاقو چیک کیا، کمر پر چاقو کی موجودگی نے اس کو اطمینان دلایا۔

چاچی وہ اب کبھی نہیں آئے گا چاچی وہ تو مر گیا۔ مجید سے..... اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔

ہاں چاچی..... مجید ابغیر کے مشین کی طرح جذبات اور احساسات سے عاری زبان میں ایک خواب کی سی کیفیت میں بولے جا رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حیدر کو یہ بات بہت بری لگی کہ اکبر نے اس کی بہن بتول سے محبت کی حیدر کو شکایت تھی کہ اکبر نے دوست ہو کر دوست کی بہن کو میلی نگاہ سے دیکھا۔

وہ اکبر کو مار رہا تھا۔ اکبر بار بار صفائی پیش کر رہا تھا کہ بتول..... ایک اچھی لڑکی ہے اور اس کی

مجید نے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی زبان..... جیسے قوت گویائی سے محروم ہو گئی۔  
اس نے بولنا چاہا لیکن لفظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔

ریشماں نے اس کو جھنجھوڑا اس کا گریبان پھاڑ ڈالا..... تو بولتا کیوں نہیں مجید سے میرا اکبر کہاں ہے میرا اکبر گھر کب آئے گا وہ چیخ رہی تھی۔

پھر مجید کے منہ سے نکلے لفظوں نے جیسے اس کو ایک دم بوڑھا کر دیا۔ اس کے کالے اور سفید بال رونی کی طرح سفید ہو گئے اس کی کمر جھک گئی اور اس کے ہاتھوں میں رعشہ آ گیا۔

☆.....☆.....☆

رات بھر وہ ایک سکتہ کی سی کیفیت میں رہی۔ اس کا اکبر بے وفا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔

پھر اس کی نظر صحن میں بنے کچے باورچی خانے کے نعمت خانے میں رکھی اس چھری پر جم گئی جو گوشت کاٹنے کے کام آتی تھی۔

تارے ادھر ادھر ہو گئے ویسی ہی روشن صبح نمودار ہوئی جیسی اکبر کی پیدائش والے دن تھی رات بھر میں ریشماں ادھیڑ عمری کی دلہیز پار کر کے بوڑھی وہ گئی تھی۔

میں چین سے نہیں بیٹھوں گی وہ بڑبڑا رہی تھی اور باہر نکل گئی..... دن..... رات..... صبح شام کا چکر چلتا رہا بال مٹی میں اٹ گئے ایرڈھیاں پھٹ گئیں۔ ہاتھ کھر دے ہو گئے وہ سیدھی مجید سے کے گھر گئی۔

وہ کہاں گیا تھا مجید سے..... اس کا وجود سراپا سوال تھا لوگ اس کی حالت دیکھ کر چہ گوئیاں کر رہے تھے بتول زار و قطار رو رہی تھی کہ اکبر کو اگر



اختر..... اختر کا تو کچھ پتا ہی نہیں ہے پتا نہیں  
زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا..... بس جس دن  
تیرے بھیا کا جنازہ اٹھا تھا اس دن لوگوں نے  
اس کو دیکھا تھا۔

بھیا مر گئے! ریشماں نے سسکی کو ہونٹوں میں  
دباتے ہوئے دھیمی لیکن رندھی ہوئی آواز میں  
..... فاطمہ سے پوچھا۔

فاطمہ اس کی بچپن کی سہیلی اور اختر اور اس کی  
محبت کی راز دار اور گواہ تھی۔ تاوان میں بندھنے  
کے بعد ریشماں کبھی گاؤں واپس نہیں جاسکی لیکن  
فاطمہ بیاہ کر اس کے گاؤں میں چلی آئی۔ سو اس کو  
بھی تھوڑی سن گن اپنوں کی ملنے لگی اور آج  
ریشماں نے ہمت کر کے اختر کے بارے میں اس  
سے پوچھ ہی لیا۔

تیرا بھائی تو دو سال بعد ہی مر گیا تھا اس کو تیرا  
غم کھا گیا۔ ریشماں اختر بھی چار پائی پکڑ کر بہت  
رویہ۔ وہ تو بس یہی کہتا جاتا تھا تجھے جلدی جانا تھا  
تو ہمیں کیوں زندہ درگور کیا۔ پھر اس کے دن کے  
بعد کبھی اختر نظر نہیں آیا۔

اس کو تیری محبت جو تک کی طرح چٹ گئی  
تھی۔ تیری محبت میں وہ دیوانہ تیری جدائی  
برداشت نہیں کر سکا۔ جب اس کی ماں نے اس پر  
بہت زور دیا کہ وہ شادی کر لے تو پھر سنا ہے ریل  
کی پٹری پر جا کر لیٹ گیا ہائے بد نصیب کے  
ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔

بھیا مر گیا..... اختر مر گیا..... میری زندگی  
ذلت کی ٹھوکروں میں گزری..... بوڑھا مرد ملا اور  
اس بوڑھے نے جوتی کی نوک پر رکھا..... نہ کبھی  
پیٹ بھر کر کھا پانہ کبھی نیند بھر کر سوئی..... جس گھر  
میں 25 سال گزار دیئے اس گھر میں پیر نہ پیار  
سکی۔

اچھائی کی وجہ سے اس نے رشتہ بھیجا ہے لیکن حیدر  
ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا وہ اکبر کو مسلسل مار  
رہا تھا پھر اکبر بھی طیش میں آ گیا کبھی اکبر حیدر کو  
اٹھا کر پختا اور کبھی حیدر اکبر کو۔

میں جھاڑیوں میں چھپا سب کچھ دیکھ رہا تھا  
لیکن وہ دونوں اتنے غصے میں تھے کہ بیچ بچاؤ  
کراتے مجھے ڈر لگ رہا تھا میں بزدلوں کی طرح  
چپ چاپ سب دیکھتا رہا۔

پھر حیدر نے اکبر کے سر پر ڈنڈا دے مارا،  
اس کے سر سے خون کا فوارہ سا پھوٹ گیا اور پھر  
وہ چکرا کر گر گیا..... میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر  
لیں۔

اور پھر حیدر نے اکبر کو اٹھا کر ندی میں پھینک  
دیا میں نے دیکھا اکبر کی لاش ندی میں بہے جا رہی  
سے لاش ڈوب رہی تھی کبھی ابھر رہی تھی اور پھر  
لاش غائب ہو گئی۔

چاچی اب اکبر کبھی نہیں آئے گا۔  
میرا اکبر اب کبھی نہیں آئے گا ریشم کے  
سوکھے لب تھر تھرائے جس بیٹی کی جوانی دیکھنے کی  
آس میں اس نے جوانی بوڑھوں کی طرح گزار  
دی جو اس کی تکلیف دہ..... اکیلی دکھی زندگی کی  
واحد خوشی تھی وہ اکبر اب کبھی نہیں آئے گا۔

حیدر تو اس طرح کب تک چھپتا پھرے  
گا۔ ریلی مدھر دھیمی آواز سوچوں میں ڈوبتی  
آا بھرتی۔ ریشماں کو حقیقت میں کھینچ لائی اور پھر  
اس کی نظر حیدر کی چوڑی پشت سے ہوئی ہوئی 18  
سالہ شہلا پر ٹک گئی۔

نازک پھولوں کی ڈالی کی طرح لچکتی۔ ریشم  
کی طرح نرم و نازک شہلا اس کی بچپن کی سہیلی  
فاطمہ کی چھوٹی بیٹی شہلا۔

☆.....☆.....☆



ہاتھ سے گر گیا تھا حیدر پلٹا، اس کو دیکھا اس کی ہاتھکھی بندھ گئی۔

سارا گاؤں ریشماں کو چاچی پگی کہتا اور سمجھتا تھا لیکن حیدر تو جانتا تھا نہ وہ پگی ہے اور نہ ہی اکبر اس کو چھوڑ کر شہر بھاگا ہے۔

ریشماں نے ایک نظر خوفزدہ کھڑے حیدر کو دیکھا اور دوسری نظر زمین پر پڑے چاقو کو دیکھا۔ جس کو روز دھار لگاتی تھی۔

پھر مستحکم لہجے میں بولی۔

محبت کے صدقے میں نے تجھے معاف کیا..... جا محبت کر..... شادی کر اس کی کلائیوں میں سرخ چوڑیاں سجا اور اس کے بالوں میں ریشم کے پھولوں والا پراندہ ڈال۔

اس کو ریشماں نہ بننے دینا کیونکہ اس صدی میں بس ایک ہی ریشماں ہوگی..... جا چلا جا..... اس نے چاقو دریا میں بہایا اور جاتے جاتے پلٹ کر بولی۔

اب کسی عورت کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کیونکہ جب عورت کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا وہ بے کفن لاش بن جاتی ہے۔ ایسی لاش جس کو کوئی دفناتا ہے..... کوئی جلاتا ہے اور کوئی گدھوں کے آگے ڈال دیتا ہے واپس جاتی پگی کے اندر برسوں سے دفن ریشماں روتے ہوئے بولی۔

آج نفرت..... غصہ اور انتقام کی جنگ میں ایک عورت جیت گئی تھی۔ حیدر اور شہلا برستی آنکھوں اور پتھر بنے ہوئے وجود کے ساتھ وجود سے نقطہ بنتی اس عورت کو دیکھ رہے تھے جو واقعی عورت تھی جو عورت کہلائے جانے کے قابل عورت تھی۔

Downloaded From  
Paksociety.com

210

لفظ خوشی کیا ہوتا ہے  
محبت اور اپنائیت کے کہتے ہیں..... سب بھول گئی۔

تاوان میں دی گئی عورت ہمیشہ تاوان ہی ادا کرتی ہے۔ اور اکبر جو مجھے خیرات میں ملا تھا میری امید اور میری خوشی تھا اس کو اس نے مار ڈالا۔

میں اس کو مار دوں گی..... خیالات کی یلغار سے نکلتے ہوئے ریشماں نے کمر سے بندھا چاقو کھولا اور دبے پاؤں آگے بڑھی لیکن پھر ہوا میں اٹھا اس ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا۔

اور اس کا غصہ، اس کا جنون..... ان سرخ چوڑیوں اور ریشمی پراندے میں گم ہو گیا..... وہ سرخ چوڑیاں جو شہلا تیزی سے اپنی کلائیوں میں چڑھا رہی تھی حیدر محبت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔

میں تمہاری کلائیوں میں کب چوڑیاں سجاؤں گا وہ سرگوشی میں پوچھ رہا تھا۔

شہلا نے ایک گہری نظر اس کی طرف دیکھا اس کے لبوں پر ایک مدہم مسکراہٹ رہ گئی اور اس نے شرماتے ہوئے کہا شادی کے بعد۔

اور پھر ریشماں کو ایسا لگا، ساری دنیا گھوم رہی ہو۔ وہ پھر سے ریشم بن گئی اس کے سفید بال سیاہ لہے اور گنھمرے ہو گئے جسم تن گیا آنکھیں خمار آلود ہو گئیں۔

وہ بیس سال کی ریشم بن گئی۔ جس کی کلائیوں میں محبوب کی محبت کھنک رہی تھی اور جس کی آنکھوں میں محبت جگمگ رہی تھی اور اس کا دل کر رہا تھا.....

یہیں سے ان ہی درختوں کے جھنڈ میں سے اختر کے سینے میں منہ چھپا کر کہے اختر بس شادی کر لے۔ جلدی ہی شادی کر لے۔ چاقو اس کے

READING  
Section



## پچی کہانیاں ڈائجسٹ میں اشتہار کیوں دیا جائے؟

▶..... پاکستان کا یہ واحد رسالہ ہے جس کا گزشتہ اکتیس برس سے چار نسلیں مسلسل مطالعہ کر رہی ہیں۔

▶..... اس لیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قارئین بھرپور اعتماد کرتے ہیں۔

▶..... اس میں غیر معیاری اشتہار شائع نہیں کیے جاتے۔

▶..... پوری دنیا میں پھیلے اس کے لاکھوں قارئین متوسط اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو مستند اور معیاری مصنوعات کی خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔

▶..... اس لیے کہ پچی کہانیاں ڈائجسٹ کو گھر کا ہر فرد یکساں دلچسپی سے پڑھتا ہے۔

▶..... جریدے کے ہر شمارے کو قارئین سنبھال کر رکھتے ہیں۔

▶..... اس جریدے کے بڑی تعداد میں مستقل خریدار ہیں جو اندرون اور بیرون ملک پھیلے ہوئے ہیں۔

▶..... آپ کی مصنوعات کے اشتہار با کفایت اُن تک پہنچ سکتے ہیں۔

▶..... جریدے کی اعلیٰ معیار کی چھپائی آپ کے اشتہار کی خوب صورتی میں

اضافہ کرتی ہے۔ شعبہ اشتہارات: پچی کہانیاں

**II C-88 فرسٹ فلور۔ خیابان جامی کمرشل۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی۔ فیز-7، کراچی**

فون نمبر: 35893122 - 021-35893121



# محبت روکھ جائے تو...

خوبصورت جذبوں سے متعارف کراتی تحریر کی پہلی قسط

وہ فوراً ہی جاگ جائے۔ یہ واحد طریقہ تھا اس کو  
جگانے کا.....  
کسلمندی سے اس نے خود پر سے کبیل ہٹایا تھا  
اور ذہنی طور پر خود کو بستر چھوڑنے کے لیے تیار کیا۔

سورج کی تیز کرن چہرے سے ٹکرائی تو اس  
نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ درید عباس  
حسب معمول ونڈو سے پردہ ہٹا کر گیا تھا تا کہ سورج  
کی تیز شعائیں جیسے ہی ونڈو سے اندر داخل ہوں تو



**Downloaded From  
Paksociety.com**





READING  
Section



بمشکل نیند چھوڑ کر انگڑائیاں لیتا وہ کھڑکی تک آیا تھا۔

روشن صبح مسکرا کر اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ مگر سویرے ہی دھوپ کی شدت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج سورج کا موڈ صبح سے ہی خاصا خراب ہے۔ مگر اس کے باوجود سڑک پر ہر طرف گہما گہمی تھی معمول کی زندگی روز کی طرح شروع ہو گئی چکی تھی۔ کھڑکی کے پردے برابر کرتا وہ واش روم میں گھس گیا۔

باتھ لے کر اس کی ساری سستی ہوا ہو گئی تھی اور وہ بہت فریش موڈ میں کمرے سے باہر نکلا۔ مگر یہاں صرف سناٹا تھا ویران پڑا ڈائنگ ٹیبل اس کا منہ چڑا رہا تھا۔

تقریباً گھنٹہ پہلے یہاں کس قدر دھما چوکڑی مچی ہوگی، یہ سوچ کر خود بخود دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔

گھر میں جب وہ سارے ہوں تو زندگی کتنی خوشگوار لگتی ہے۔ عبدال اور نہال ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ، بلال کا انہیں سمجھانا اور کبھی سخت جھنجھلا کر انہیں پینا۔ ”درید عباس کی ناشتے کے لیے بھاگ دوڑ، اور ٹیبل سجا کر اپنے مخصوص اشائل میں سب کو بریک فاسٹ کے لیے بلانا..... وہ چاروں صبح میں جلدی میں ہوتے تھے۔ ”نہال اور طلال کو کالج کی اور درید کو اپنی جاب کی، بس وہ کاہلی مارا تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا آفس لیٹ ہی تھا۔ لیکن اگر وہ کبھی کبھار جلدی جاگ جاتا (غلطی سے) یا فجر کے بعد سوتا ہی نہیں تھا تو ان چاروں کی نظریں ہی اسے گاڑ دیتیں۔ حیرت سے مربعوں میں پھیلی آنکھیں دیکھ کر وہ خود پر ہزار بار لعنت بھیجتا کہ وہ جلدی اٹھ کر آیا ہی کیوں تھا۔

ناشتے کے نام پر چائے کی طلب نے اسے کچن

کی طرف رخ کرنے پر مجبور کیا تھا مگر پہلا قدم کچن میں رکھتے ہی اس کا دل گھبرانے لگا۔

”اف تو یہ آج درید پر کون سا جنون سوار تھا۔“

کچن کی ابتر حالت دیکھ کر اس کی نفاس تپند طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ برتن یوں سارے کچن میں پھیلے ہوئے تھے گویا ان میں جنگ عظیم ہوئی ہو۔ چائے بنانے والا ساس پین چولہے پر یونہی کھلا پڑا تھا۔ مکھیوں کو خوب عیاشی کا موقع ملا تھا۔ یا انہیں یہ گولڈن چانس خود فراہم کیا گیا تھا۔ جو بھی ہو مگر اس کے لیے وہاں رکنا ناممکن ہو گیا تو وہ لاؤنج میں آ کر صوفے میں دھنس گیا۔ ٹیبل سے نیوز پیپر اٹھا کر دیکھنے لگا پھر کچھ دیر بعد اماں بی آگئیں (کام والی ماسی) تو اسے چائے پینے کی کچھ امید نظر آئی تھی۔

”السلام وعلیکم اماں بی۔“

ان کی عمر کے باعث وہ سب انہیں احترام سے پکارتے تھے۔

”وعلیکم السلام پتر۔“

انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا پھر بغور اس کا جائزہ لیا۔

”کی گل..... تھکا تھکا لگ رہا ہے۔“

”نہیں بس آج صبح کی چائے نہیں پی۔“

”میں بنا داں پتر۔“

”اماں بی چائے تو میں بنا لوں گا مگر پلیز آپ کچن سمیٹ دیں۔“

”اچھا..... فیر چائے بنا داں۔“

”ہوں۔“

اس نے مختصر سا جواب دیا ایک تو وہ کم گو تھا دوسرا اماں بی بولنے کی شوقین تھیں۔ اماں بی نے اس کی توجہ اخبار پر دیکھی تو وہاں سے ہٹ گئیں۔

”ہو گئی تیری سویر۔“

درید عباس کی آواز پر وہ بے طرح چونکا۔ اخبار



چھوڑ کر اسے دیکھا جو قطعی رف حلیے میں اس کے سامنے سنگل صوفے پر آ کر گر سا گیا تھا۔

”تو گھر پر ہے۔“

اس کی آواز میں تازگی نہ تھی نہ چہرے پر روز والا فریش لک۔ بکھرے الجھے بے ترتیب سیاہ گھنے بال، ہلکا ہلکا سرخ ہوتا چہرہ، آنکھوں میں سرخی سی جھلک رہی تھی۔ سیلولیس نی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔

”آریو اوکے۔“

”ہاں بس رات سے ٹیسر پیچر ہے۔ صبح بیچارے بلال کو بھی اکیلے ہی سب ہینڈل کرنا پڑا ہوگا۔ ایسے اپنے بخار سے زیادہ فکر بلال کے ڈبل مشقت کی تھی اور بنا کسی رشتے کے وہ ایک محبت ہی تو اسے اثریکٹ کرتی تھی..... بنا کسی تعلق کسی رشتے کہ وہ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے اتنا خیال رکھتے تھے۔ اب تو وہ بھی ان میں شامل ہونے لگا تھا۔“

”میڈیسن لی تو نے۔“

”رات لایا تو تھا، مگر ابھی تک خاص اثر نہ

ہوا۔“

”میں اماں بی سے تمہارے لیے ناشتہ کا کہہ

آؤں۔“

وہ اٹھ کر کچن میں گیا اور انہیں ناشتے کا کہہ کر آیا تو درید کے نقاہت سے بھرپور چہرے پر نظر ڈالی تھی۔

”درید عباس موسم چینیج ہو رہا ہے۔ اس میں لا

پرواہی یوں ہی مہنگی پڑتی ہے۔“

مانا کہ سردی نہیں رہی مگر گرمی بھی نہیں آئی کہ تم کپڑوں سے باہر ہو جاؤ۔“ اس نے درید کی ڈرینگ پر تنقید کی تھی۔ درید مسکرا دیا۔

”بخار کی حدت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے گرمی

محسوس ہو رہی ہے۔“

”ہونے دو۔“ تم بریک فاسٹ کے بعد

میڈیسن لو اور حلیہ درست کرو اپنا۔ درید اس کی

نفاست پسند نیچر سے واقف تھا۔

”تیرے آنے سے کنوار پن کا احساس کم ہو گیا

ہے۔“

بخار کے باوجود وہ باز نہ آیا اس پر حملہ کرنے

سے جو اب اس نے گھورا تھا۔

”شٹ اپ.....“

اس نے آنکھیں دکھائیں تو دل تھام کر تڑپنے

کی بھرپور ایکٹنگ کرنے لگا۔

”جان من کیوں قتل کرنے کی ٹھانی ہے، ہم تو

یہی مرٹھے ہیں ان سنہری کانچ سی آنکھوں پر۔“

اس نے دھائی دی تھی مگر وہ جانے کیوں لب

بھینچ گیا۔ ”سنہری کانچ سی آنکھیں۔“ یہ بات اس

کے کتنے ہی زخم ہرے کر گیا۔“

☆.....☆.....☆

فلک تک چل ساتھ میرے

فلک تک چل ساتھ چل

یہ بادل کی چادر، یہ تاروں کے آنچل میں

چھپ جائیں ہم پل دو پل.....!!

فلک تک.....

”او کے یار..... چل جہاں لے جانا ہے لے

چل ورنہ تو یوں ہی میرا سر کھائے گا۔“

نہال اٹھ کر پاؤں میں یوں چیل ڈالنے لگا جیسے

واقعی طلال اس سے مخاطب ہو۔

”پر پہلے یہ بتا فلک کون ہے؟ تیری کوئی

نئی ”غلط فرینڈ“ تو نہیں۔“

سارے جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر

سجائے وہ طلال کے فیورٹ ساگ اور اس کے

اجھے موڈ کا بیڑا غرق کر چکا تھا۔ جبکہ لیب ٹاپ پہ



اس اچانک حملے پر پہلے ہر اسماں ہوئے پھر بیچ بچاؤ کرنے لگے۔“

”قسم اللہ پاک کی میں روز کے ان جھگڑوں سے تنگ آ گیا ہوں۔“

انہیں بمشکل چھڑا کر بلال نے پھولی سانسوں سے دل تھام کر کہا۔

”اگر آپ انصاف سے کام لیں ہم دونوں میں تو یہ نوبت ہی نہ آئے مگر آپ نے ہمیشہ اسے بے جا سپورٹ کیا ہے۔“

صوفی نے پر بیٹھا طلال مڑے ہوئے مرنے کی طرح ناک پھلائے بولا تھا جبکہ نہال کو درید کمرے میں پھینک آیا تھا۔

”مجھے تجھ سے دشمنی جو ہے۔“

بلال نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔  
محض ایک سال چھوٹا ہے۔ وہ مجھ سے مگر آپ یوں ہی بی ہو کرتے ہیں گویا وہ مجھ سے صدیوں چھوٹا ہو۔ ”کا کا“ بنا کے رکھا ہوا ہے۔“

طلال آج سارا حساب کلیئر کرنے کے موڈ میں تھا۔

”طلال بس کر دے یار۔ اس نے صرف مذاق ہی تو کیا تھا نا۔ اور تم اس کی ٹکڑی بھی دل لگا کر کر دی پھر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔“ اب بے وجہ ہی بڑے بھائی سے الجھ رہا ہے۔ چل دفعہ کر جا کے کرانچوائے اپنا میوزک، درید نے اس کے بکھرے جنگلی چوہے کی طرح کھڑے بال درست کیے تھے۔ طلال پیر پٹختا جھلاتا باہر چلا گیا۔

”اب تم بھی اٹھ کر اپنے دھندے لگو۔ کیا آٹھ بچوں کی ماں کی طرح دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا ہے۔“

درید کی مثالیں ہمیشہ ہی زلی ہوتی تھیں بلال سارا ذہنی دباؤ بھول کر اسے گھورنے لگا۔

انگلیاں چلاتے درید نے بمشکل اپنے انڈے والے قبضے روکا تھا۔ بلال تو ناکام ہو کر منہ پھاڑ بیٹھا تھا۔

”واہ اب کیسے دانت دکھا رہے ہیں۔ جیسے کولکیت والوں نے آپ کو پیسے دے کر فرمائش کی ہو۔ اور اگر میں اسے کچھ کہہ دیتا تو آپ اپنا برسوں پرانا نو نمبر کا جوتا لے کر میرے پیچھے پڑ جاتے۔“

طلال نے بنا لحاظ رکھے لگی لکٹی رکھے بنا بلال کو پکڑا تھا۔

”یار وہ نا سمجھ ہے، چھوٹا ہے تجھ سے۔“

”نا سمجھ صرف آپ کی نظر میں ہے، یہ میرا تو کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ مجال ہے جو کسی بھی لڑکی کو میری طرف متوجہ ہونے دے۔“

”معصوم اور پیارا جو وہ اتنا ہے۔“

”جانے کیوں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کا عذاب اسی وقت نازل نہیں ہوتا۔“ طلال تڑپ کر بولا تھا۔

”پیارا و پیارا نہیں ہے یہ لڑکیاں دیکھ کر اکٹھے کمار کی طرح چھچھور پن پر اتر جاتا ہے۔“  
”اور تو جیسے بہن جی بنا کر انہیں گھمانے لے جاتا ہے۔“

اس بار نہال نے خود جواب دیا تھا۔

”تو میرے منہ نہ لگ۔“

طلال نے اسے دھمکی دی۔

”میرا مرنے کا کوئی ارادہ ایسا ہے بھی نہیں کہ تیرے منہ لگوں جس پر دنیا کا ہر ماؤ تھہ واٹھ ناکام ہو چکا ہے۔“

نہال دو انگلیوں سے اپنی ناک دبا کر یوں منہ بنایا گویا ابھی مرے گا۔ بس یہاں طلال کی برداشت بھی جواب دے گئی اور اس نے لمبے کے ہزاروں حصے میں اٹھ کر نہال کی ”منڈی“ دیوچ لی اور اسے اچھی طرح دھوی ڈالا تھا۔ بلال اور درید



بھی ادھر ہی تھا۔

”وہاں احمد.....“

اسفند اس بار اپنی ہنسی نہ روک سکا تھا جبکہ بلال خطرناک تیور لیے اٹھنے کو تیار تھا۔

”شکر کرو تمہارے ابا جی کا موڈ بدل گیا

ورنہ.....“

درید کو بات مکمل کرنے کا موقعہ نہیں ملا تھا بلال نے آ کر اس پر جو چڑھائی کی کہ اسفند بھی دنگ رہ گیا۔

اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا بلال سے درید کو بچائے۔“

☆.....☆.....☆

آفس سے گھر لوٹا تو شدید سناٹے سے استقبال کیا تھا اس کا۔ پہلے وہ قدرے فکر مند ہوا مگر لاؤنج میں بیٹھ کر ذہن کو ریلیکس کیا تو یاد آیا کہ آج فرائی ڈے ہے اور ظاہر ہے وہ تینوں بھائی ویک اینڈ گزارنے گاؤں چلے گئے ہوں گے مگر درید..... وہ لگتا ہے آج اب تک نہیں لوٹا۔ اسفند نے خود ہی اندازہ لگایا تھا مگر گھر لا کڈ تو نہیں تھا!! اس کا مطلب درید گھر پر ہے وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر فریج چیک کیا سوائے جوس کے اور کوئی قابل قبول چیز نہیں لگی۔ اس نے جگ نکالا اور دو گلاس اٹھا کر چھت پر آ گیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ درید وہیں ہوگا۔

”گڈ ایوننگ۔“

وہ درید کے ساتھ والی چیئر سنبھال کے بیٹھا تھا۔ گلاس اور جگ ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھ دیے۔ خلاف معمول درید بہت چپ تھا۔

”ایمی پرابلم۔“

”ہوں۔“

”مجھے نہیں لگتا کہ میرے نصیب میں اپنا ایک بچہ بھی ہوگا۔ دونوں مجھے کنوارہ ہی مار کر دم لیں گے۔“

”تو مجھ پر کاہے گھوریاں مار رہا ہے سارا قصور تمہارے ابا جی کی رومانٹک نیچر کا ہے۔“

درید کی بے غیرتی پر بلال اچھل پڑا تھا اور لاؤنج میں اتر ہوتا اسفند چاہ کر بھی اپنی مسکراہٹ نہ روک پایا تھا۔

”کینے، بے غیرت، بے شرم۔“

بلال نے صوفے پر دھرے سارے کٹن ایک ایک کر کے اسے مارے تھے مگر وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ دانت نکالتا رہا۔ بلال بار کر دل ہلکا کر کے صوفے پر لیٹ گیا اور انگلیوں سے کپٹی کو دبانیے لگا۔

”بائی دے دے بلال میرے ذہن میں ایک انٹرسٹنگ خیال آیا ہے اگر کہے تو تجھ سے شیئر کروں۔“

تیرے گھٹیا ذہن میں صرف بے ہودہ خیال آ سکتے ہیں دفع کرو۔“

”درید بھیا بتائیں تو۔“

نہال کمرے سے نکل کر پھر سے وہیں آ بیٹھا تھا۔

”اچھا اب تو اتنا کہہ رہا ہے تو خیال یہ تھا کہ اگر تمہارا ایک اور بھائی ہوتا تو اس کا نام کیا ہوتا۔ جمال، بلال، طلال، نہال کے بعد ایسا کوئی ہم قافیہ نام بچتا ہے۔“

آپ کے ذہن میں ہے!!“

”ہے تو۔!!“

بمشکل لب سے مسکراہٹ روک رکھی تھی اسفند نے سر ہلایا کہ باز آ جاؤ۔

”کیا.....!“

صرف نہال نہیں بلکہ انجان بنے بلال کا ذہن



ختم کر پائے تھے۔“ مگر آج درید کو جانے کیا سوچھی تھی۔

”تجھے ہی لگتا ہے..... ایسا کچھ نہیں ہے۔“

”تیری چپ کے پیچھے راز ہے اسفند ضیاء“

ضروری ہے کہ خاموشی پر اسرار ہی ہو یہ میرے مزاج کا حصہ بھی تو ہو سکتی ہے۔“

”یونو اسفند ضیاء میں تجھے بہت زیادہ تو نہیں

جانتا ہاں یہ بات دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ

خاموشی تیرے مزاج کا حصہ نہیں جو تو نے خود پر

طاری کر لی ہے۔“

”ایسا ہے کبھی تو، کیا کرے گا جان کر۔“

”صرف تیرے من کے لگے قفل کھولنا چاہتا

ہوں۔ تاکہ تم زندگی کو اللہ پاک کی خوبصورت نعمت

سمجھ کر جیو۔“

”کیوں چاہتا ہے تو ایسا، کیا رشتہ ہے تیرا

میرا۔“

”رشتے تو من کے احساس سے بنتے ہیں تیرا

دل مانے تو رشتہ بہت گہرا ہے اور نہ مانے تو کچھ بھی

نہیں۔“

”میری تو اپنی ذات پر کچھ بھی نہیں کا لبیل ہے درید

نہ کوئی میرا ہے اور نہ میں کسی کے لیے کچھ ہوں۔“

”یہ تیری سوچ ہے اسفند، ورنہ ہم نے کبھی

تجھے خود سے الگ نہیں جانا بھی تو جانا چاہتا ہوں کہ

تیرے من کو کون سا روگ لگ گیا ہے۔“

”ایک بار پھر بکھر جاؤں گا، بہت مشکل سے

سمیٹ پایا ہوں خود کو۔“

اس کی سہری کانچ سی آنکھوں میں سرخی

نمایاں ہونے لگی۔“

”تجھے لگتا ہے کہ درید عباس تجھے بکھرنے دے

گا۔“

اس نے اسفند کے چہرے پر نظریں جما کر کہا

وہ پہلے چونکا پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اسفند سمجھ گیا

کہ آج پھر اس پر اداسی کا دورہ پڑا ہے۔ ریز رو تو

نہیں رہتا تھا ہاں کبھی اداس کا دورہ پڑتا تھا۔

”لے جوں پی لے۔“

گلاس بھر کے اس کے سامنے کیا اس نے

خاموشی سے تھام لیا۔

”امی کا فون آیا تھا۔“

اکثر یہ خاموشی اسی دن ہوتی تھی جب اس کے

گھر سے فون آتا تھا۔ درید نے محض سر ہلایا تھا۔“

بات تو عجیب تھی مگر سچ کہ درید عباس کے من

میں محبت کا دکھ بہت گہرا تھا مگر اس نے اسفند کی

طرح اپنی ذات گم نہیں کی تھی۔ بھر پور طریقے سے

جیتا تھا لیکن کبھی دکھ شدت اختیار کر لیتا تو!!“

اس کے دکھ کو اسفند ضیاء نے دل کی تمام

شدتوں سے محسوس کیا تھا۔ تبھی اس کا کندھا تھپک کر

وہاں سے ہٹ گیا تھا۔“

وہ تمام کیفیات سب سے چھپا کر رکھتا تھا۔ یا

شاید اس نے اپنا درد اکیلے سہنا سیکھ لیا تھا۔ اگلے دن

درید کا موڈ ٹھیک ہو گیا مگر وہ بہت زیادہ چپ تھا۔

رات بھر وہ کس قدر بے چین رہتا تھا درید واقف تھا

اس نے آج تک ایسی کوئی رات نہیں دیکھی تھی کہ

جس میں اسفند نے سکون پایا ہو۔“

ہاں فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر وہ سوتا تھا اور اس

پر درید ٹوک دیتا تھا کہ یہ نحوست نہ پھیلا یا کر۔“

وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسفند کے اندر کیا ہے مگر دکھ یہ تو

طے تھا کہ کوئی ایسا زخم ہے جو اس کے اندر ہرا ہے۔“

”کون سا روگ لگا بیٹھا ہے خود کو کہ زندگی یوں

بوجھ کی طرح گزار رہا ہے۔“

وہ چپ نہ رہ سکا۔ حالانکہ کتنے ماہ ہو گئے تھے

اسفند کو یہاں آئے اس نے اپنے اور ان سب کے

درمیان ایک فاصلہ قائم رکھا ہوا تھا جسے وہ کبھی نہیں



اور خوب ڈرنک چلتی۔ اور بس اس کی خامیوں میں سب سے بڑی خامی یہ ہی تھی کہ وہ ڈرنک کرتا تھا۔ اس کے کسی فرینڈز کو اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ خود اس کے ساتھ بیٹھ کر پیتے تھے مگر اس کا کلوز فرینڈ سعد رسول اسے اکثر ٹوکتا تھا۔ اور وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا تھا کبھی کبھار فرینڈز کے ساتھ نائٹ کلب میں وہ ضرورت سے زیادہ ڈرنک کر لیتا تو سعد ہی اسے گھر چھوڑتا تھا۔

آج بھی اس کے دوست کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اور اسی لیے وہ جلدی گھر آیا تھا ابھی وہ باتھ سے نکلا ہی تھا کہ اس کے سیل پر پیپ ہوئی وہ تو لیے سے بال رگڑتا وہ موبائل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ اور بس کا بٹن پیش کر کے کان سے لگایا تھا۔

”ہیلو۔“

”گڈ ایوننگ ڈیر کہاں تھے تم؟ کب سے کال کر رہی ہوں۔“

اس نے شدید حیرت سے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اس کی حیرت کی وجہ وہ دوسری طرف سے نسوانی آواز نہیں بلکہ قطعی انجانی آواز اس پر بے تکلف لہجہ تھا۔

”سوری میں آپ کو پہچان نہیں پایا۔“  
”نیور مائنڈ۔“

دوسری طرف بے نیازی سے کھلکھلاتے لہجے میں کہا گیا تھا۔

”آپ کون ہیں.....؟“

مے بی اس کا ذہن کام نہ کر رہا ہو اور وہ پہلے مل چکے ہوں تبھی اس نے لہجے میں سختی نہیں آنے دی۔

”مائی نیم از عینی۔ عینی کنول۔“

اس نے پوری طرح ذہن پر زور دیا تھا مگر اس کے حلقہ احباب میں یہ نام قطعی شامل نہیں تھا۔

”دس از رائگ نمبر ایم سوری۔“

حالانکہ وہ تو صرف اپنی ذات میں بند رہتا تھا مگر آج درید کے سامنے ہار سا گیا۔“  
منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ اکثر ملے وہ بھی بڑی بے رخی کے ساتھ درید کی نگاہیں اس کے رنجیدہ چہرے پر گڑ کر رہ گئیں جس کی آنکھوں میں درد نمایاں ہونے لگا تھا۔ اور لب ہولے ہولے ہل رہے تھے۔

☆.....☆.....☆

اس کا تعلق بھی میڈیا سے تھا ایک ایڈوٹا ننگ کمپنی سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا فوٹو گرافر بھی تھا۔ اپنے پروفیشن کے باعث اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ جن میں میل میملز سب ہی شامل تھے۔ یوں بھی یہ فیلڈ ایسی وسیع تھی کہ وہ قسم نہیں کھا سکتا تھا کہ اس کی کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے۔ اس کے فرینڈز میں لڑکیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔

بائی نیچر وہ بہت فرینڈلی تھا۔ کچھ وجاہت بھی وہ کمال رکھتا تھا کہ لڑکیاں خود ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتیں تھیں۔ اس کے چہرے پر سہزے کا سچ سی شوخیاں اور ہر دم مسکراتی دوسروں کو اپنا گرویدہ کر لیتی تھیں۔ ہاں یہ بھی سچ تھا کہ فرینڈز بہت تھیں مگر گرل فرینڈ والا پورشن ابھی تک خالی تھا۔

اس نے تقریباً تنہا عمر گزاری تھی۔ ماں باپ سالوں پہلے چل بے تھے اور بہن بھائی کوئی نہیں تھا۔ مگر اس نے اکیلے پن کو کبھی خود پر طاری نہیں کیا تھا اور لائف کو بہت مزے سے گزار رہا تھا۔

دن کا بیشتر حصہ وہ باہر سے گزارتا تھا۔ اور فارغ ہو تو فرینڈز کے ساتھ گیدرنگ میں ٹائم پاس کرتا۔ بہت من موجی سا بندہ تھا وہ کبھی اپنے کسی اپارٹمنٹ پر سب فرینڈز کو بلا لیتا۔ خوب ہلہ گلہ ہوتا



”آئی تھنک یو آر بڑی میں رات میں کال کروں گی بٹ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔“  
کیا ڈھیٹ لڑکی تھی۔ اپنی کہہ کر فون بند کر گئی لیکن اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں تھا ان فضول باتوں کو سوچنے کا۔

☆.....☆.....☆

”کیا بات ہے جان من آج ان قاتل نگاہوں میں مسکراہٹ کی جگہ الجھن نظر آ رہی ہے۔“ خمار کی جگہ پریشانی دکھائی دے رہی ہے۔  
اس نے سعد رسول کی بے وقت شاعری پر اسے گھورا تھا۔“

”سب کچھ نظر آ رہا ہے وہ نیند نہیں دکھائی دے رہی جو تیرے باعث پوری نہیں ہوئی۔“  
”میرے باعث۔“

سعد نے حیرت سے دیکھا۔  
”یوں کہے مسٹر اسٹیفن جوزف آپ کو شباب اور شراب نے مدہوش کر دیا تھا۔ ڈانس کرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہ رہا۔“

سعد نے آئینہ دکھایا تو وہ آنکھ دبا کہ ہنس دیا۔  
”ویسے بہت مزہ آیا تھا ناں.....“

”ہاں جی جن کے آگے پیچھے دو شیرائیں مچھر کھیوں کی طرح بھنھناتی ہوں مزہ انہیں ہی آسکتا ہے۔“

”جج جج۔ تو تو جیسے تسبیح کے دانے گن رہا تھا وہاں۔ سلی کمر پر تو میں پھسل رہا تھا ناں۔“

اسٹیفن نے رات کی چوری پکڑ لی تھی اس کی سعد منہ پھاڑ کے ہنس دیا۔

”بالی دے دے آج نشا سرد سے میٹنگ تھی تیری۔“

سعد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے یاد دلایا تو اس کے خوشگوار موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔

”تو چلا جا..... یار مجھے بڑی چڑ آتی ہے اس

”سو واٹ۔ رائگ نمبر کورائٹ بننے میں کتنی دیر لگتی ہے مسٹر.....“  
”واٹ ڈویو میں۔“

”سیدھا سا۔ فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہوں تم سے۔“

”میڈم میں اتنا فارغ بندہ نہیں ہوں۔ کہیں اور شرابی کرو۔“

وہ چڑسا گیا۔ اور لائن کاٹ کر تیاری کرنے لگا۔ کیونکہ اسے اپنے بالوں سے بہت پیار تھا اور وہ جانتا تھا کہ لیٹ ہونے پر اس کے فرینڈز نے گنجا کر دینا تھا اسے۔“

لیٹ نائٹ وہ گھر پہنچا تھا۔ کچھ ڈرنک بھی زیادہ ہی کر لی تھی۔ بیڈ پر گرتے ہی ہوش نہ رہا اور صبح دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ اب ہر کام میں افراتفری کر رہا تھا۔ ناشتا بنا کر ٹیبل پر رکھا تھا اور فرنیچ سے جوس لے کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ سیل چیخنا شروع ہو گیا۔

اس نے بنا دیکھے مصروف انداز میں کال ریسو کی تھی۔

”گڈ مارننگ ڈیئر۔“  
گاڈ۔ اس کے ذہن سے تو لہجہ اور رائگ نمبر

سب محو ہو چکے تھے کہ سویرے ہی پھر۔“  
”فار گاڈ سیک۔ آپ جو بھی ہیں میں قطعاً آپ

کے ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں۔ مجھے تنگ کرنا بند کر دو۔“

”بٹ آئی تھنک آپ میرے لیے مسٹر رائٹ ہیں۔“

”یو آر میڈ۔“  
”آف کورس بٹ صرف تمہارے لیے۔“

”او گاڈ.....“  
اس کا من چاہا سر پیٹ لے اپنا۔



”لسن میڈم یہ ڈرامہ بند کرو اور سیدھے سے  
بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے تنگ کر کے کیا ملتا ہے۔“  
”میں صرف تمہیں چاہتی ہوں۔“  
بے باک لہجہ اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔  
”جسٹ شٹ اپ۔“ بند کرو یہ بکو اس اور مجھے  
سکون سے سونے دو۔“

”میرا سکون چھین کر تم کیسے سکون سے سو سکتے ہو۔“  
”ٹیل می پلیز۔ آخر تم کون ہو؟“  
”یعنی کنول ہوں۔ آئی نو۔ تم مجھ سے تنگ ہو  
بٹ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔“  
”اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے پاس اتنا  
فالٹو ٹائم نہیں ہوتا۔“

”آئی پراس یو میں کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں  
گی بس تم جب تمام مصروفیات سے ایزی ہو جاؤ  
مجھے مس بیل کر دیا کرو۔“  
”یا گل ہوں میں یا میرے سر پر سینگ ہیں۔“  
”یا گل تو میں ہو چکی ہوں تمہارے لیے بنا  
تمہیں دیکھے۔“

”آف گاڈ..... یہ کیا بلا ہے؟“  
مجال ہے جو کسی بات کا اثر ہوتا ہو۔ اگلے دن لنچ  
ٹائم میں وہ سعد سے یہ تمام صورتحال شیئر کر رہا تھا۔  
”تمہاری چاہنے والیوں میں ایک اور کا  
اضافہ۔“

اس کے لہجے میں حسرت تھی۔  
”اللہ میاں جی ہمارے نصیب بھی کھول دو۔“  
”خبیث انسان میں جان چھڑوانے کے چکر  
میں ہو اور تو!!“  
”اسٹیفی اس سے ملنے کا بول ناں دیکھتے تو ہیں  
کیا چیز ہے؟“

”آئی ول کل یو سعد رسول۔“  
”ناؤ سیریس۔“ دیکھ اگر تجھے شک ہے کہ وہ

سے۔ چھپکلی کی طرح چپکنے کے چکر میں رہتی ہے یار۔  
”آئی ڈونٹ کیئر اور یونو مجھے نفرت ہے اس  
طرح کی گرلز سے۔“  
”یونو اسٹیفن اس وقت وہ بیسٹ ماڈل ہے  
پاکستان کی۔“

”سو واٹ سعد..... مجھے اپنا نام بنانے کے  
لیے ایسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔“  
نشا سرمد جتنا اس پر مرتی تھی وہ اتنا ہی دور  
بھاگتا تھا اس سے۔“  
”اچھا تجھ سے کام تھا موڈ خراب نہ کر۔“  
سعد نے اس کی پریشانی پر نمایاں ہوتے بل  
دیکھے۔

وہ بھی گہری سانس لے کر خود کو خواہ مخواہ کی  
بدمزگی سے نکالنے لگا۔ سعد کی باتوں میں الجھ کر  
اسے یاد نہیں رہا۔ ورنہ وہ سعد سے رائگ کال والی  
لڑکی کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دوسری  
طرف اس کے من میں یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اس  
کے کسی فرینڈ کی شرارت ہو۔ جو بھی تھا۔ ایک بار پھر  
وہ یہ بات فراموش کر گیا۔ مگر دوسری طرف وہ ہی  
مستقل مزاجی تھی اور بات کی اتنی پکی تھی کہ عین اس  
وقت کال کی جب وہ لائٹ آف کر کے سونے کی  
تیاری میں تھا۔ جی جان سے جل گیا تھا وہ اس کی  
آواز سن کر۔“

”ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے۔“  
”بی بی گھڑی کی سوئیاں دیکھو۔ اس وقت کسی  
بھی شریف آدمی کو کال کرو گی تو وہ ڈسٹرب ہی  
ہوگا۔“

”ایم سوری مگر تمہاری آواز سے بنا مجھے نیند نہ  
آتی۔ یونو بے شک تمہیں میری آواز سن کر غصہ آتا  
ہے۔ بٹ میرے لیے تم اور تمہاری آواز۔ دونوں  
بہت اسپیشل ہیں۔“



ہمارے کسی فرینڈ کی شرارت سے تو تب بھی ایک بار ملنا تو پڑے گا ناں۔“ تو اسے فون کرناں۔“

کو کہا تھا، جان عذاب میں ڈالنے کو نہیں۔“ اس نے گردن جھٹکی مگر سعد نے کسی نہ کسی طرح اسے قائل کر لیا تھا اور وہ عین ٹائم پر کینے پہنچ بھی گیا تھا۔

وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔

”میں اسے جانتا تک نہیں۔ یہاں تو سینکڑوں لڑکیاں ہیں۔“ کیسے پتا چلے گا ان میں عینی کنول کون ہے۔“

”ہاں اگر وہ خود کال کرے گی تو کہہ دوں گا۔“ سعد کے آنکھیں نکالنے پر اس نے بات مکمل کی۔ اور شام میں ہی اس کی کال آگئی تھی اتفاق سے سعد اس کے ساتھ ہی تھا۔“

وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ سید اس کے چہرے پر بیزاری جل کر رہ گیا۔

”میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔“

”اچھا شکل تو ٹھیک کر۔ جا ڈیٹ پر رہا ہے اور بارہ بج رہے ہیں۔“

”ریٹلی اس کا مطلب ہم دوست بن گئے۔“

”تو..... ملنے کے بعد ڈیسیائیڈ ہوگا۔“

”تھپڑ کھالے گا تو۔ ڈیٹ پر۔“

اس نے فوراً سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔

وہ دونوں چاروں طرف نگاہیں گھما رہے تھے۔

”او کے کب اور کہاں.....“

”وہ اکیلی لڑکی بیٹھی ہے بلیو ڈریس والی۔“

وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی..... اسٹیفن نے اسے

سعد نے آنکھ سے اشارہ کیا۔

ٹائم اور جگہ کا بتا کر فون بند کر دیا تھا۔

”تو! ضروری ہے کہ وہ ہی ہو۔“

”مل لینا جا کے اب۔“

”پوچھنے میں کیا حرج ہے، جا دفعہ ہو۔ میں یہیں ویٹ کرتا ہوں سعد نے اسے آگے کی طرف دھکا دیا اور خود وہیں خالی ٹیبل کے گرد پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔

”کیا مطلب؟؟؟“

سعد نے حیران انداز میں کہا۔

اچھا خاصا بندہ کس چکر میں پھنسا دیا تھا۔

”اسے کیا پتا چلے گا اگر میری جگہ پر تم چلے جاؤ گے تمہاری حسرت بھی پوری ہو جائے گی۔“

”مس عینی کنول۔“

”بڑا کمینڈ ہے تو.....!“

”یونو آج میں بڑی ہوں۔“

وہ عین اس کے سامنے آن رکا تھا اس کے سوال پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

”کل کا ٹائم دے دیتا۔“

”یس!!“

”سچ بتاؤں تو مجھے ملنا ہی نہیں تیری خواہش تھی اب مل لینا اور آ کے مجھے بھی بتا دینا۔“

”دس ازناٹ فیئر اسٹی۔ تم خود جانا۔“

عینی کنول کی نظریں اس کے چہرے پر جیسے جم کر رہ گئیں۔

سعد نے صاف منع کر دیا۔

”میڈم پلیز سٹ ڈاؤن۔“

”اکیلا!!“

بمشکل اس نے لہجہ نارمل رکھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی کہا تھا وہ جیسے چونک کر مسکرا کر پھر سے بیٹھ گئی۔

وہ یوں بولا جیسے وہ کوئی صنف نازک ہو۔“

”کھا جائے گی تجھے۔“

”کہاں پھنسا دیا تو نے۔“ تجھے ہیلپ کرنے



چاہو۔ مگر تم میری چاہت ہو اور تم سے بات کرنا میری مجبوری ہے۔ ”پلیز۔“

وہ صاف انکار کرنا چاہتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں التجا نے اس کی زبان روک لی۔ اور وہ سر ہلا بیٹھا تھا۔

یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ مگر پھر روز رات میں عینی کنول سے بات کرنا اس کی روٹین میں شامل ہو گیا۔

پہلے پہل وہ صرف اس کی سنتا تھا اور ہوں ہاں

میں جواب دے دیتا۔ مگر دھیرے دھیرے جب بے تکلفی ہوئی تو وہ خود بھی عینی کنول سے اچھی خاصی گپ

شپ کرنے لگا۔ اور محض ایک ماہ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں تمام باتیں جان چکے تھے۔

عینی کنول ایک امیر باپ کی اکلونی اولاد تھی ماں باپ دونوں ہی بزنس میں انوالورہتے تھے اور

تہائی دور کرنے کے لیے اس نے فون پر دوستیاں بنانے کا مشغلہ اپنایا تھا۔

اسٹیفن کے علاوہ بھی اس کے بہت سے دوست تھے جن سے فرینڈ شپ اس کی فون پر ہوئی

تھی۔ یہ اس کا شوق بن گیا تھا۔ مگر اسٹیفن دوست سے بڑھ کر تھا اس کے لیے۔

اب ان کی دوستی محض فون تک محدود نہیں تھی وہ اکثر ملتے تھے، کبھی باہر کبھی ڈنر کر لیا اور کبھی وہ

اسٹیفن کے اپارٹمنٹ پر آ جاتی۔ کبھی اسے فون کر کے پوچھ لیتی کہ وہ کب تک بڑی ہوگا..... اور وہیں

سے اسے پک کر لیتی۔ ”اسٹی..... خیریت ہے ناں کچھ خاص اہمیت دینے لگے ہو عینی کو۔“

سعد رسول نے جونٹس کیا کہہ دیا۔ ”ہاں..... بی کوزوہ ہے ہی اسپیشل۔“

اس نے کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ”دھیان سے نشا سرد کو علم ہو گیا کہ تم کسی کی

زلف کے اسیر ہو چکے ہو تو بہت برا ہوگا۔“

اسے دیکھ کر یہ شک بھی دور ہو گیا تھا کہ اس کے کسی فرینڈ کی شرارت ہوگی مگر یہ طے تھا کہ وہ جو بھی تھی۔

حسن و خوبصورتی کا نمونہ تھی۔ نازک سا سراپہ کمر پر لہراتے براؤن بال سیاہ

بڑی آنکھیں۔ ”اب ہم دوست بن سکتے ہیں۔“

وہ مسکرا کر بولی تو وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گیا تھا۔ ”کیا چاہتی ہو تم مجھ سے۔ میں تمہیں جانتا

تک نہیں ہوں۔“ جان پہچان بنانے کے لیے تو آئے ہیں

ناں۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔

”نام جان سکتی ہوں تمہارا۔“ اسٹیفن جوزف۔“

اس کے بولنے پر وہ لمحے بھر کو وہ خاموش سی ہوئی تھی مگر اگلے پل وہ ہی مسکراہٹ دوبارہ اس کے لبوں کا

حصہ بن گئی جو جو پہلے بھی اس کے چہرے پر تھی۔ ”یونو اسٹیفن تمہارے لیے میں غیر اہم ہوں

مگر تم میری دیوانگی بن گئے ہو۔ تمہیں دیکھے بنا چاہنے لگی ہوں میں اور آج تم سے ملنے والے کے

بعد اس دیوانگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔“ ”لیکن میں یہاں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ

پلیز کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو میں بہت مصروف بندہ ہوں۔“

”میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا اور آج بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری مصروفیت میں کبھی تنگ

نہیں کروں گی بٹ پلیز یہ مت کہنا کہ مجھے کال کرنا چھوڑ دو۔“

”وائے۔“ وہ اکتا گیا تھا۔ ”میں تمہیں مجبور نہیں کرتی کہ تم بھی مجھے



”آئی ایم فائن سعد رسول۔“

سینکڑوں بار کہنے کے باوجود بھی سعد نے اسے گھرا کر ہی چھوڑا تھا۔

”تجھے وہم ہو گیا ہے میں نے نارٹل ہی پی ہے۔“

”اندازہ ہے مجھے۔“

اس کے لڑکھڑاتے لہجے پر وہ تپ کر بول تھا۔

”تم یہ چھوڑ نہیں سکتے۔“

”تجھے کیا پرابلم ہے۔“

”یہ اچھی چیز نہیں ہے اور جب اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے تو.....“

”تمہارے مذہب میں منع ہے!! اور اس کے

باوجود تم سب لوگ پیتے ہو سرعام پیتے ہو۔ مجھ پر

پابندی کیوں؟؟“

وہ کبھی کبھی ایسی تلخ بات کہہ جاتا اور سعد سہم

جاتا کیونکہ بات تلخ ضرور ہوتی تھی مگر حقیقت بھی تھی

کہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ برائی عام تھی

ہمارے معاشرے میں۔ ”میں تو نہیں پیتا۔ اسی لیے

تمہیں اپنا سمجھ کر منع کر دیتا ہوں۔ مگر آج کے بعد

نہیں کروں گا..... سو جاؤ گڈ نائٹ۔“

”سعد لسن۔ ایم سوری میں تجھے ہرٹ کرنا

نہیں چاہتا تھا۔“

”میں ہرٹ نہیں ہوا۔“

وہ سعد کو روکنے لے لیے اس کے پیچھے بھاگا

تھا۔ سعد نے سہولت سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا اور

بہت دھیمے سلجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔

”ایک بات کہوں؟ مذہب کوئی بھی ہو برائی

سب کے لیے برائی ہی ہے۔ یہ محض انسان کی اپنی

سوچ کا فرق ہوتا ہے۔“

لحہ بھر کو وہ رساں سے بولا تھا۔

”ناراض ہو گیا ہے ناں۔“

”میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق کس نے دیا ہے اسے۔“

”اچھا تو جا موڈ خراب نہ کر۔“

وہ جانتا تھا کہ عینی نے اسے فون کیا ہے۔

”سعد پتا نہیں مگر عینی بہت اہم ہو گئی ہے

میرے لیے۔“

”اچھی بات ہے ناں، تنہا زندگی گزر نہیں سکتی۔

اور لائف پارٹنر بھی ٹائم پر تلاش کر لینا چاہیے۔“

”لائف پارٹنر۔“

اس نے زیر لب دہرایا تھا مگر مزید کچھ کہا نہیں

اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ عینی کنول کے سامنے

بیٹھا تھا۔

”اچھے لگ رہے ہو۔“

اسکائی بلیو شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس کی

وجاہت نمایاں ہو رہی تھی وہ مسکرایا یہ حقیقت تھی کہ

اسے عینی کی پرشددت چاہت نے اسے اپنی طرف

کھینچا تھا۔ وہ اتنی محبت کرتی تھی تو بھلا کیسے وہ خود کو

محبت کی اس آگ سے بچا سکتا تھا۔ تبھی وہ عینی

کنول کو اس کی شدتوں سے بڑھ کر چاہنے لگا تھا۔

”پتا نہیں عینی کنول اس محبت کا انجام کیا ہے۔“

اس کی سنہرے کانچ سی آنکھوں میں بے

چیدیاں جھلک رہی تھیں۔

”کیوں ہو تم بے یقین۔“ میں تمہارے لیے

جان دے سکتی ہوں مگر تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔“

”میں اتنا جانتا ہوں عینی کہ!!“ میں ادھورا

ہوں تمہارے بنا۔ تمہارے وجود سے میری ذات

مکمل ہو سکتی ہے۔

”آئی نو۔“

اس نے اسٹیفین کی آنکھوں میں جھانکا تو ان

کے سحر میں ہی کھو گئی۔

☆.....☆.....☆



کے اس پہر انسان سوچکا ہوتا ہے۔“ وہ مسکراتے لہجے میں بولی تھی۔

”میں تو ہر رات تمہارے وجود کو محسوس کر کے سونا چاہتا ہوں۔ کب مٹاؤ گی یہ دوریاں، کب ختم ہوگی میری بے قراریاں۔“

وہ بہکے بہکے انداز میں بولا تھا سعد نے بمشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی کیونکہ اس کے خیال میں اسٹیفن۔

”آئی تھنک تم نے آج پھر ڈرنک کی ہے۔“ عینی بھی سمجھ گئی۔

”تمہارے پیار سے زیادہ نشہ نہیں ہے شراب میں۔“

”بٹ اس وقت صرف شراب کا نشہ ہے تمہارے لہجے میں..... تم پلیز سو جاؤ۔“

گڈ نائٹ.....  
”گڈ نائٹ لو یو ڈیر۔“

”آئی لو یو ٹو.....“ عینی کی خوبصورت آواز بند ہونے کے بعد بھی کانوں میں اتری ہوئی تھی۔

”بہتر ہوگا جتنا جلدی ممکن ہو سکے تم شادی کر لو ورنہ تمہاری یہ بے قراریاں کہیں کچھ اور.....“

سعد نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑا۔  
”سو واٹ، بدنام گرنہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ محبت میں انتہا سے گزر جانا ہی دیوانگی ہے۔“

”اچھا دیوانے صاحب مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ تم کھوئے رہو خیالوں میں مجھے سونے دو۔“

سعد نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔  
☆.....☆.....☆

اکثر ہی وہ اس سے ملنے اس کے فلیٹ پر آ جاتی تھی جیسے آج اچانک آ کر اس نے سر پر اتر دیا تھا۔ کیونکہ آج وہ گھر پر تھا۔

”نہیں بس نیند آ رہی ہے۔“  
”تو..... یہیں سو جا اس وقت گھر جائے گا انکل

آئی ڈسٹرب ہوں گے میں فون کر دیتا ہوں۔ زبردستی کھینچ کر اسے واپس لے آیا۔

”ایم سوری سعد پلیز۔“ اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ سعد ہرٹ ہوا ہے۔

”آئی تھنک مجھے عینی کنول سے بات کرنی ہوگی۔ تم اس کی بات کبھی نہیں ٹالو گے۔“

سعد بھی ناراضگی بھول کر بولا تھا وہ ہنس دیا۔  
”لو کچھ اور مانگ لیتے ادھر نام لیا ادھر اس کا فون آ گیا۔“

اس کے موبائل پر صرف عینی کی ہی کال آ سکتی تھی۔ اس نے بنا اٹینڈ کیے سیل سعد کی طرف بڑھا دیا تھا۔

”تو میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا خود بات کرو۔ اس سے تم نے بات کرنی ہے۔“ وہ سر ہلایا

ہو اور جا بیٹھا تھا۔  
”وہ تو ہر وقت صرف مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ یونو سعد شی از کریزی اور اس نے مجھے بھی دیوانہ بنا دیا ہے۔ اب تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بن سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔“

اسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی سعد اس کی دیوانگی کے عالم سے بخوبی واقف تھا۔  
”اوکے، بٹ ابھی کال اٹینڈ کرو۔“

ایک بار بند ہو کر پھر سے موبائل بجنے لگا تھا۔  
”ہیلو ڈیر.....“

لہجے میں کچھ شراب کا خماد تھا اور کچھ اس کے پیار کا۔  
”سو گئے تھے۔“

”اوں ہوں..... ابھی آیا تھا گھر۔ یوں بھی تم سے بات کیے بنا سوسکتا ہوں۔“

”یہ ہی تو پرابلم ہے اسٹیفن جوزف ورنہ رات

پیار کا۔“

”اوں ہوں..... ابھی آیا تھا گھر۔ یوں بھی تم سے بات کیے بنا سوسکتا ہوں۔“

”یہ ہی تو پرابلم ہے اسٹیفن جوزف ورنہ رات



رکھ دیا۔

”تمہارا ساتھ چاہیے اسٹیفن جوزف اور کچھ نہیں جو کہو گے مان لوں گی جہاں رکھو گے رہ لوں گی۔“

اس کے لفظوں میں آنچ تھی جو اسٹیفن کے دل کو چھو گئی اس نے عینی کا بازو تھام کر اسے اپنے پیچھے سے اپنے سامنے بالکل قریب بٹھایا تھا اور اس کے نازک وجود کو بانہوں کی پناہوں میں لے لیا۔

اس پر سحر طاری ہونے لگا تھا۔

”ہاں مگر وعدہ کرو یہ دیوانگی صرف میرے لیے ہوگی اور عمر بھر کم نہ ہوگی۔“

اس کی محبت کا خماری عینی کنول کو بھی مدہوش کر رہا تھا۔ اسٹیفن جوزف اس وقت کمزور لمحوں کی گرفت میں تھا اس نے لبوں سے عینی کا چہرہ چھوا تھا۔ عینی کی قربت اسے بہکا رہی تھی۔ اس کا تنفس تیز ہونے لگا تھا۔

اس سے پہلے کہ اس کی مدہوشی حد سے گزرتی۔ یکدم اسے ہوش آیا تھا اور اس نے عینی کو جھٹکے سے دور کیا تھا خود سے اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔

”اوگاڈ۔“ دس ازرائنگ۔“

دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ نفی میں سرسلا رہا تھا عینی دنگ سی اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔

جس ماحول میں دن رات وہ رہتا تھا وہاں صحیح غلط کا اندازہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس تھا بھی وہ شرمندہ تھا۔

”یہ کیا کرنے لگا تھا میں۔“

”او کے جسٹ ریلکس شاید دیوانگی اسی کا نام ہے۔“

”بٹ دس ازرائنگ۔ مجھے لمٹس کر اس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایم سوری عینی پلیز۔“

”اگس او کے۔“

اس نے اسٹیفن کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر

”سر پرائز براتو نہیں لگا۔“

”وائے۔“ اس کی سارے جہاں سے خوبصورت آنکھوں والی مسکراہٹیں تھیں جو عینی کنول کو دیکھ کر گہری ہو جاتی تھیں۔

”یہ گھر بھی تمہارا ہے اور میں بھی جب بھی آؤ گی تمہیں منتظر ملیں گے۔“

”اور نیلی۔“

”میرے پیار کی سچائی میری آنکھوں میں نظر نہیں آتی جان من۔“

”ان آنکھوں میں جو نظر آتا ہے وہ میرے وجود کو پکھلا دیتا ہے۔ دیوانگی دونوں طرف برابر تھی۔“

”کیا لوگی۔“ اس نے ماحول پر چھائے اثر کو زائل کرنا چاہا۔

”آج میں بناؤں گی اور تم چپ کر کے پی لو گے۔“

”کیا.....!“

”بلیک کافی.....!“

”او کے۔“ اس نے کندھے اچکائے عینی کچن کی طرف چل دی وہ وہیں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔

”اسٹیفن تمہیں نہیں لگتا یہ فلیٹ چھوٹا ہے۔“

کافی کاگ اس کے سامنے رکھ کر بولی تھی۔ اپنا گ ہاتھ میں لیے وہ وہیں کھڑے کو کر تمام جائزہ لینے لگی۔

اسٹیفن نے گردن موڑ کے اسے دیکھا جو عین اس کے پیچھے کھڑی تھی۔

”میرے خیال میں ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔“

عینی اس کی شوخ سی بات پہ کھل کر مسکرائی تھی اور بالکل اس کی پشت کے پاس آ کر بانہیں اس کے شانوں پر پھیلا دیں۔ چہرہ اس کے سیاہ بالوں پر



بٹھایا پانی دیا۔

”تم میرا جنون بن گئی ہو میں نہیں رہ سکتا اب مزید تمہارے بنا پلیز عینی۔“

بلیوی۔ ”یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ (وہ بولی)

”مشکل کیا ہے؟ اسٹیفن کی آنکھیں اس کے

جواب پر حیرت سے پھٹ گئیں۔

”تم جانتے ہو اسٹیفن کہ تمہارے اور میرے

بیچ کیا رکاوٹ ہے۔“

”یو مین کہ تم مسلمان ہو اور میں!!“

عینی اسے خاموش کرا گئی۔

”تمہارے لیے یہ میری محبت سے زیادہ اہم

ہے ہزاروں شادیاں ہونی ہیں ایسے دنیا میں۔“

”ہوتی ہوں گی مگر میں تم سے ایسے شادی نہیں

کر سکتی۔“

”یعنی یہ شرط ہے تمہاری۔“

”ایسا نہیں ہے اسٹیفن مگر میں کوئی ایسا قدم

نہیں اٹھا سکتی جو ہمارے معاشرے میں غلط سمجھا

جاتا ہے۔“

”معاشرے کی اتنی فکر ہے تمہیں۔ اور عینی تم

اس وقت میرے گھر پر میرے ساتھ موجود ہو۔ یہ

معاشرے کے لیے صحیح ہے دن رات مجھے فون کرتی ہو۔

”وہ میری محبت ہے کہ میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن

کیا تم میرے لیے یہ نہیں کر سکتے۔“

”کیا.....!!“ یہ ہی کہ تم اسلام قبول کر لو۔

کئی لمحے ان دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔

”تم مجھ سے میری سانسیں بھی مانگ لو تو عینی

کنول میں انکار نہیں کر سکتا۔ تم جیسا چاہتی ہو میں

تیار ہوں صرف تمہیں پانے کے لیے۔“

”ریٹلی اسٹیفن۔“

بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اسٹیفن نے سر ہلا دیا۔

اس کے خیال میں تو صرف عینی کنول کی محبت

اہم تھی اب جو وہ چاہتی تھی۔

اس نے حامی بھری تھی۔

”میں کل صبح تمہیں لینے آؤں گی۔ قاری

صاحب کے پاس چلیں گے۔“

”جہاں لے جاؤ گی چل پڑوں گا۔ مجھے صرف

تمہیں پانا ہے اور بس اس نے اقرار کی مہر لگا دی۔“

سعد رسول کو اس نے یہ نیوز دی تھی وہ دائرہ

اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ تو سعد نے بہت خوشی

سے اسے گلے لگایا تھا بہت خوش ہوا تھا۔

”محبت ہو یا دوستی یہ کبھی کسی مذہب یا ذات

کے فرق کو نہیں تسلیم کرتی۔ میرا ایمان میری محبت

ہے اور میری محبت کی یہ خواہش تھی جس کا میں نے

احترام کیا۔“

سعد رسول کے چہرے پر یکدم خوشی کے

تاثرات ختم ہو گئے تھے۔

”تم جانتے ہو تم نے جو دین اپنایا ہے اس کے

لیے دل کی رضامندی اور دل سے ایمان لانا سب

سے اہم ہے۔“

”دیکھو سعد میں نے دل و دماغ کی رضامندی

سے ہی یہ فیصلہ لیا ہے۔“ اس نے سعد کا چہرہ دیکھا۔

”مگر اس فیصلے میں تمہارا مرکز اللہ کی ذات

نہیں عینی کی خوشی اہم ہے۔ تم نے عینی کو پانے کے

لیے یہ دین قبول کیا ہے۔ اللہ کی رضا کو پانے کے

لیے نہیں۔“

”تم کیوں مجھ سے اب یہ بحث کرنا چاہتے

ہو۔ تمہارے لیے میری خوشی اہم نہیں۔“

”ہے اور میں تمہارے لیے بہت خوش بھی

ہوں۔ اللہ پاک تمہیں سارے جہاں کی خوشیاں

عطا کرے۔“

اس نے اس کے شانے کو تھیک کر کہا تھا۔ اور

مسکراتے ہوئے اسے گڈ لک کہہ کر چلا گیا۔ ہاں



ساتھ ہوتے ہوئے عینی کے پاس کوئی کال آئی تھی اکثر ہی اس کی کالز آتی تھیں کیونکہ فون پر دوستی کرنا اس کی ہابی تھی۔

مگر آج پہلی بار اسے برا لگا تھا۔ وہ کتنا سیریس تھا شادی کے ٹاپک کو لے کر جبکہ عینی کو فکر ہی نہیں تھی۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ گیا۔

جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اب عینی کی دیوانگی سرد پڑنے لگی ہے یا شاید وہ واقعی اس کے لیے کریزی ہو رہا ہے۔

”یہ کیا حرکت ہے کیوں اٹھ آئے تم۔“  
”تمہیں فرق فرق پڑتا ہے میرے ہونے یا نہ ہونے سے۔“

”اسفند تمہارے ساتھ کیا پر اہلم ہے۔“  
”میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم کسی اور سے بات کرو مجھے اچھا نہیں لگتا۔“ اس نے صاف گوئی سے دل کی بات کہہ دی۔

”وہ میرا دوست ہے اور یونو ویری ویل یہ فرینڈ شپ کرنا میری ہابی ہے۔“ یہ میں نہیں چھوڑ سکتی۔  
اسفند ضیاء اس وقت خاموش ہو گیا مگر اب اکثر ہی ان میں یہ بحث شدت اختیار کرنے لگی تھی۔ اسفند کے چہرے کا اضطراب ان دنوں چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ بھی سعد کو پوچھنا پڑا۔ حالانکہ اس نے اسفند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔

”کیوں بے چیدیاں جھلک رہی ہیں ان سنہری آنکھوں میں۔“  
”تھنگ.....!!“

وہ سعد کو کیا بتاتا کہ عینی کے سرد پڑتے جذبات نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ جتنا اس کے لیے پاگل تھی اب لا پرواہ ہو رہی تھی۔

”اتنے فاصلے نہیں ہوئے ابھی ہم میں کہ تیری آنکھیں مجھ سے دل کا حال کہنا چھوڑ دیں۔“

اسے اپنے بیسٹ فرینڈ کے اسلام قبول کرنے کی جو خوشی ہوئی تھی وہ اب نہیں رہی تھی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا سعد رسول نے۔

اور اب وہ تھا اور عینی اور ان کی دیوانی محبت۔  
”عینی اب کس بات کے انتظار میں ہو۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو ناں۔“

”اسفند ضیاء میں نے ان سے بات کی ہے پلیز کچھ ویٹ کرو۔“  
ڈیڈ سنڈے کو فارغ ہوں گے میں تمہیں ان سے ملواؤں گی۔“

وہ ساحل سمندر پر بیٹھے تھے اور آج اسفند بہت سنجیدہ تھا اس ٹاپک کو لے کر اب عینی کیوں دیر کر رہی ہے۔ جبکہ عینی نے جو کہا اس نے آنکھیں بند کر کے مانا تھا۔

کیونکہ اس نے پوری سچائی اور دل کی تمام شدتوں سے عینی کو چاہا تھا۔  
”تمہارا موڈ کیوں آف ہے۔“

وہ اپنے موبائل پر آنے والے ایس ایم ایس کو چیک کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔  
”سیدھی سے بات ہے اب ایک پل بھی تم بن نہیں گزرتا۔“

”اوگا ڈیو آر کریزی اسفند ضیاء۔“  
یہ نام بھی عینی کی پسند تھا ورنہ قاری صاحب نے اسے احمد ضیاء کا نام تجویز کیا تھا مگر اس نے تو وہ ہی کرنا تھا جو عینی کی چاہت تھی۔  
”ہاں ہوں۔“

اس نے قدرے غصے سے کہا تو وہ ہنس دی۔ تبھی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تھی اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔

”ہائے تابش۔ سوری یار میں بزی تھی۔“  
حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اس کے



”دل ہی تو احمق ہے کسی حال میں خوش نہیں  
تھی۔“

”میں اس سے خود بات کر لوں گی۔“  
اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ سعد نے اسے دیکھا۔

”کب.....!!“ میں آج کل بڑی ہوں  
فرصت ملتے ہی۔“

”جبکہ تم جانتی ہو کہ وہ کتنا فکر مند ہے۔“  
”دس ازناٹ مائی پرابلم..... اسے سمجھا دو۔“  
”عینی بات کیا ہے؟ تم سے ملنے کے بعد مجھے  
بھی اندازہ ہوا کہ اسفند سچ ہی پریشان ہے تمہارا  
لہجہ بہت بدلا بدلا سا ہے۔“  
”یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔“ میں تم سے ڈسکس  
نہیں کر سکتی۔

”او کے، بٹ ریسمیر میرے دوست کو ذرا سی  
بھی ٹھیس پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔“  
سعد جانے کیوں جذباتی ہو گیا۔  
”اوہ تو ٹھیک ہے جا کے سنبھالو اپنے دوست کو  
کیونکہ میں شادی کر رہی ہوں تابش سے اور کل ہمارا  
نکاح ہے۔“

وہ سعد کو شاک کی کیفیت میں چھوڑ کر اپنی بات  
کھل کر کے چلی گئی۔

☆.....☆.....☆

بہت کوشش کی اس نے کہ اسفند کو بتا دے مگر وہ  
یہ ہمت خود میں پیدا نہ کر سکا۔ دو دن کشمکش میں گزر  
گئے۔ مگر اس کی حالت دیکھ کر کچھ بتانے کی  
ضرورت نہیں پڑی تھی وہ اپنے کمرے میں بے  
سددھ پڑا تھا۔ کمرے میں سگریٹ اور شراب کی بو  
اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا محال تھا۔ مگر  
ساکت پڑے اسفند کو دیکھ کر وہ اس کی طرف اپنا  
”اسفند۔“ اس نے اسفند کو دونوں بازوؤں سے  
تھام کر اٹھایا اور اس کا گال تھپکا تھا مگر وہ قطعی ہوش میں

”عینی سے جھگڑا ہوا ہے۔“  
”وہ ملتی کب ہے اب کال کرو تو نمبر بڑی ہوتا  
ہے۔ پورا ایک ہو گیا ہے سعد جانے کیوں میرا دل  
وہموں کا شکار ہو رہا ہے۔ سعد اس کے بغیر نہیں جی  
سکتا۔ مر جاؤں گا۔“

”اللہ پر بھروسہ رکھو۔ انشاء اللہ جو ہوگا بہتر  
ہوگا۔ شاید اس کی کوئی مصروفیت ہو۔“  
”کچھ بتائے تو سہی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ  
اپنے پیرینٹس سے بات کر چکی ہے اور اتوار کو اس  
نے مجھے اپنے ڈیڈ سے ملوانا تھا۔ بٹ اس نے مجھ  
سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔“

”ہو سکتا ہے اسی بات کو لے کر ان کے گھر میں  
کوئی پرابلم ہو اور وہ تمہیں پریشان نہ کرنا چاہتی ہو۔“  
”سعد اس کے پیرینٹس اچھے خاصے لبرل  
ہیں۔“ عینی ان کی اکلوتی اولاد ہے مجھے نہیں لگتا کہ  
وہ اس چیز کو ایشو بنائیں گے۔“

”پھر تجھے کیا بے چینی ہے؟“  
”عینی کا بدلتا رویہ۔“ اس نے دل کا خدشہ  
ظاہر کیا۔

”او کے میں عینی سے بات کروں گا تو کیوں اتنا  
ٹینس ہو رہا ہے۔ سعد نے اسے تسلی دی تھی اور محض تسلی  
نہیں تھی اس نے عینی سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا۔

”اسفند بہت اپ سیٹ ہے تم سے ملنا ہے۔“  
”او کے۔“ عینی نے کہا تھا اور وہ سعد نے  
جہاں بلایا آئی بھی تھی۔“

”یونو ویری ویل کہ تم اس کے لیے کیا ہو۔ اس  
کے پاس دنیا میں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی رشتہ  
نہیں بچا ہے۔ وہ وسوسوں کا شکار ہے۔“

سعد کی بات کے جواب میں وہ خاموش ہو رہی



اور سعد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔  
 ”تم واقعی میری دیوانگی بن گئے تھے مگر جب  
 تابش سے میری دوستی ہوئی اور دھیرے دھیرے ہم  
 قریب آئے تو مجھے محسوس ہوا کہ تم سے محبت محض  
 میری جذباتیت تھی محبت تو مجھے تابش سے ہے اور  
 اتنی شدید کہ اس کے بن اک پل بھی سانس لینا مجھ  
 پر بھاری گزرتا ہے۔“

اسفند ضیاء کا دل ماتم کرنے لگا کہ جس لڑکی کو  
 اس نے دیوانگی کی تمام حدوں سے چاہا وہ.....  
 ”میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں اسفند، ہم  
 ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔“  
 ”تمہیں لگتا ہے عینی کنول کہ اب مجھے تمہاری  
 شکل بھی دیکھنی چاہیے۔“

”تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے اسفند  
 ضیاء تم غیر مسلم تھے اور تمہیں دائرہ اسلام میں داخل  
 کرنے کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔“  
 ”اور اگر تم ایسا سمجھتی ہو کہ تمہیں اس کا ثواب  
 ملے گا تو تم غلط ہو عینی کنول تم ایک دھوکے باز عورت  
 ہو۔ تم جس طرح میرے دوست کی زندگی برباد کی  
 ہے اس کا دل توڑا ہے۔ وہ آہ عمر بھر تمہارا پیچھا  
 کرے گی۔“ سعد مزید چپ نہ رہ سکا۔

میں جا کے تمہارے شوہر کو تمہاری حقیقت  
 بتاؤں گا کہ تم کس قدر گری ہوئی ہو۔“  
 ”اچھا! کوشش کر کے دیکھ لینا۔“  
 وہ تلخ مسکراہٹ اچھالتی چلی گئی۔ اور اسفند  
 ضیاء سعد رسول کی باہوں میں ڈھے گیا تھا۔  
 ”میرے سچے جذبوں کے ساتھ اتنا بڑا  
 مذاق۔“

”اللہ تو دیکھ رہا ہے ناں۔“  
 سعد نے اسے خود سے بھینچ لیا۔  
 دوسرا حصہ اگلے ماہ پڑھنا نہ بھولے

نہ تھا پھر اسے ایمر جنسی میں اٹھا کر وہ ہاسپٹل لایا  
 تھا۔ جہاں اسے فوری ٹریٹ منٹ دی گئی تھی۔  
 ”ضرورت سے زیادہ ڈرنک کے باعث ان  
 کی یہ کنڈیشن ہوئی ہے۔“  
 یہ ڈاکٹر کی رائے تھی۔

”یہ روٹین میں ڈرنک کرتے ہیں۔“  
 ”اتنی زیادہ نہیں کرتا کبھی کبھی بس فرینڈز کے  
 ساتھ۔“

”آپ کو اندازہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈرنک ان کی  
 کڈنیز کے لیے بھی پرابلم بن سکتی ہے۔  
 اب وہ کیا سمجھائے ڈاکٹر کو کہ صدے اور دکھ  
 کے باعث اس نے زیادہ پی لی ہے ورنہ وہ کبھی  
 حواس نہیں کھوتا تھا۔“

دو دن کی ٹریٹ منٹ کے بعد وہ کچھ بہتر ہوا تھا  
 مگر سعد کی گود میں سردھرے جب وہ بچوں کی طرح  
 بلک بلک کر رو دیا تو سعد کی آنکھیں بھی نم کر گیا.....!!  
 وہ کیسے اسے حوصلہ دیتا۔ وہ تو خود شاک میں تھا۔

”کیوں سعد کیوں؟؟ ایسا کیوں کیا اس نے  
 میرے ساتھ۔“  
 ”شاید وہ تیرے قابل ہی تھی۔ اللہ پاک نے  
 تیرے لیے یقیناً اس سے کہیں بہتر لڑکی منتخب کی  
 ہوگی۔“

”سب کچھ چھین کر اب کیا دے گا وہ مجھے۔“  
 ”استغفر اللہ..... ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے  
 اسفند..... وہ ہمیں ستر ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے  
 اسی لیے ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو وہ ہمارے لیے  
 چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اسی میں ہماری بھلائی  
 ہے۔“ وہ کافی دیر اسے سمجھاتا رہا۔

اسفند کی ذہنی حالت بہت ابتر تھی۔ ایک ہفتہ  
 مکمل ہو چکا تھا مگر وہ سنبھل نہ سکا۔ اور پھر جب کچھ  
 حوصلہ ہوا تو عینی کنول پھر اس کے سامنے آ گئی۔ وہ




## انجم اے راحت کے قلم سے تخلیقی پانے والا ایک لافانی سلسلہ

### ہم شکل

جستجو کو ہوا دی  
ڈاکٹر نے کہا  
”تمہیں برین کینسر ہے..... تمہاری عمر  
مختصر ہے.....“  
”نہیں ڈاکٹر..... مجھے کینسر نہیں ہے.....“  
اور اگر ہے تو بھی میں نہیں  
مروں گا..... میں بہت لمبی عمر جیوں  
گا.....“  
موت سے بچہ کش ایک سرکش نوجوان کی  
ناقابل فراموش داستان  
کیا اُسے ساتوں ہم شکل ملے؟  
کیا اُس نے موت سے جنگ کی؟

ایک نوجوان کی سرگزشت، جسے بچپن کی  
ایک بات یاد تھی  
جب اُس کی دادی اماں نے کہا تھا۔  
”اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کے  
سات ہم شکل بنائے ہیں.....“  
”کہاں ہیں وہ.....؟“  
”لو..... یہ تو اللہ ہی جانے بیٹا۔“  
”ٹھیک ہے..... میں انہیں تلاش کروں گا۔“  
کیا یہ روایت درست ہے؟  
اسی روایت کی کھوج میں نکلے اُس  
نوجوان کی کتھا.....  
جب ایک ڈاکٹر نے اُس کے جذبہ

**ایک انوکھی داستان..... جو سچی کہانیاں کے صفحات پر آپ کی منتظر ہے**





## انٹرن

اس کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی جب اس کی ساس نے عزت کی خاطر ایک مہنگا سا سوٹ لنڈا سے خریدا وہ اسے استری کر رہی تھی جب اس کا شوہر جس سے راتوں کو دیر سے آنے پر اس کی بات چیت بند تھی اس کے پاس آ گیا۔ ایک سادہ سا کاشن کا.....

یہ فکر ہوتی اس نے کھانا کھایا کے نہیں رات میں چھپر تو نہیں کرتے نیند پوری ہوئی کے نہیں جاتے ہوئے ناشتہ کیا کہ نہیں۔ جب وہ کالج جا رہی ہوتی اس کی ماں اس کی چوٹی میں اپنا پورا کا پورا پیار لپیٹ دیتی۔ ایک ایک بال میں اس کی ماں کی انگلیوں کی نرماہٹ ہوتی جو دیر تک اسے مسرور کئے رکھتی اس کی ماں اس کے گھر سے نکلتے ہوئے بس ایک جملہ کہتی ”جا پتر تجھے اللہ سوہنے کو سونپا“

کہنے کو یہ ایک جملہ تھا لیکن اسے لگتا اس کی ماں نے واقعی اللہ سوہنے کو اس کے ساتھ کر دیا ہے کبھی کوئی شرارت کرنے کو دل چاہتا کسی کی طرف دیکھنے کو نگاہ اکساتی بھی جو کے اس کی عمر کا تقاضہ تھا وہ ایسے نظر بچا کے چلتی جیسے کوئی اس کی من وعن شکایت لگا دے گا۔ ماں کو دکھ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے کبھی اپنی عمر میں کئے جانے والے شغل کئے نہ کلاسیں بن کر کے کوئی قلم دیکھی نا گھومنے گئی نہ کسی کو چوری چوری آنکھوں آنکھوں

اس کا خیال تھا۔ سب لوگ اسے نگی کہہ کر بلائیں۔ اور یہ خیال اسے بس اچانک ہی ہوا تھا۔ اس کا نام تو نگہت تھا لیکن اپنی سہلیوں میں اسے نگی کہلوانا پسند تھا۔ ایک ہی بھابھی اور بھائی تھا ان دونوں کا خیال تھا انٹر کے بعد بھی پڑھانے کا فیصلہ اس کے چوکیدار ابا کا سب سے غلط فیصلہ تھا لیکن اسے لگتا تھا پڑھنے سے ایک نئی دنیا ایک نیا جہان تھا جو اس پر کسی راز کی طرح آن کھلا تھا۔ پورا کا پورا۔ نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر۔ گھر میں اگر کسی کو اس کی باتیں سمجھ آتی تھیں تو وہ اس کی ماں تھی۔ ابا بس اس کے ساتھ اتنا تھا جتنا اسے اپنے فیصلے کو ٹھیک ثابت کرنے کی ضرورت ہونے تک میں اس کا ساتھ دینا تھا اس کی ماں نے اسے جو حسرتیں کبھی نہ کی تھیں ابا ان حسرتوں کو اپنے ساتھ لئے پھرنا دوپٹہ ایسے اوڑھ سر جھکا کے چلا کر گلی میں۔ کوئی ایک کہہ تو تو دومت سنانے بیٹھ جایا کر۔ سر جھکا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کر رہی اس کی ماں تو اسے بس



گیا حالکے وہ تو نہ لینن کو جانتی نہ کیونزم کو وہ تو  
ایک چھوٹے سے ویڑے میں رہنے والی لگی تھی  
جسے تھوڑی سی الگ زندگی چینی کی عادت تھی  
وہ تو صرف یہ چاہتی تھی عام لوگوں کی طرح  
پیدا ہونے چینی اور مر جانے کے ایک سرکل کا حصہ  
نہ ہو بلکہ سرکل میں مرکزے کی حیثیت سے زندگی  
کا ایک نیا ڈا، این اے خود دریافت کرے۔ لوگ  
اسے اس کے چلے جانے کے بعد بھی یاد کریں۔

لیکن صفدر اس کے اس راستے کا سب سے  
بڑا پتھر بنتا جا رہا تھا وہ اسے پیغام بھیجے جاتا جو کبھی  
آنکھوں آنکھوں ہوتے کبھی گوری کے رویہ میں  
چھپے ہوتے جس دن گوری اس سے بے تحاشہ  
گڑگ بات کرتی اس کی سر سے لے کر پیر سے  
لے کر اس کی آنکھ کے تل میں بھی کوئی نہ کوئی خامی

کوئی پیغام دیا۔ یہ سب کچھ تھا لیکن اچانک صفدر  
اس کی زندگی میں چلا آیا اس کی فرنیڈ گوری کا  
بھائی۔ جو بہت کم کسی کی طرف متوجہ ہوتا گوری کا  
اب اس کے لئے نظر بھی بدل گئی تھی اور نظر یہ  
بھی۔ اب گوری اس سے کتراتی گزر جاتی اس کو  
اپنی باتوں میں چوکیدار کی بیٹی کا طعنہ دیتی اور وہ  
ایسے طعنہ پر اتر جاتی [جبران کہتا ہے جو ہاتھ  
کانٹوں کا تاج بنا سکتے وہ ان ہاتھوں سے بہتر ہیں  
جو کچھ نہیں کرتے]

تمہارے کہنے کا مطلب ہے صرف تمہارے  
ابا کام کرتے ہیں باقی ہم سب کے باپ بے کار  
ہیں

اس جملے کے حلق سے نکلتے ہی جیسے خلق نے  
سن لیا اس پر کمیونسٹ ہونے کا الزام تک لگا دیا





اپنی ٹھنڈی سانس سے حنوط کرنا چاہتی ہو۔ اس کے پاؤں کا رپٹ میں دھنسنے جا رہے تھے جب وہ صفدر کی امی کے سامنے پہنچی صفدر اپنی پسند پر اترتے ہوئے ماں کو دیکھتا کبھی اسے۔ اس نے اماں کے سیکھائے سارے سبق ری کال کئے اور جھک کر صفدر کی امی کو کورنش بجالائی صفدر کی امی کھل کھلا کے ہنسیں ان کے دانت بڑے ہی چمکیلے تھے کوئی اور وقت ہوتا تو وہ تعریف کئے بغیر نہ رہتیں۔ لیکن گئی کو لگا وہ اس پر ہنس رہی ہیں

”یہ لڑکی ہے جس پر اتنا اترتے پھر رہے تھے۔ جو کر لگتی جو کر اس سے اچھی تو ہماری نوکرانی ہیں“ اس نے بہت کہا آنکھوں کو ”نہیں تو نے قسم ہے جو آنسو نکالے لیکن پھر بھی آنسو نکل ہی آئے۔ صفدر کی امی نے گوری کو حکم دیا وہ اس کا حلیہ بدلیں شاید انہیں وہ زاویہ نظر دکھائی دے جائے جس نے ان کے لاڈلے بیٹے صفدر کو گھائل کر دیا تھا وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن صفدر کی التجا بھری نگاہ نے اس کے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈال دی کہ وہ جا نہیں سکی۔ گوری نے اسے تیار کروانے کے لئے اسے میڈ کے حوالے کر دیا وہ آئینے کے سامنے کسی باربی ڈول کی طرح تیار ہو رہی تھی جب ایک ملازمہ نے شور مچا دیا

”یہ لباس بیگم صاحب نے مجھے دیا تھا اس لڑکی کو کس نے پہنایا۔“  
نگی خالی آنکھوں سے اس ملازمہ کی طرف دیکھنے لگی

یہ لباس اس کا تھا تو مجھے کیوں؟  
ادھورا سوال ادھورے لہجے تک آتے آتے تھک گیا۔ ملازمہ تنک کر بولی ”تمہیں کیا لگتا ہیوہ تمہارے لئے لاکھوں کا کوئی لباس خراب کرتیں۔ اترن پہنا دی یہی بڑے پن کی نشانی

ملاش کرنے میں جتی ہوتی اسے پتہ چل جاتا رات پھر اس کو لے کر گوری اور صفدر میں دھواں دھار ہوئی ہے۔ وہ اس موقعوں سے بچ کر چلتی جیسے کوئی رندوں میں پارسا اپنا دامن بجا کر چلتا ہو۔ لیکن وہ جب اس دائرے سے نکلتی تو آنکھ کے لشکارے محبت کے خوشاختہ چھینٹے اس کے دامن کو داغدار کئے ہوتے۔ صفدر ہر روز آجاتا اور ایک ہی بات کرتا ”مجھے تم سے محبت ہے مجھے ٹھکراؤ مت۔ وہ بھی انسان تھی کب تک ایک دیوار کی طرح ایکٹ کرتی رہتی۔ اس کے دل میں صفدر کے نام کی سیندھ لگ گئی تو وہ تو مرد تھا ایک معمولی جگہ سے حق جاتا اس کے اندر گھستا چلا آیا اس نے اس سے ملنے کے لئے پہلی بار اپنے ساتھ کئے اللہ سونے کو جھوٹ لگایا اور صفدر کے ساتھ لہجہ پہ گئی ماں کو جھوٹ لگایا کے پیر کی کڑی تپسوں میں جتی تھی۔ ماں سیدھی مان گئی لیکن اس کا دل ماں کا حمایتی نکلا دوسری بار ہی بول پڑا

”اگر واقعی چاہتے ہو تو رشتہ لے کر گھر آؤ۔ گھر والے نہ مانے تو تمہارے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہوں“  
صفدر نے مونچھوں کو تالا دیا ”سوچ لو بہت بڑا قول دے رہی ہو“

نگی ایسی ہے دل کی درویش جو قول دیا سو دیا۔ لے آؤ اپنے اماں باوا کو“  
صفدر گیا پھر دوسرے دن گوری نے پیغام دیا اماں پہلے اکیلے میں ملنا چاہتی ہیں۔

اس نے اس کی بات مان گئی اور ماں کا جھوٹ لگا کر گوری کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اف وہ گھر تھا۔ ایسے گھر تو اس نے انگلش فلموں کے فیری ٹیل میں دیکھے تھے یا کلیئڈرز پر اور ایسی ٹھنڈی سانس بھری کے جیسے چپکے سے اس منظر کو



## خانہ کعبہ

☆..... دنیا کی سب سے پہلی

عمارت ہے۔

☆..... دنیا کی سب سے منفرد اور

پاک عبادت گاہ ہے۔

☆..... دنیا کی سب سے بڑی

مسجد مسجد الحرام ہے۔

☆..... دنیا کی واحد عمارت ہے

حس کو غلاف سے ڈھانپا جاتا ہے۔

☆..... دنیا کی واحد عمارت ہے

جو ساری دنیا کے وسط میں ہے۔

حسن انتخاب: افشاں۔ لندن

ہے۔ ذرا بھی عزت نفس ہے تو پھر شکل مت دکھانا۔ اگر کم وقت میں زیادہ کمانا چاہو تو یہ رشتہ بھی کافی ہے۔ ڈرسنگ روم میں گئی اور اپنے کپڑے پہن کر باہر آگئی پھر صفر کافی مرتبہ آیا وہ ملی نہیں پھر ایک دن مجبور ہو کر ملی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا "بس اتنی سی بات۔ میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔

وہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں دلوادوں گا تمہیں ایک سے ایک کپڑے۔ تم میرے ساتھ چلو مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ میرا مذاق اڑاتی رہیں تم انہیں نہیں روک سکے انہوں نے مجھے اترن پہنا کر میری عزت نفس کو اپنے پیروں تلے کچلا تم کچھ نہیں بولے۔ میں کیا توقع رکھوں اور کیوں توقع رکھوں

وہ گھر آگئی اس نے کالج چھوڑ دیا ان ہی دنوں اس کے ابا نے اس کا ایک رشتہ طے کر دیا بھابھی اپنے شوہر سے چچی ماگوئیاں کرنے لگیں "جتنے اچھے کھانے پہنے کی عادت ہے وہ وہاں جا کر گزارہ کر ہی نہ لے"

'میری بیٹی بڑی سمجھدار ہے اس نے اماں کے اس قول کو سچ مان کر رضا سے شادی کر لی اس کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی جب اس کی ساس نے عزت کی خاطر ایک مہنگا سا سوٹ لنڈا سے خریدا وہ اسے استری کر رہی تھی جب اس کا شوہر جس سے راتوں کو دیر سے آنے پر اس کی بات چیت بندھی اس کے پاس آگیا۔ ایک سادہ سا کاٹن کا سوٹ لگی نے رضا کو دیکھا "یہ کہاں سے آیا؟"

"اس سوٹ کو خریدنے کے لئے تو پیسے جمع کر رہا تھا۔ آج پیسے پورے ہوئے تو لے آیا۔ اماں نے کہا آج تو ہماری شادی کی سالگرہ ہے وہ اس کے قریب آیا [تجھ سے کبھی نہیں کہا لیکن دل میں ٹھان لیا تھا بھلے سال میں ایک سوٹ

ہی دوں گا تجھے لیکن اترن نہیں پہنے گی میری نگلی۔ اس کے نگلیہ کہنے سے نگلی کو لگا اس سال کی ساری تکلیفیں کسمپرسی سب ٹھنڈی ہوا میں بدل گئے ہوں۔ وہ رضا کے کندھے سے سر ٹکائے بس روئے جاتی تھی اسے بس اس پل اچانک الہام ہوا تھا رضا سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ کیوں کے رضا نے اسے محبت تو کی ساتھ عزت نفس کی بھی بڑی پاسداری کی۔

جلدی سے تیار ہو جا تیرے ابا جی اور پیسے آنے والی ہوگی۔ شاید بھر جائی بھی آئیں وہ مسکراتی سوٹ لئے غسل خانے کی طرف بڑھ گیا سے اپنا آپ ہلکا ہلکا لگ رہا تھا۔ شاید محبت انسان کو ایسے ہی ہلکا لیکن۔ سحر انگیز کر دیتی ہے۔ جیسے کی وہ۔

اس نے پلٹ کے دیکھا رضا اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا اس کے دیکھنے سے جزبہ ہوا پھر خود بھی ہنسنے لگا۔ اس کی بیوی تھی جیسے مرضی آئے دیکھے۔

☆☆.....☆☆



## پروفیسر بریانی

جب لوگوں کو پتا چلا کہ بریانی ان کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے تو کئی بھی خوابوں نے کہا بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے اپنی بیٹی کیوں بیاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ ایسے خوفناک شخص کے سائے سے بھی بچنا چاہیے کجا یہ کہ اس سے.....

آتے ہیں۔ مشہور فنکار قاضی واجد جیسی شکل اور بہروز سبزواری کے ایک کردار ”قباچہ“ جیسی عقل والا ایک شخص جو بیہودہ طریقے سے ڈبل پتی والا پان چباتے ہوتے نظر آتا ہے اور جسے دیکھ کر اس کے دوست احباب مارے گھبراہٹ کے پسینے پسینے ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگتے ہیں وہ شخص بھلا پروفیسر بریانی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ جہاں تک شکل اور عقل کا تعلق ہے تو معاملہ برعکس بھی ہو سکتا ہے مگر اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ بریانی تو ہر حال میں بریانی ہی ہے۔ گھبراہٹ پیدا کرنے والی آٹومینک مشین۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بیگم بریانی چھٹی والے دن صبح ہی صبح دھکے مارا نہیں گھر سے باہر نکال دیتی ہیں کہ انہیں جتنی گھبراہٹ پھیلائی ہے باہر پھیلا میں گھر کے اندر نہ پھیلائیں۔ ممکن ہے بیگم بریانی کا یہ عمل خود ان کی ذات کے لیے سود مند ہو دیگر لوگوں کے لیے نقصان دہ

مشہور و معروف ادیب محترم شفیق الرحمن (مرحوم) کے بارے میں ایک پاکستانی ڈائجسٹ نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ”شفیق الرحمن کو کون نہیں جانتا، شاید وہ نہ جانتے ہوں، جو ہنسنا نہیں جانتے۔“ پروفیسر بریانی کے متعلق میری ماہرانہ رائے کو تھوڑے سے لفظی رد و بدل کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ پروفیسر بریانی کو کون نہیں جانتا۔ شاید وہ نہ جانتے ہوں جو گھبرانا نہیں جانتے۔ چند ایک استثناء کے ساتھ اس روئے زمین پر کوئی ایسا ذی نفس پیدا نہیں ہوا جو کبھی نہ کبھی گھبرایا نہ ہو۔ اس مستثنیٰ لوگوں میں ہٹلر، چنگیز خان اور خود پروفیسر بریانی شامل ہیں کہ جو خود کبھی نہیں گھبرائے البتہ دوسروں کی گھبراہٹ کا موجب ضرور بنے۔ فی زمانہ ہر شخص کی اصل گھبراہٹ کا سبب غیر یقینی حالات، معاشرے میں انارکی کا رجحان، عالمی کساد بازاری، امریکا کی چوہدریہٹ کے علاوہ پروفیسر بریانی کی ذات ہے۔ اس فہرست میں اول نمبر پر بریانی صاحب



جنتی دہشت نائین ایون کے واقعے نے پھیلائی تھی اس سے کہیں زیادہ دہشت ایک تنہا پروفیسر بریانی کی ذات پھیلا سکتی ہے۔

خبریں، افواہیں اور ان پر تبصرے۔ پروفیسر بریانی کی اسی صفت کی وجہ سے یار لوگوں نے انہیں پروفیسر کا خطاب دیا ہے۔ بریانی ان کا نام نہیں چڑھے۔ موصوف اب اپنے اصل نام سے زیادہ پروفیسر بریانی کے نام سے ہی نہ صرف جانے جاتے ہیں بلکہ ان کا نام خوف و دہشت کی علامت بن گیا ہے۔ فلمی ڈائلاگ کی مثل۔ ”جب تین تین کوس دور تک بچے راتوں کو روتے ہیں اور سوتے نہیں تو مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں کہ بیٹا سو جا ورنہ ابھی پروفیسر بریانی آ جائے گا۔“ یعنی پروفیسر بریانی نہ ہوا گبر سنگھ ہو گیا۔ فلم ’شعلے‘ کے گبر سنگھ کو تو دو دوستوں نے مل کر تباہ و برباد کر دیا تھا، پروفیسر بریانی کو تباہ کرنے میں صرف اور صرف ان کے سر کا کمال ہے۔

ہو ایوں کہ بریانی ہر روز شام کو اپنے دور کے چچا کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے اور انہیں دن بھر کی خوفناک خبریں اور خطرناک افواہیں سنایا کرتے جس کی وجہ سے بے چارے اعصابی تناؤ کا شکار ہو گئے۔ آخر ان کا علاج کرایا گیا۔ ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا۔

ان کے معالج نے انہیں جب یہ بتایا کہ یہ اعصابی تنہکن بری بری خبریں اور بے ہودہ افواہیں سننے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے فوراً انتقام لینے کی قسم کھالی۔ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے کچھ ایسا چکر چلایا کہ بریانی ان کی بیٹی سے عقد کے لیے تیار ہو گئے۔

جب لوگوں کو پتا چلا کہ بریانی ان کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے تو کئی بھی خوابوں نے کہا بھی

ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریانی صاحب کا ہر ملنے والا جب گھر سے نکلتا ہے تو یہی دعا کرتا ہوا گھر سے چلتا ہے کہ اسے بریانی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔

پروفیسر بریانی نہ کسی کالج کے پروفیسر ہیں اور نہ ہی کوئی عامل کہ جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتے ہیں۔ اصل میں پروفیسر بریانی کو اخبارات پڑھنے کی بلکہ انہیں چائے کی عادت ہے صبح سے لے کر شام تک وہ دفتر میں کرسی پر پاؤں سپارے دنیا جہاں کے اخبارات چائے رہتے ہیں پھر یہ سب خبریں، پروپیگنڈے افواہیں جو انہوں نے صبح سے لے کر شام تک نگلی ہوتی ہیں انہیں اگلنے کے لیے شام سے لے کر رات تک شکار کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں جو بد نصیب مل جائے اسے یہ ساری خبریں افواہیں اور بے پر کی سنا ڈالتے ہیں۔ کچھ نمک مرچ اپنی طرف بھی لگا دیتے ہیں اگر وہ صرف اچھی اور مزے دار خبریں سنانے کے عادی ہوتے تو شاید لوگ ان کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتے مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف بری خبریں اور خطرناک قسم کی افواہیں سناتے ہیں جنہیں سن کر اچھے بھلے ہنستے ہوئے شخص کا دل دہل اٹھتا ہے اور وہ بے چارہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اخبارات اور ٹیلی ویژن کے مختلف چینلوں جتنا ڈپریشن معاشرے میں پھیلا رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ڈپریشن ایک اکیلے پروفیسر بریانی پھیلا رہے ہیں۔

کئی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انہیں گرفتار کر کے نقص امن کے جرم میں یا تو قید کر دیا جائے یا پھر امریکہ بھجوا دیا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر یہ کام کریں اور دہشت گردی میں اپنا نام کمائیں کہ



ہے چنانچہ اکثر الٹی سیدھی پیشن گوئیاں کرتے ہیں جس میں سے ننانوے فیصد غلط ثابت ہوتی ہیں۔ بقیہ ایک فیصد جو سچ ہوتی ہیں کچھ اس قبیل کی ہوتی ہیں کہ اس سال جمعہ الوداع رمضان کے آخری جمعے کو ہوگا یا عاشورہ اس برس بھی دس محرم کو منایا جائے گا یہ کہ یوم مئی اس سال بھی مئی کے پہلی تاریخ کو ہوگا وغیرہ۔

ایک بار کہنے لگے۔ ”یار اس سال دو دفعہ سورج گرہن ہوگا۔“

میں نے یونہی ازراہ تمسخر پوچھ لیا۔ یہ تو بتاؤ کہ دونوں بار دن میں ہوگا یا ایک بار دن میں اور ایک بار رات میں ہوگا۔

دیر تک سر کھجاتے رہے پھر بولے۔ ”یار پتا تو نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ ایک سال میں دو دو سورج گرہن ہونا اچھی بات نہیں اگر سورج اتنی جلدی جلدی گہٹانے لگے گا تو بہت جلد بجھ جائے گا۔“

ایک بار بے حد گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے۔ ”یار تمہیں پتا ہے سو سال بعد پانی اس قدر آلودہ ہو جائے گا کہ اس پانی کو پینے سے طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ نکلیں گی۔“

میں نے کہا۔ ”سو سال بعد کیوں بھائی پانی تو اب بھی ایسا ہی سپلائی ہو رہا ہے۔“

کہنے لگے۔ ”نہیں تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ سو سال بعد پانی بے حد زہریلا ہو جائے گا، تمام آبی حیات ختم ہو جائے گی، پیتے ہی منہ میں آبلے پڑ جائیں گے، بدن جھلنے لگے گا اور لوگ دھڑا دھڑا مرنے لگیں گے یار سوچو اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ ہم پانی کیسے پیں گے؟“

مجھے یقین تھا وہ کسی اخبار میں دل دہلا دینے والی رپورٹ پڑھ کر آئے ہیں کہ ایسی بھیا تک

کہ وہ ایک ایسے شخص سے اپنی بیٹی کیوں بیاہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ ایسے خوفناک شخص کے سائے سے بھی بچنا چاہیے کجا یہ کہ اس سے رشتے داری قائم کر دی جائے۔

وہ ہنستے ہوئے بولے۔ ”بھئی یہ تو میں بریانی سے انتقام لینے کے لیے کر رہا ہوں۔“

لوگوں نے پوچھا۔ ”انتقام! وہ بھلا کیسے؟“

مسکراتے ہوئے بولے۔ ”میں تو ایک بار اعصابی تناؤ کا شکار ہوا اور علاج معالجے سے ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کم بخت بریانی ساری عمر اعصابی تناؤ کا شکار رہے گا۔“

پھر حقیقتاً یہی ہوا۔ شادی کے بعد بریانی واقعی ہمہ وقتی اعصابی تناؤ کا شکار رہنے لگے۔ کیوں کہ ان کی بیگم ہر وقت انہیں جھاڑ پلاتی رہتی ہیں اور ان پر طنز و طعنے کے تیروں کی بارش کرتی رہتی ہیں ویسے بھی جب بریانی اپنی بیگم کو لے کر کہیں جاتے ہیں تو اجنبی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ماں اور بیٹا آ رہے ہیں۔ چونکہ بریانی کو گھر میں سکون حاصل نہیں اس لیے وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر صرف کرتے ہیں اور محصوم لوگوں کو پکڑ کر انہیں خوف ناک اور دل دہلا لینے والی افواہیں اور خبریں سناتے رہتے ہیں۔ بعض مظلوم تو ان سے ملاقات کے فوری بعد بازار کا رخ کرتے ہیں اور دو چار مہینوں کا راشن بھر لیتے ہیں کہ بریانی کی وہشت انگیز باتیں سن کر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ عنقریب شہر میں زبردست خون ریزی ہونے والی ہے اور کم از کم دو چار مہینے کا کرفیو نافذ ہونے والا ہے۔

خبری اور افواہیں سنانے کے علاوہ پروفیسر بریانی کو پیشن گوئیاں کرنے کی بھی عادت تھی۔



کرتے۔ ہمیشہ آڑی ترچھی اور مشکل باتوں پر غور کرتے ہو۔“

”ہاں یہ تو مسئلہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟“

”اس کی بھی سیدھی سی وجہ ہے۔“ میں نے

کہا۔

”اور وہ یہ کہ تم پیدائشی طور پر نکلکچو نکل ہو۔“

کہنے لگے۔ ”یار یہ نکلکچو نکل کیا ہوتا ہے؟“

”ارے تم نہیں جانتے یہ کیا ہوتا ہے؟“

میں نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، پھر کہا۔ ”یار یہ

وہ ہوتا ہے کہ جس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں

آئیں حتیٰ کہ خود اس کی بھی۔“

”اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر میری بیگم بھی شاید

یہی ہیں۔ ان کی بھی باتیں میری سمجھ میں نہیں

آئیں۔

بریبانی معصومیت سے بولے۔

”مثلاً۔“ میں نے لقمہ لیا۔

”مثلاً! یہ کہ..... یہ کہ.....“ بریبانی تھوڑی دیر

سوچتے رہے اور پھر بولے ”ہاں مثلاً کہ یہ میں

روزانہ دفتر جاتے ہوئے اپنی بیگم سے یہ کہتا تھا کہ

اچھا خدا حافظ چار بچوں کی ماں۔ بیگم بیگم یہ سن کر

اندر ہی اندر بیچ و تاب کھاتی تھی، مگر بے چاری

منہ سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی کہ وہ واقعی میرے چار

بچوں کی ماں ہے۔ لیکن ایک دن پتا نہیں کیا ہوا کہ

جب میں اس سے یہ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے

بولی۔ اچھا خدا حافظ تین بچوں کے باپ۔“

بریبانی کی زبانی یہ سن کر میرا جی چاہا کہ میں

ایک زوردار قہقہہ لگاؤں مگر میں نے ضبط سے کام

لیا اور اپنے اس قہقہے کو بالکل اسی طرح دفن کر دیا

جیسے لوگ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو سبز ستارہ

کے طفیل دفن کر دیتے ہیں۔

بریبانی بولے۔ ”یار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ

رپورٹس اکثر منظر عام پر آتی رہتی ہیں کہ ”آئندہ

دس سال میں دنیا کی آبادی دگنی ہو جائے

گی۔ آئندہ بیس سال میں اناج کا قحط پڑ جائے

گا۔

آئندہ تیس سال میں لوگ خود بخود پاگل ہو

جائیں گے۔

کچھ عرصے کے بعد کوئی بہت بڑا شہاب

ثاقب زمین سے ٹکرا جائے گا۔

فلاں تاریخ کو قیامت آجائے گی اور ایک

وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر صرف عورتوں

کی آبادی رہ جائے گی۔ مرد نسل ختم ہو جائے گی

وغیرہ۔ بریبانی اکثر اسی قسم کی رپورٹس پڑھ کر

حواس باختہ ہو جاتے تھے۔ اور اپنی بدحواسی

دوسروں میں منتقل کرتے تھے مجھے چونکہ ان کی بد

حواسی کی اصل وجہ پتا ہے اور تجربے نے مجھے سکھا

دیا ہے۔ لہذا بجائے میں ہوش کھونے کے معاملے

کو ہنسی میں اڑا دیتا ہوں اس لیے میں نے اس

سے کہا۔ ”یار اگر پانی سو سال بعد اتنا خراب ہو

جائے گا تو کیا فکر ہے میرے پاس اس کا بہترین

حل موجود ہے۔“

حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کر

بولے۔ ”اچھا، تمہارے پاس اس کا توڑ ہے۔ کیا

حل ہے یار مجھے بھی تو بتاؤ۔“

میں نے کہا۔ ”مسئلہ کچھ بھی نہیں اگر پانی

خراب آنے لگے تو ہم صرف اتنا کریں گے کہ

پانی دھو دھو کر پیا کریں گے۔

خوشی سے بولے۔ ”ارے یار واقعی یہ تو بہت

سیدھی سی بات ہے۔ حیرت سے اتنی سیدھی سی

بات میری سمجھ میں پہلے کیوں نہ آئی۔“

”اس کی وجہ بالکل صاف ہے۔“ میں نے

ہنستے ہوئے کہا تم سیدھی باتوں پر کبھی غور ہی نہیں



اس کا مطلب کیا ہوا۔؟“  
 سے بے حد متاثر ہوا۔ ان کی سیاسی معلومات اور  
 حالات حاضرہ پر گہری نظر اور مستقبل کے بارے  
 میں ان کی پیشن گوئیاں مجھے وہ شکل چلتی پھرتی  
 انسائیکلو پیڈیا لگا۔ جب میں نے اپنے وکیل  
 دوست سے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شخص  
 معلومات کا خزانہ ہے اور اس سے مل کر مجھے بے  
 حد خوشی ہوئی ہے تو میرے وکیل دوست نے مسکرا  
 کر جواب دیا۔

”صرف آپ کو ہی نہیں، پہلی ملاقات کے  
 بعد ہر شخص کو بریانی سے مل کر بے حد خوشی ہوتی  
 ہے۔“

شروع ہی کی ملاقاتوں میں انہوں نے  
 میرے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شہر کے  
 حالات پر تبصرہ کر کے دور کو کوڑی لاتے اور  
 کہتے۔ ”یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا  
 رہا ہے۔ یہ سب سی آئی اسے کا پلان  
 ہے۔ عنقریب برطانیہ کو ہانگ کانگ خالی کرنا  
 پڑے گا اس لیے منصوبہ یہ ہے کہ کراچی کو ہانگ  
 کانگ بنا دیا جائے۔“

ابتدا میں تو خوش ہوا کرتا کہ چلو کراچی کی  
 قسمت کھل جائے گی۔ یہاں کاروباری ترقی  
 ہوگی، بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی، ..... صنعت و  
 حرفت پروان چڑھے گی، بیرونی سرمایہ کاری  
 بڑھے گی۔ دور دراز سے لوگ بغرض سیاحت  
 یہاں آنے لگیں گے، لوگوں کا روزگار بڑھے گا۔  
 شہر ترقی کرے گا، سڑکیں بنیں گی، پینے کو صاف  
 پانی ملے گا، سیوریج کا بوسیدہ نظام ترقی یافتہ ہو  
 جائے گا، مگر جب چار برسوں میں بھی ہانگ کانگ  
 اپنی جگہ بدل کر کراچی نہیں آیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔  
 ادھر بریانی بھی تو کوئی کچے کھلاڑی نہیں تھے۔  
 انہوں نے فوراً اس تبدیلی شہر کی تاریخ میں اضافہ

”مطلب صاف ظاہر ہے۔“ میں نے کہا۔  
 ”اصل میں تم اس قدر نوجوان دکھتے ہو کہ کسی  
 بھی طرح چار بچوں کے باپ نہیں لگتے۔  
 تمہاری بیگم نے تو ایک طرح سے تمہاری  
 تعریف کی ہے اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ  
 تمہارے مقابلے میں وہ بڑی عمر کی نظر آتی ہیں۔“  
 ”اوہ! یہ مطلب تھا یا میں اب سمجھا۔ بریانی  
 خوش ہو کر بولے۔“

نازیوں کا و تیرا تھا کہ وہ اس قدر جھوٹ بولا  
 کرتے تھے اور بار بار بولا کرتے تھے کہ لوگ  
 اسے سچ سمجھنے لگیں۔ پروفیسر بریانی کی عادت ہے  
 کہ وہ سچ بھی کچھ اس طرح بولتے ہیں کہ لوگ  
 جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں بی بی  
 سی کہتے ہیں۔ ان کی مثال اس گڈ رے کی طرح  
 ہے کہ جھوٹ موٹ شیر آنے کی دہائیاں دیا کرتا تھا  
 اور پھر جب ایک بار سچ سچ شیر آیا تو لوگ یہی سمجھتے  
 تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ جب پچھلے  
 سال ان کی کمر میں چک پڑ گئی تو سب سمجھے کہ وہ  
 جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے کوئی ایک شخص  
 بھی اتنا احمق نہیں کہ بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ  
 ڈالے۔ پروفیسر بریانی کی عیادت کو جائے اور ا  
 ن کی باتیں سن کر مفت میں اعصابی کھنچاؤ کا شکار  
 ہو کر گھر لوٹے۔ سنا ہے جتنے عرصے میں وہ  
 صاحب فراش رہے ان کے دوست احباب ہی  
 عرصے سے ذہنی دباؤ سے آزاد رہے۔ بلکہ کئی  
 لوگوں نے تو باقاعدہ منت مان کر ان کی دراز کی  
 تکلیفیں کی دعائیں تک مانگیں۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی بیس برس پہلے  
 جب ایک وکیل دوست کے توسط سے میری  
 پروفیسر بریانی سے پہلی ملاقات ہوئی تو میں ان



کر دیا۔

پھر تو ایسا لگا جیسے یہ کیس داخل عدالت کر دیا گیا ہو۔ ہر بار تاریخ بڑھا دی جاتی اور فیصلے کا وقت آگے کھسک جاتا۔ تاریخیں بڑھتی گئیں حتیٰ کہ پندرہ سال گزر گئے برطانیہ اور چین کے مابین ہانگ کانگ کا مسئلہ بھی بہ حسن بخوبی نمٹ گیا اور میں کراچی میں بیٹھا ہانگ کانگ کا انتظار کی کرتا رہا۔

اس لیے جب ایک بار پروفیسر بریانی یہ دل دہلا دینے والی خبر لے کر آئے کہ عنقریب کراچی بیروت بن جائے گا تو میں نے انہیں خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کی ہانگ کانگ والی تھیوری کے پرچے اڑا دیے کہ ہانگ کانگ کا معاملہ برطانیہ اور چین کے مابین تھا، امریکی سی آئی اے کے پیٹ میں کون سا درد تھا کہ وہ اتنی لمبی منصوبہ سازی کرتی اور کراچی کو ہانگ کانگ بنواتی۔ اب جو یہ کراچی کو بیروت بنانے والی بات ہے تو یہ بھی بس کسی بیوقوف کی خیال آرائی سے جسے میں صرف ہوائی سمجھتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار پروفیسر بریانی شپٹا گئے۔ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوگا کہ میرے جیسا صابر سامع بھی یوں بدک سکتا ہے بہر حال وہ آئندہ کے لیے محتاط ہو گئے۔ ادھر میں نے بھی یہ کیا کہ ان کی ہر خبر، ہر افواہ کافی الفور پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیا۔

لیکن مجھے حیرت اپنے اس وکیل دوست پر ہے کہ جن کے توسط سے بریانی نے مجھ تک رسائی پائی تھی۔ پٹھے کے اعتبار سے وکیل ہونے کے باوجود وہ بریانی کے جال میں پھنس گئے تھے۔ حالانکہ وکیلوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جو ایک بار ان کے شکنجے میں آجائے جیتے جی بچ کر نہیں نکل سکتا۔ سیدھے سادے سے مقدمے کو بھی

اس قدر سیانا ہونے کے باوجود وکیل صاحب کا پروفیسر بریانی کے جال میں پھنس جانا جہاں حیرت کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہیں پروفیسر بریانی کی چابکدستی کا بھی بین ثبوت ہے۔ مسلسل کئی ہفتوں تک بلاناغہ بریانی سے ملتے رہنے کا نتیجہ کچھ یوں برآمد ہوا کہ وکیل صاحب نے پہلے تو کام پر جانا چھوڑ دیا، اس کے بعد گھر میں ہی مقید ہو کر رہ گئے۔ ہمہ وقت انجانے خوف اور وسوسوں کا شکار رہنے لگے۔ انہیں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ عنقریب شہر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑیں گے۔ شہر کی سڑکوں پر خون کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ ہر شخص دوسرے شخص کو جان سے مارنے کے درپے ہوگا جگہ جگہ بم دھماکے ہوں گے۔

کچھ تو شہر کے حالات واقعی کشیدہ تھے اوپر سے بریانی نے مستقبل کا ایسا خوفناک سماں باندھا کہ وکیل صاحب شدید قسم کے ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو گئے۔ جب مرض بڑھ گیا تو ایک ماہر نفسیات سے ان کا علاج کروایا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ٹھیک ہو گئے مگر اب وکیل صاحب



کے بنگلے کے گیٹ پر ایک بڑا سا بورڈ آویزاں ہے۔ ”بریانی کا داخلہ ممنوع ہے۔“

پروفیسر بریانی تو ایک طرف وکیل صاحب کے بنگلے میں اب سچ سچ کی بریانی بھی نہیں جا سکتی۔ بورڈ لگنے کے باوجود بریانی نے ایک دو بار وکیل صاحب سے ملنے کی کوشش کی مگر چوکیدار کے جارہانہ رویے کے بعد وہ اس طرف جانے سے احتراز کرنے لگے ہیں۔ ادھر وکیل صاحب کی دیکھا دیکھی بریانی کے کچھ اور شکاروں نے بھی اسی طرز کے بورڈ بنا کر اپنے اپنے دروازوں پر لگوا دیے ہیں۔

کہتے ہیں کہ خر بوزے کو دیکھ کر خر بوزہ رنگ پکڑتا ہے صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ باپ کی میراث اولاد میں ضرور منتقل ہوتی ہے۔ کچھ یہی حال بریانی کے صاحب زادے کا بھی ہے۔

ایک تقریب میں بریانی صاحب اپنے ہونہار صاحب زادے کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم باتیں کر رہے تھے۔ بریانی حسب عادت ڈبل پتی والا پان چبارے تھے ان کا فرزند بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیٹھا پان چبڑ چبڑ کر کے کھا رہا تھا۔ وہ بھی انے باپ کی طرح عجیب بیہودہ سی آوازیں نکال کر پان چبارے تھے۔ بریانی صاحب حسب توفیق افواہیں پھیلانے میں مصروف تھے۔ بیٹا قریب کھڑا تھا۔ اس کی چبڑ چبڑ کی آوازیں بریانی کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ غصے میں آ کر انہوں نے بچے کو دھکا مار کر کہا۔ ”ابے کیا جانوروں کی طرح پان چبارہا ہے، ذرا دور ہٹ۔“

میں نے کہا۔ ”یار بریانی خواہ مخواہ بچے کو ڈانٹ دیا۔ دیکھو کیسا ڈر گیا۔“

بریانی بولے۔ ”یار تم دیکھتے نہیں کیسا بے ہودہ ہے۔ کان میں آوازیں نکال رہا ہے پان

کھانے کی بھی تمیز نہیں۔“  
میں نے کہا۔ ”یار تو اس کے باپ کو کون سی تمیز ہے، ویسے بھی تو ایسے ہی پان چباتا ہے۔“  
ناراض ہو کر بولے۔ ”یار میں کب ایسے بے ڈھنگے پن سے پان کھاتا ہوں۔“

میں نے کہا یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ یہ میری سفید قمیض پر جو لال رنگ کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں یہ گل کاری آپ ہی کی مرہونِ منت ہے۔“

بریانی یہ سن کر چپ ہو رہے اور مجھ سے ذرا دور ہو کر بیٹھ گئے۔ مگر ان کی افواہ سازی کی فیکٹری بدستور کام کر رہی تھی۔ اچانک ان کا بیٹا درمیان میں بول پڑا۔ ”ابو ابواس جمعہ کو ہڑتال ہوگی۔“

میں نے چونک کر بچے کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ ”بیٹا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں۔“

بچہ بولا! کل ہمارے محلے میں فائرنگ ہوئی تھی اور دو سیاسی کارکن زخمی ہو گئے تھے۔“

میں نے کہا۔ ”بیٹا زخمی ہونے پر ہڑتال کب ہوتی ہے۔“

بچہ کہنے لگا۔ ”ان میں ایک کی حالت خراب ہے اگر وہ مر گیا تو جمعہ والے روز ہڑتال ضرور ہوگی۔“ مجھے ہنسی آ گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر بریانی نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھنے لگے۔

میں نے کہا۔ ”واہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ہم تو سمجھے تھے کہ بریانی ہی ٹینشن پھیلا سکتا ہے۔ آج پتا چلا ہے کہ زردہ بھی کچھ کم نہیں۔“

حاضرین محفل میری بات پر ہنس پڑے۔ اب جب کبھی بریانی اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ لوجی بریانی کے ساتھ زردہ بھی آ گیا۔ خدا خیر کرے۔“

☆☆.....☆☆



## ظنی لرحمہ ظنی اولادیں

گر پچھڑ جائیں تو پھر خوابوں میں ملو  
ہم صرف حرف نہیں پڑھ لیں گے  
تم لفظ بن کر ہمیں کتابوں میں ملو  
شاعرہ: صائمہ بشیر

انزا کا نذرانہ عقیدت اپنے بھائی کے لیے  
اپنے سقا (موسیٰ رضا) کو یوں عباس لارہے ہوں گے  
رضائے رب پہ جو سر کو جھکا رہے ہوں گے  
فرشتے خلد میں مسند لگا رہے ہوں گے  
نبی کے ساتھ بہشت میں وہ جا رہے ہوں گے  
علیؑ کے سایہ دامن میں آ رہے ہوں گے  
دعائیں وہ درز ہرا سے پا رہے ہوں گے  
حسنؑ بھی جام یوں کوثر کے لارہے ہوں گے  
حسینؑ بڑھ کر لگے سے لگا رہے ہوں گے  
شاعرہ: سوگوار انزا نقوی۔ کراچی

غزل

درد سینے میں صنم کرو  
ابھی جگہ ہے اور ستم کرو  
یہ کس نے کہا تم سے.....  
میری بربادی کا ماتم کرو  
تم ہی نے فاصلے بڑھائے تھے  
تہی یہ فاصلے کم کرو  
اشکوں کے دیے جلے ہیں  
لو چراغوں کی مدھم کرو  
مجھے بلانے سے پہلے ذرا تم  
بیتے دنوں کا ماتم کرو  
شب غم منتظر ہے آؤ  
دل توڑنے کی رسم کرو  
ساتھ رہنے کا جو وعدہ تھا  
اک بار پھر میرے صنم کرو

شاعرہ: فصیحہ آصف خان۔ ملتان

عجب سانحہ

حقیقتوں میں تلخیاں رقص کرتی ہیں  
سوچوں میں میری  
خاموشیاں شور کرتی ہیں  
عجب سانحہ ہے عاشا  
صحرا اکیوں سے آنسو نہیں رکتے

دلا سے

تم سے پچھڑ کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ.....  
واقعی کسی سے پچر کر کوئی مر تو نہیں جاتا  
ہاں، بس ذرا جینے کے انداز بدل جاتے ہیں  
کسی کو کھو کر ماہتاب سی نیندیں پچھڑ جائیں  
تو کیا ہو کسی کو پا کر بھی تورت جگے مقدر بن جاتے ہیں  
شاعرہ: روبینہ ناز روبی۔ فیصل آباد

غزل

تمہار کہانی کہاں سنی جائے گی  
خود غرضوں سے کبھی اپنی کتھا نہ کہو  
اس طرح ٹوٹ کے بکھرنے سے کیا حاصل  
جینا ہے تو پھر بڑی شان سے جیو  
نہ سوچو تم نے درد بانٹا تھا اسکا  
اپنے دکھ کو صبر کے گھونٹ سے پیو  
کتنے سلسلے تھے ماضی میں تیرے ساتھ جڑے  
بات اب یہیں رہنے دو بس اپنی کہو  
ہم نے تو یہ کہا تھا تم سے جاتے سے



ادراک میں میری محبت

محبت نہیں رہتی

تم خود ہی بتاؤ

میں مسکراؤں تو کیسے؟

شاعرہ: عائشہ نور عاशा۔ شاد یوال، گجرات

وہ کون تھی؟

اک سرمئی شام میں

اجنبی راہوں میں

پریشان حال کھڑی

میری نظریں پڑیں

اک لمحے کو بھول گیا سب

چہرے پہ اس کے شبینمی قطرے

موتی بن کر چمک رہے تھے

ماتھے پہ اٹھلائی ہوئی لٹ

حسن پہ جیسے پہر دار ہو

سارا قرار لوٹ کر

جانے کہاں سے آئی تھی

اور کہاں گئی وہ

بس اک سوال رہ گیا

وہ لڑکی کون تھی

شاعرہ: شبانہ نسیم۔ کراچی

غزل

تم سامنے رہو اور کوئی سوال نہ ہو

میری حیات میں ایسا ماہ و سال نہ ہو

تو سر جھکائے جو لوٹا تو دل نے یہی کہا

خدا کرے تیری الفت کو اب زوال نہ ہو

ہم ساتھ ساتھ چلیں دم قدم ہمیشہ یونہی

دور دور تلک بھی کوئی مثال نہ ہو

محبوتوں میں کبھی ایسا وقت نہ دیکھوں

جدائی پر بھی تیری یہ دل پر ملال نہ ہو

کھن رہی ہے سدا کاش اب تو ایسا ہو

حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو

شگفتہ سنگ تیرے یونہی مسکراتی رہے

خزاں چھائے ایسا کوئی بھی سال نہ ہو

شاعرہ: شگفتہ شفیق

غزل

تمہاری یاد کا سر پہ یہ آنچل کیوں نہیں رہتا

بہت ہی دیر تک آنکھوں میں یہ بادل کیوں نہیں رہتا

میں ہنستی ہوں تو مری آنکھوں سے انسو چھلکتے ہیں

میری آنکھوں کی جھیلوں میں یہ کاجل کیوں نہیں رہتا

میرے ویران کوچے میں ٹھہرتا ہی نہیں لیکن

وہ میرے پاس بھی آ کر مسلسل کیوں نہیں رہتا

وہ میری زندگانی کا اثاثہ بن گیا پھر بھی

وہ میری زندگانی میں مکمل کیوں نہیں رہتا

بہت دن سے میں تمثیلہ اسی کو یاد کرتی ہوں

میری ویران گلیوں میں وہ پاگل کیوں نہیں رہتا

شاعرہ: تمثیلہ لطیف۔ پسرور

غزل

کچھ خود بھی تھے افسردہ سے

کچھ لوگ بھی ہم سے روٹھ گئے

کچھ خود ہی زخم کے عادی تھے

کچھ شیشے ہاتھ سے ٹوٹ گئے

کچھ خود بھی تھے حساس بہت

کچھ اپنے مقدر روٹھ گئے

کچھ آپ کو سچ سے نفرت تھی

کچھ ہم سے نہ بولے جھوٹ گئے

کچھ خود بھی ہم محتاط نہ تھے

کچھ لوگ بھی ہم کو لوٹ گئے

کچھ تلخ حقیقتیں تھی اتنی

کچھ خواب ہی سارے ٹوٹ گئے

شاعرہ: رضوانہ کوثر



# دوشیزہ گلستان

## اسماء اعوان

اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔

مرسلہ: معصومہ رضا۔ گلستان جوہر۔ کراچی

### اے اللہ

اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا۔

یہ بے چینی کیوں ہے کیوں اتنی پریشانی ہے؟  
کیوں ہم سکون قلب اور اطمینان کے ساتھ  
نہیں بیٹھ سکتے؟؟

تو انہوں نے کہا۔

دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے  
نہ رکھا کرو۔ انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی  
کوشش نہ کیا کرو۔ بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے  
جایا کرو اور کہو۔

اے اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں یہ مجھ سے حل  
نہیں ہوتیں یہ میں تیرے حضور لایا ہوں تو انہیں  
حل کر دے اور پھر بے فکر ہو جا۔ اللہ انہیں حل کر  
دے گا بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔

مرسلہ: انزاقوی۔ گلستان جوہر۔ کراچی

### جشن

بیوی (شوہر سے) سامنے اس شرابی کو دیکھ  
رہے ہو۔ دس سال پہلے میں نے اس سے شادی  
سے انکار کیا تھا آج تک پی رہا ہے۔

### حمد

نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں  
ہر قدم پر سجدے بھی کیے جاتا ہوں  
کوئی دنیا میں میرا مونس و غم خوار نہیں  
تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں  
اس بھروسے پہ خطا میں بھی کیے جاتا ہوں  
تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے  
آزمائش کا محل ہو کہ مسرت کا مقام  
سجدہ شکر بہر حال کیے جاتا ہوں

شاعر: اقبال عظیم۔ انتخاب: نگہت  
غفار۔ کراچی

### حضرت علی کی سنہری باتیں

(☆) جب بھی خدا سے دعا مانگو تو نصیب مانگو  
عقل نہ مانگو کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو  
نصیب والوں کے پاس غلامی کرتے دیکھا  
ہے۔ (حضرت علی)

(☆) کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی  
کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر  
اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔

(☆) جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا  
اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار  
کرنا صرف لفظ کو ضائع کرنا ہے۔

(☆) جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے



شوہر (رشک سے) واہ بھئی واہ اتنا لمبا جشن۔

جاتے ہیں۔

مرسلہ:

مرسلہ: مسز شہزاد زیدی۔ میر پور خاص

### شدت

### نفرت

یہ ہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے  
کسی کے ساتھ سہی وہ نظر تو آیا ہے  
کروں شکایتیں تکتا رہوں کہ پیار کروں  
گئی بہار کی صورت وہ لوٹ آیا ہے  
وہ سامنے تھا مگر یہ یقین نہ آتا تھا

بیوی: مجھے اس فقیر سے شدید نفرت ہے۔

شوہر: لیکن کیوں۔

بیوی: کل میں نے اسے کھانے کے لیے  
سالن دیا تھا اور آج اس کبخت نے مجھے کھانا  
پکانے والی کتاب گفٹ کر دی۔

مرسلہ: احسن رضا۔ اسلام آباد

### یقین

### کنبہ

اگر تم.....  
مجسم دیکھ لو خود کو  
تو مجھے پورا یقین ہے کہ  
تمہیں میری محبت سے  
بلا کا عشق ہو جائے

ایک آفیسر جیل کا معائنہ کرنے کے لیے  
دوران ایک قیدی سے ازراہ ہمدردی پوچھنے لگا۔  
”کیوں بھئی تمہیں اپنے گھر سے خیریت کا  
خط تو آتا ہوگا۔“

”جی نہیں۔“ قیدی نے کہا

”کیوں وہ تمہیں خط نہیں لکھتے۔ آفیسر نے پوچھا۔  
”جی بات ہی کچھ ایسی ہے کہ خط لکھنے کی  
ضرورت ہی نہیں پڑتی۔“ آپ کی دعا سے میرا  
سارا کنبہ یہیں ہے۔

شاعرہ: سعدیہ عزیز آفریدی۔ کراچی

### حاضر جواب

مرسلہ: شاہ زیب انصاری۔ جہلم

### دانتوں کی چمک دمک کے نسخے

☆ لیموں کے چھلکے سکھا کر پیس لیں ان میں  
نمک ملا لیں۔ روزانہ دانت اس سے صاف  
کرنے سے دانتوں کا میل دور ہو جائے گا۔  
☆ ایک چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا نمک اور سہاگہ  
لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت  
صاف کریں۔ دانتوں کی پیلاہٹ دور ہو جائے گی۔  
☆ سرسوں کے تیل میں ایک چائے کا چمچ  
نمک ملا کر دانتوں پہ لگانے سے دانت سفید ہو

بچپن کے بچے کے باپ سے شکایت کرتے  
ہوئے کہا۔ میں نے کل آپ کے بچے سے پوچھا کہ  
اگر میں تین انڈے ریمز کو چار انڈے اور چھ انڈے  
تمہیں دوں تو بتاؤ میں نے کتنے انڈے دیے اور اس  
نے جواب دینے کے بجائے شرماتے ہوئے جواب  
دیا۔ نہیں سر آپ انڈے نہیں دے سکتے۔

مرسلہ: عیجانہ مجاہد۔ کراچی

### شیطان

اس دنیا کا پورا نظام شیطان کی وجہ سے چل رہا  
ہے۔ اگر شیطان نہ رہے تو کوئی انسان نہ رہے  
سب شیطان ہو جائیں۔ وہ نہ ہوتا تو مولویوں  
کے بچے بھوکے مرجائیں کہ یہ ہی تو ان کا ذریعہ  
روزگار ہے شیطان نہ ہو تو وہ کس کے خلاف



مسلل اس عدالت میں مجرم کی حیثیت سے دیکھتا آرہا ہوں۔

مجرم: جناب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ آپ کو پچھلے بیس سال سے کوئی ترقی نہیں ملی ہے۔  
مرسلہ: انیلارمضان۔ نوشہرہ

### ماں

اس زمانے میں بچے نوکر نہیں پالتے تھے مائیں پالتی تھیں۔ غریب مائیں، امیر مائیں بھونڈی اور پھوٹڑ مائیں بیمار اور اپانچ مائیں ہی اپنے بچے خود پالتی تھیں۔ اس کے پاس بچے پالنے کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ بچے اپنی اپنی اماں سے چالیس پینتالیس گز کے ریڈینس میں کہیں بھی ہوتے ان کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا تھا کہ مشکل وقت میں ایک کی پکار پر ماں بجلی کی طرح جھپٹ کر مدد کے لیے آ موجود ہوگی۔ بچوں کے پاس یقین کی ایک ہی دولت ہوتی تھی کہ ماں گھر پر موجود ہے اور وہ ہر جگہ سے ہماری آواز سن سکتی ہے جس طرح بکے بکے خدا پرست کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کے حلقے میں ہر وقت موجود ہے اور وہ جب اسے پکارے گا۔ رگ جاں سے بھی قریب پائے گا اسی طرح بچے کو بھی اپنے پکار اور ماں کے جواب پر مکمل بھروسہ ہوتا تھا۔

اشفاق احمد کی تحریر اماں سردار بیگم سے اقتباس)

مرسلہ: ندیا معسود۔ کراچی

### مصرعہ

ایک مشاعرے میں شاعر اس مصرعے کو بار بار دہرا رہا تھا..... "اس چمن سے یہ جھانکے، اس چمن سے وہ جھانکے۔ لوگ اے بار بار سن کر پریشان ہو گئے۔ ایک آدمی نے تنگ آ کر اس مصرعے کو بعد یہ مصرعہ لگایا۔  
"جلادو اس چمن کو نہ یہ جھانکے نہ وہ جھانکے۔"

مرسلہ: زرین زبیر کوٹھاری۔ کراچی

تقریریں کریں۔ یہ سازی رقص موسیقی کی محفلیں اس کے دم قدم سے تو ہیں یہ ہی نہیں عبادت گاہیں بھی اس سے پناہ مانگنے کے لیے ہیں۔ اور دنیا میں تو عورت کا تو کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا۔ شیطان پہلے سب سے اچھا فرشتہ تھا مگر براتب بنا جب بول پڑا۔ اسی لیے پیدا ہونے والے بچے فرشتے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بولنا نہیں آتا اور جو نہیں بولنے لگتے ہیں والدین کہتے ہیں یہ شیطان ہو گئے ہیں۔

ڈاکٹر: یونس بٹ کے مضمون سے اقتباس

مرسلہ: راحیل عباس۔ ساہیوال

### شوگر کا یقینی علاج

پیارے قارئین اگر آپ میں سے کسی کو شوگر ہے تو انشاء اللہ اس کے استعمال کے بعد اس مرض کا خاتمہ ہو جائے گا۔

100 بادام (کوئی کڑوا نہ ہو)

100 کالی مرچ (ثابت دانے)

100 سبز الائچی (چھلکے والی)

100 نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں۔

ایک پاؤ کا لے چنے بھنے ہوئے (چھلکے سمیت)

یہ ساری چیزیں پیس لیں اور دن میں کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں۔

دعاؤں کی طالب: شہناز ہاشمی۔ سیالکوٹ

### ڈر

کبھی کبھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے

اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں

مجھے یہ ڈر ہے کہ تیری آرزو نہ مٹ جائے

بہت دنوں سے طبیعت میری اداس نہیں

انتخاب: ماہین خاور۔ سیالکوٹ

### ترقی

حج: مجھے یاد ہے کہ تم کو پچھلے بیس سال سے



ایر ہوئیں (غصے سے) بکو اس بند کرو۔  
پٹھان (خوش ہو کر) ماشاء اللہ زبان بھی ملتا ہے۔

### قومی ترانہ

پاکستان کا قومی ترانہ ہمارے ملک کے شاعر جناب حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ اس میں کل 15 مصرعے ہیں اور اسے 7 اگست 1953 کو مرتب کیا گیا۔ اس کی تخلیق میں 38 ساز استعمال ہوئے ہیں اور اس کے لیے احمد رشیدی کو کب جہاں نسیم شاہین، اختر عباس، غلام دستگیر، اختر وصی علی نے اپنی آوازوں کے جادو جگائے۔ اس کی موسیقی احمد چھاگلہ نے مرتب کی۔ اس کو بجانے میں کل ایک منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں اسے پہلی مرتبہ 13 اگست 1954 کو نشر کیا گیا۔

مرسلہ: رضوانہ کوثر۔ کراچی

### چندہ

ایک مولوی نے دینا ملک سے مسجد کے لیے چندہ مانگا۔ دینا ملک نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ”آپ لوگ تو کہتے ہیں میرے پیسے حرام ہیں۔“

مولوی نے جواب دیا ان پیسوں سے مسجد کا ہاتھ روم بنوا لوں گا۔

مرسلہ: شعبان کھوسہ۔ کوئٹہ

### کب تک

کب تک آخر ہم سے اپنے دل کا بھید چھپاؤ گی تمہیں راہ پر ایک دن آنا ہے تم راہ پر آ ہی جاؤ گی کیوں چہرہ اُترا اُترا ہے کیوں بچھی بچھی سی ہیں آنکھیں سنو عشق تو ایک حقیقت ہے، اسے کب تک تم جھٹلاؤ گی سب رنگ تمہارے جانتا ہوں، میں خوب تمہیں پہچانتا ہوں کہو کب پاس نہ آؤ گی کب تک آنکھ چراؤ گی شاعر: عبید اللہ عظیم۔ پسند: رقیہ یوسف۔ ڈسکہ

☆☆.....☆☆

### سوچتا ہوں

میں تجھے چاہتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی شب کی طویل خلوت میں تیرے اوقات میں سوچتا ہوں تیری ہر بات سوچتا ہوں کون سے پھول تجھ کو بھاتے ہیں رنگ کیا کیا پسند آتے ہیں کھوسا جاتا ہوں تیری جنت میں میں تجھے چاہتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی احساس سے نجات نہیں سوچتا ہوں تو رنج ہوتا ہے دل کو جیسے کوئی ڈبوتا ہے جس کو اتنا سراہتا ہوں

اس میں تیری سی کوئی بات نہیں

شاعر: جاشار اختر۔ پسند: صبوحی کاظمی۔ کراچی

### یاد رکھنے کی باتیں

(1) بے وقوف آدمی کی دوستی سے بچو۔ کیونکہ کوئلہ اگر گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔

(2) بے شک بہت دیر تک سوچو لیکن سوچنے کے بعد تمہارا فیصلہ اٹل ہونا چاہیے۔

(3) مذہب دل میں ہوتا ہے سجدوں میں نہیں۔  
(4) جو غم گزر چکا ہے اس پر رنجیدہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں۔  
(5) کبھی کبھی مظلوم کا آنسو ظالم کی تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔

مرسلہ: مجاہد عباس نقوی۔ کراچی

### دہری خوشی

پٹھان (ایر ہوئیں سے) تمہاری شکل ہماری بیوی سے بہت ملتا ہے۔



# ”چٹ پی خبریں“

وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں.....

کیسے چاک کرتے ہیں۔

ایمٹا بھ بچن کانیٹی وی شو

ایمٹا بھ بچن 72 سال کے ہونے کے باوجود  
ابھی تک اپنے فینز کے دلوں کی دھڑکن بنے



ہوئے ہیں۔ تب ہی تو فلموں کے علاوہ ٹی وی  
چینلز پر بھی ان کا نام کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا  
ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق بہت جلد وہ ایک  
نئے ٹی وی شو آج کی رات ہے زندگی میں بطور  
مہمان اپنے مداحوں کو ایک خوبصورت سرپرائز  
دینے والے ہیں اس ٹی وی شو کے لیے انہوں

ڈاکٹر معید پیرزادہ

ڈاکٹر معید پیرزادہ جو کرنت افیئر کے شو  
کے اینکر ہیں پچھلے کچھ دنوں دہی کے ہسپتال میں



اپنے بے ہوش والد کے انگوٹھوں کے نشانات لیتے  
ہوئے ہسپتال کے کلوز سرکٹ کیمرے میں پکڑے  
گئے..... ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بد نیتی کے تحت  
والد کے انگوٹھوں کے نشانات نہیں لے رہے  
تھے..... بہر حال اب وہ واپس پاکستان آ چکے  
ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں جھوٹ اور  
دھوکا جو سیاست دان ہمیں دیتے ہیں اس کا پردہ



رہے تھے جتنا انہیں دینا چاہیے اور اس کی وجہ ان کی بے پناہ مصروفیات تھیں اپنی آنے والی فلم کے 'شاندار' کے پروموشن میں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ جھلک دکھلا جا۔ میں بطور سیلبرٹی جج نے انہیں مزید مصروف کر دیا تھا لیکن پھر جب خوش قسمتی سے شاندار کا ایک پروموشن جب لندن میں اریج کیا گیا تو شاہد نے موقعے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی دلہنیا کو بھی اپنے ساتھ لندن لے گئے اور یوں اب یہ نیا نویلا جوڑا وہاں کی پرفیکٹ ٹھنڈی فضاؤں میں بہت خوبصورت وقت گزار رہا ہے۔

ایشوریہ رائے کا جذبہ

سابق ملکہ حسن مشہور فلمسٹار اور بچن خاندان کی اکلوتی بہو 41 سالہ ایشوریہ رائے آج کل اپنی



Downloaded From  
Paksociety.com

نے ایک چینل سے معاہدہ کر لیا ہے اور ان کے مداح نومبر میں اس شو سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔

احمد شہزاد کی شادی خانہ آبادی

احمد شہزاد 10 ستمبر کو رشتہ اردواج میں منسلک ہو گئے لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں اپنے بچپن



کی دوست شامرا کی ہمراہی میں بہت مگن تھے سبزے رنگ کی شیروانی اور سفید پاجامہ زیب تن کیے اپنی دلہن جنہوں نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا بہت مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اس طرح شاد و آباد رہیں۔

شاہد کپور

شاہد کپور اپنی نئی نولی دلہن کو وہ وقت نہیں دے پا



نئے آنے والی فلم جذبہ کے لیے بہت پر جوش دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ پانچ سال بعد اس فلم کے ذریعے واپس آ رہی ہیں۔ عرفان خان، ان کے کو اسٹار ہیں۔ حالانکہ انڈسٹری میں ایکٹنگ کے معاملے میں عرفان خان کے سامنے بڑے بڑے آرٹسٹ اپنی ہار مانتے نظر آتے ہیں لیکن جذبہ میں ایکٹنگ کرتے ہوئے عرفان خان ایش سے کافی امپریس نظر آئے۔

دوشیزہ 256

READING  
Section





نادیہ طارق

اور نمک مرغی پر اچھی طرح لگا کر رکھ دیں۔ ایک دیکھی میں ایک کپ تیل ڈال کر باریک کٹی ہوئی پیاز کو گولڈن براؤن کر لیں۔ اب مسالے لگی چکن پر کارن فلاور چھڑک کر تیزی سے فرائی کریں اور دس سے پندرہ منٹ تک گلنے کے لیے چھوڑ دیں۔

اب کڑھی تیار کرنے کے لیے ایک علیحدہ دیکھی میں دہی پھینٹ لیں پھر اس میں بانی پسا ہوا مسالہ اور بیسن شامل کر لیں اور دو سے تین کپ پانی شامل کر کے پتلا آمیزہ بنالیں اور تیز آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیں۔ لکڑی کے چمچے سے مستقل پلاتی رہیں تاکہ گٹھلیاں نہ پڑیں۔

ابال آنے پر مزید پندرہ منٹ تک چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دیں۔ ہرا دھنیا، ہری مرچیں باریک کاٹ کے رکھ لیں بگھار کے لیے فرائی پان میں آدھا کپ تیل گرم کر کے اس میں پیاز تیل لیں پھر اس میں کری پنا سفید زیرہ اور ثابت لال مرچ ڈال دیں۔ اب ایک ڈش میں چکن ڈالیں اوپر سے کڑھی ڈالیں اور پھر بگھار ڈال دیں ساتھ ہی ہری مرچ اور دھنیا بھی چھڑک کر گرم نان یا چاول کے ساتھ سرو کریں۔

بریڈ دہی بڑے

12 عدد  
1/2 لیٹر

اشیاء:

بریڈ سلائس .....  
دودھ .....

اس بار ہم اپنے ”کچن کارنز“ میں کچھ ایسی اشیاء کی تراکیب دے رہے ہیں جن کی بدولت آپ اپنے دوستوں اور عزیزوں کی ایک اچھی دعوت کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ اہتمام آپ کو کیسا لگا؟

### مزید ارچکن کڑھی

اشیاء:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| مرغی .....           | 1/2 کلو          |
| بیسن .....           | 1/4 کلو          |
| دہی .....            | 1/4 کلو          |
| لبسن (پسا ہوا) ..... | 2 کھانے کے چمچے  |
| ادرک (پسا ہوا) ..... | 1 کھانے کا چمچ   |
| گرم مسالہ .....      | 1/2 کھانے کا چمچ |
| پسی ہوئی مرچ .....   | 2 کھانے کے چمچے  |
| ہلدی .....           | 1/2 کھانے کا چمچ |
| نمک .....            | حسب ذائقہ        |
| کارن فلور .....      | 3 کھانے کے چمچے  |
| سفید زیرہ .....      | 1/2 کھانے کا چمچ |
| ثابت لال مرچیں ..... | 6-8 عدد          |
| پیاز .....           | ایک عدد بڑی      |
| ہری مرچیں .....      | باریک کٹی ہوئیں  |
| ہرا دھنیا .....      | باریک کٹا ہوا    |

ترکیب:

پہلے چکن کو دھو کر چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کی صورت میں کاٹ لیں۔ پسا ہوا لبسن اور ک’ مرچیں گرم مسالہ



# پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

## یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریڈیو ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سپریم کوالٹی، نارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسجے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

↳ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library for Pakistan



Like us on  
Facebook

[fb.com/paksociety](http://fb.com/paksociety)



[twitter.com/paksociety](http://twitter.com/paksociety)



دہی ..... 1/2 لیٹر  
 نمک ..... حسب ضرورت  
 کٹھے ہوئے کاجو ..... 2 کھانے کے چمچے  
 کشمش ..... 2 کھانے کے چمچے  
 ادراک کٹی ہوئی ..... 1 چائے کا چمچ  
 ہر ادھنیا ..... 2 کھانے کے چمچے  
 ہری مرچ ..... 2 کھانے کے چمچے  
 زیرہ بھنا ہوا ..... 1 کھانے کا چمچ  
 کوکنگ آئل ..... تلنے کے لیے

ترکیب:

برینڈ سلائس کے کنارے کاٹ لیں، ایک پیالے میں کاجو، کشمش، ادراک، باریک کٹی ہوئی ہری مرچ، باریک کٹا ہوا ہر ادھنیا اور زیرہ پاؤڈر ڈال کر آمیزہ بنالیں۔ دودھ میں نمک ڈالیں اور ہر سلائس کو اس میں بھگو کر ہاتھ سے دبائیں تاکہ اضافی دودھ نکل جائے۔ آمیزہ ان ٹکڑوں کے دونوں طرف سے لگا کر تیز گرم آئل میں فرائی کر کے نکالتی جائیں۔ (یاد رہے گولڈن براؤن کر کے) اب ڈش میں نکالیں اوپر سے دہی میں ہلکا سا نمک ملا کر اس پھینٹے ہوئے دہی کو سلائس کے اوپر ڈال دیں اوپر سے چاٹ مسالہ اور ہری چٹنی سے گارنش کریں۔ موسم گرما میں یہ ڈش یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔

### پوٹیشو چکن

اشیاء:

مرغی ..... ایک کلو  
 آلو ..... ایک کلو  
 انڈے ..... تین عدد  
 گھی یا تیل ..... حسب ضرورت  
 ادراک ..... پچیس گرام  
 ڈبل روٹی کا چورا ..... حسب ضرورت  
 سرخ مرچ ..... حسب خواہش  
 لہسن ..... دس گرام  
 نمک ..... حسب خواہش  
 سیاہ مرچ ..... حسب ضرورت

ترکیب:

لہسن اور ادراک باریک پیس لیں۔ آلو الگ برتن میں اباں لیں۔ آلو چھیل کر اس میں سیاہ مرچ، نمک، ادراک، لہسن ڈال کر مکس کر لیں اور یہ آمیزہ الگ رکھ لیں۔ اب مرغی کے ٹکڑے دھو کر ان پر لہسن، نمک، مرچ اور ادراک لہسن کا پیسٹ خوب اچھی طرح مل کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔

اب ایک گھنٹے کے بعد مرغی کے ٹکڑوں پر آلو کا آمیزہ اچھی طرح سے لگائیں۔ انڈے پھینٹ کر ٹکڑے اس میں ڈبوئیں۔ پھر ڈبل روٹی کے چورے میں لپیٹ کر فرائی پان میں تیل گرم کر کے فرائی کریں۔ سنہری ہو جانے پر اتار لیں۔ گرم گرم چٹنی کے ساتھ سرو کریں۔

☆☆.....☆☆

### کرپسی بینگن

اشیاء:

بینگن ..... 2 عدد  
 نمک ..... حسب ذائقہ  
 چاول پے ہوئے ..... 2 چائے کے چمچے  
 آٹا ..... 2 کھانے کے چمچے  
 سرخ مرچ پاؤڈر ..... 1/2 چائے کا چمچ  
 تھام ..... 1/2 چائے کا چمچ  
 چاٹ مسالہ ..... حسب ذائقہ  
 تیل ..... فرائی کرنے کے لیے

ترکیب:

بینگن گول سلائس کی شکل میں کاٹ لیں اور نمک